

بچوں اور بڑوں کے

# برکت والے نام

ناموں کے اندر اسم الہی اور عملیات کی تاثیرات

علم الاعداد

برجوں کا علم

وظائف  
اسما الحسنیٰ  
سے علاج

غیر موافق  
ستارے  
اور برج

متعلقہ برجوں  
سے  
تعلقات

ناموں کے  
انگلش سپیلنگ

سید علی حسین شاہ

فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



FARID BOOK DEPOT  
(Pvt.) Ltd.



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



فرین بک ڈپو  
(پرائیویٹ) لمیٹڈ



آہل سنت والجماعت اسلامک کتب خانہ  
تحقیقاتی کتابیں  
ریگورس جماعتیں اور مذاہب  
میرزا عبد الغفار علی بیگ  
بڑا بازار، یاقوت پورہ، حیدرآباد  
فون: 9396889310، کتاب نمبر: ---



## Sunni Islamic Library

Bada Bazar Yakutpura, Hyd.

Mirza Abdul Gaffar Ali Baig

Cell 9396889310 Book No-----

ناموں کے اندر اسم الہی اور عظمت کی تاثیرات

بچوں اور بڑوں کے  
برکت والے نام

سید علی حسین شاہ

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ  
FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.  
NEW DELHI-110002

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب

بچوں اور بڑوں کے

# برکت والے نام

از: سید علی حسین شاہ

قیمت: ۱۲۰ روپے

صفحات: ۱۲+۳۵۶

طبع اول: ستمبر ۲۰۰۴ء

باہتمام

محمد ناصر خان

Name of the book

## Bachchon Aur Badon Ke BARKAT WALE NAAM

By: Sayyid Ali Husain Shah

1st Edition: September, 2004

Pages: 12+456

Price: Rs. 120/-

Size: 23x36/16



فرید بک ڈپوٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ

**FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.**

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2

Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998 Res.: 23262486

E-mail: farid@ndf.vsnl.net.in Websites: faridexport.com, faridbook.com

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-6

انتساب!

اللہ تعالیٰ

اور

اس کے آخری نبی

حضرت محمد ﷺ

کے نام

# فہرست

صفحہ	عنوان
39	تپ و لرزہ کے بخار کے توڑ کیلئے
39	پستانوں کے درد کے خاتمہ کیلئے
41	دل کے تمام عارضوں کے خاتمہ کیلئے
41	بانجھ پن کے خاتمہ کیلئے
42	حیض کی بے اعتدالی درست کرنے کیلئے
42	حیض کی کثرت کو روکنے کیلئے
43	رحم فرج کو راندنام نہالی کی خدش کے خاتمہ کیلئے
44	رحم اور فرج میں رسولیوں کے خاتمہ کیلئے
44	شرمگاہ میں ورم کیلئے
45	رحم کا اپنے مقام سے ہٹ جانے کیلئے
45	رحم میں پانی یا ہوا بھر جانے کیلئے
46	فرج میں پھوڑے پھنسیوں کے خاتمہ کیلئے
46	زیر ناف درد کے خاتمہ کیلئے
47	نبی کریم ﷺ کی زیارت کیلئے
48	خاتمہ بالا ایمان ہونے کیلئے
48	دلوں کو تسخیر کرنے کیلئے
49	شوہر کی اصلاح کرنے کیلئے
50	ہر نیک مقصد کے حصول کیلئے
50	غرمت سے نجات حاصل کرنے کیلئے
50	اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہنے کیلئے
51	دشمن کو زیر کرنے کیلئے
52	جادو ٹوٹنا اور آسیب کے وار سے بچنے کیلئے
52	قرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے

صفحہ	عنوان
5	کوئی تعداد کس برج ستارے سے ملتا ہے
7	پیش لفظ
9	جدول حروف ابجد

## حصہ خواتین

13

### باب اول

13

عدد 1 سے تعلق رکھنے والی خواتین

23

### باب دوم

23

عدد 4 سے تعلق رکھنے والی خواتین

33

عدد 1 اور 4 خواتین کا مختصر خاکہ

33

عدد 1 اور 4 خواتین کا روحانی قال نامہ

34

انگوٹھی میں مد کروا کر رکھنے والی دعا

34

خواتین کے کرنے والے عملیات

35

خواتین کو پیش آنے والی بیماریاں

35

امراض قلب سے مکمل نجات کیلئے

36

گلے کے تمام امراض کے خاتمہ کیلئے

37

مٹانے کی بیماریوں کا خاتمہ

37

ریڑھ کی ہڈی کی شفا کے لیے

39

پیدہ گفتاروں کی مکمل نظر بند کا خاتمہ

39

شادی اور اچھے رشتے کے حصول کیلئے

39

محبوب سے شادی کرنے کیلئے

39

بعد ولادت دودھ میں زیادتی کیلئے

83	اللہ کی رحمت حاصل کرنا
84	قوت ذہن کیلئے
84	دل و دماغ کو نیک راستے پر مائل کرنے کیلئے
85	تبادلے میں منسوخی کیلئے
86	سوسٹیفوں کا ایک ہی وظیفہ
86	نفسانی خواہشات کے خاتمے کیلئے
87	عذابِ قبر سے نجات کیلئے
87	دشمنوں سے حفاظت کیلئے
88	زیارت بزرگانِ دین اور چلہ کرنے کیلئے
88	ہر طرح کی برکت حاصل کرنے کیلئے
	عدد 2 اور 7 کی دوستِ خواتین
89	عدد 1 ستارہ شمس برج اسد
90	عدد 4 ستارہ شمس برج اسد
90	عدد 5 ستارہ عطارد برج سنبلہ و جوزا
93	<b>باب پنجم</b>
93	عدد 3 سے تعلق رکھنے والی خواتین
103	ان خواتین کا خاکہ
104	ان خواتین کا روحانی فال نامہ
105	ایچھے رشتے کے حصول کیلئے
105	روزگار کو بڑھانے کیلئے
106	ہر مرض سے شفا حاصل کرنے کیلئے
107	نظر بند سے مکمل نجات
107	ہر طرح کی فتح حاصل کرنے کیلئے
108	زبان بندی کرنے کیلئے

53	ایچھے رشتے کے حصول کیلئے
	<b>خواتین کی دوستِ خواتین</b>
53	عدد 2 ستارہ قمر برج سرطان
54	عدد 7 ستارہ قمر برج سرطان
54	عدد 3 ستارہ مشتری برج قوس و حوت
55	عدد 9 ستارہ مریخ برج حمل و عقرب
56	عدد 1 اور 4 کی مخالف خواتین
56	عدد 6 ستارہ زہرہ برج ثور و میزان
56	عدد 8 ستارہ زحل برج جدی و دلو

59	<b>باب سوم</b>
59	عدد 2 سے تعلق رکھنے والی خواتین

68	<b>باب چہارم</b>
68	عدد 7 سے تعلق رکھنے والی خواتین
77	عدد 2 اور 7 سے منسوب خواتین
79	ان خواتین کا روحانی فال نامہ
80	ایچھے رشتے کے حصول کے لیے
80	سٹفل علم کا مکمل خاتمہ
81	روزگار کو بڑھانے کیلئے
81	ہر مرض سے شفا حاصل کرنے کیلئے
82	نظر بند سے مکمل نجات
82	ہر طرح کی فتح حاصل کرنا



- 127 عدد 5 ستارہ عطار درج سنبہ اور جوزا  
 127 خواتین کا خاکہ  
 128 ان خواتین کا روحانی فال نامہ  
 129 رشتے کے حصول کیلئے  
 129 ہر مرض سے شفا حاصل کرنے کیلئے  
 130 نظر بد سے مکمل نجات کیلئے  
 130 تباہی کی منسوخی کیلئے  
 131 سووظیفوں کا ایک ہی وظیفہ  
 131 زیارت نبی کریم ﷺ  
 132 اپنے شوہر کا دل جیتنے کیلئے  
 132 شیطانی وسوسوں کے خاتمے کیلئے  
 132 جادو ٹونڈ، مسان، آسب کا مکمل خاتمہ  
 133 عدد 5 خواتین کی دوست خواتین  
 134 عدد 5 کی مخالف خواتین

### 137 باب ساتواں

- 137 عدد 6 سے تعلق رکھنے والی خواتین  
 147 ان خواتین کا روحانی فال نامہ  
 149 ان خواتین کا خاکہ  
 150 اپنے نکاح کو کھولنے کیلئے  
 150 سطلی علم کا مکمل خاتمہ  
 151 اپنے روزگار کو بڑھانے کیلئے  
 151 ہر مرض سے شفا حاصل کرنے کیلئے  
 152 نظر بد سے مکمل نجات کیلئے  
 152 ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے کیلئے

- 109 اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو  
 109 قوت ذہن اور حافظہ کیلئے  
 109 دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانے کیلئے  
 110 تباہی کی منسوخی کیلئے  
 110 تباہی کروانے کیلئے  
 111 دین میں استقامت  
 111 سووظیفوں کا ایک ہی وظیفہ  
 112 عذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کیلئے  
 112 ڈراؤنے خوابوں کے خاتمے کیلئے  
 113 زیارت رسول کریم ﷺ کیلئے  
 113 دسویں شیطانی کو دور کرنے کیلئے

### عدد 3 کی دوست خواتین

- 114 عدد 1 ستارہ شمس برج اسد  
 114 عدد 4 ستارہ شمس برج اسد  
 115 عدد 2 ستارہ قمر برج سرطان  
 115 عدد 7 ستارہ قمر برج سرطان  
 116 عدد 9 ستارہ مریخ برج حمل و عقرب  
 117 عدد 3 کی مخالف خواتین  
 117 عدد 5 ستارہ عطار درج سنبہ اور جوزا  
 117 عدد 4 ستارہ زہرہ برج ثور اور میزان

119

### باب ششم

- 119 عدد 5 سے تعلق رکھنے والی خواتین

176 عدد 8 کی دوست خواتین

177 عدد 8 کی مخالف خواتین

181

## نوال باب

181 عدد 9 سے تعلق رکھنے والی خواتین

191 ان خواتین کا روحانی فال نامہ

192 ان خواتین کا خاکہ

193 اچھے رشتے کے حصول کیلئے

193 محبوب سے شادی کرنے کیلئے

194 روزگار بڑھانے کیلئے

194 ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

195 نظریہ سے کھل نجات کیلئے

195 ہر کام میں فتح حاصل کرنے کیلئے

195 اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

195 دل و دماغ کو نیک راستے میں لگانے کیلئے

196 تباہی کی منسوخی کیلئے

196 دین پر ثابت قدم رہنے کیلئے

197 دفع نفسانی خواہشات کیلئے

197 زیارت نبی کریم ﷺ کیلئے

197 سفل علم کے تعویذوں کے خاتمہ کیلئے

198 چلہ کرنے کیلئے

198 شیطانی شر سے محفوظ رہنے کیلئے

198 عدد 9 کی دوست خواتین

201 عدد 9 کی مخالف خواتین

202 اگر جیض بند ہو جائے

153 اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

153 تباہی کی منسوخی کیلئے

153 دین پر استقامت کیلئے

154 شیطانی وسوسوں کے خاتمے کیلئے

154 سوہ ظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

154 عدد 6 کی دوست خواتین

155 عدد 6 کی مخالف خواتین

159

## آٹھواں باب

159 عدد 8 سے تعلق رکھنے والی خواتین

170 ان خواتین کا روحانی فال نامہ

170 ان خواتین کا خاکہ

171 اچھے رشتے کے حصول کیلئے

172 روزگار بڑھانے کیلئے

172 ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

173 نظریہ سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے

173 ہر طرح کی فتح حاصل کرنے کیلئے

173 اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

174 قوت و ذہن کے حصول کیلئے

174 تباہی کی منسوخی کیلئے

174 نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کیلئے

175 حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت کیلئے

175 نذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کیلئے

175 سوہ ظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

175 چلہ کرنے کیلئے

176 دل و دماغ کو نیک راستے پر مائل کرنے کیلئے

208	نزلے زکام سے چھٹکارہ پانے کیلئے
208	کھانسی تر کے مکمل خاتمے کیلئے
208	کھانسی خشک کے خاتمے کیلئے
209	بلغمی کھانسی کے خاتمے کیلئے
209	کانی کھانسی کے خاتمے کیلئے
209	یرقان کے خاتمے کیلئے
209	خزالی جگر کے خاتمے کیلئے
209	فالج کے خاتمے کیلئے
209	لقوئے کے خاتمے کیلئے
210	خزالی خون کے دفعیہ کیلئے
210	زخموں کی لاجواب مرہم کیلئے

## 211 حصہ مرد حضرات

213

### باب اول

213 عدد 1 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

227

### باب دوم

227 عدد 4 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

242 عدد 1 اور 4 رکھنے والے مرد حضرات کا  
فال نامہ

244 عدد 1 اور 4 رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ

عدد 1 اور 4 سے منسوب مرد حضرات کے

245

عملیات

245 اگر ان افراد کو کوئی لڑکی کا رشتہ نہ دیا جاوے

202	لیکچور یا کے خاتمے کیلئے
202	استسقاء حمل کے خاتمے کیلئے
203	حاملہ خواتین کیلئے بے مثال چورن
203	بانجھ پن کیلئے
203	ہسٹریا کے خاتمے کیلئے
203	دوران حمل خون آنا
204	اندام نمائی میں خارش کے خاتمے کیلئے
204	ولادت میں آسانی پیدا کرنے کیلئے
204	خونی بادی یا امیر کے خاتمے کیلئے
204	سکتہ، مرگی اور بے ہوشی دور کرنے کیلئے
204	سر سام سے نجات کیلئے
205	پستانوں کا ڈھیلا پن ختم کرنے کیلئے
205	چھری گردہ اور مثانہ کے خاتمہ کیلئے
205	دسے سے نجات کیلئے
205	پیشاب کے ساتھ خون آنا
206	معدش پیشاب کیلئے
206	زیادتی پیشاب کے خاتمے کیلئے
206	شوگر کے خاتمے کیلئے
206	درد گردہ کے خاتمے کیلئے
206	چھری ختم کرنے کیلئے
207	پینٹ کی ریح ختم کرنے کیلئے
207	برہم کے خمار کے خاتمے کیلئے
207	باری کے خمار کے خاتمے کیلئے
207	تیجے کے خمار کے خاتمے کیلئے
208	لیبریا کے خاتمے کیلئے
208	بلغمی خمار کیلئے

- 253 زیارت نبی کریم ﷺ
- 254 وساوسِ شیطانی
- 254 حصولِ ملازمت کیلئے
- 254 پہلا اور آخری چلہ
- 255 عدد 1 اور 4 مرد حضرات کے دوست افراد
- 258 عدد 1 اور 4 مرد حضرات کے مخالف افراد
- باب سوم**
- 261 عدد 2 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات
- باب چہارم**
- 275 عدد 7 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات
- 288 عدد 2 اور 7 مرد حضرات کا قال نامہ
- 289 عدد 2 اور 7 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ
- عدد 2 اور 7 مرد حضرات کے عملیات
- 290 چادوسے محفوظ رہنے کیلئے
- 291 معدہ کی بیماری ختم کرنے کیلئے
- 291 سانس کی بیماری کیلئے
- 291 گردوں کی بیماری کیلئے
- 292 گھٹنوں کی بیماری کیلئے
- 292 غلہ کی تمام بیماریوں کے خاتمے کیلئے
- 293 دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانے کیلئے
- 293 چاولے کی منسوخی کیلئے
- 298 حاسد اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے

- 245 ان افراد کو عقلی علم کے ذریعے مدد کیا ہو
- 246 ترقی روزگار اور برکت کیلئے
- 246 ہر مرض سے شفاء کیلئے
- 246 رنج و غم سے نجات کیلئے
- 247 نظریہ سے مکمل نجات کیلئے
- 247 ہر طرح کی توجہ حاصل کرنے کیلئے
- 248 اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں کفیل ہو
- 248 اختلاجِ قلب کیلئے
- 248 قوتِ ذہن و امتحان کیلئے
- 249 دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانا
- 249 چاولے کی منسوخی کیلئے
- 249 حاسد یا دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے
- 250 جسم میں گرمی کے توڑ کیلئے
- 250 شوگر کے خاتمہ کیلئے
- 250 بلڈ پریشر کا خاتمہ
- 251 سوئیچوں کا ایک وظیفہ
- 251 امراضِ سینہ کے ہر مرض کیلئے
- 251 دفعِ احتلام کیلئے
- 252 دردِ دانت سے نجات کیلئے
- 252 عذابِ قبر سے نجات کیلئے
- 252 فحش گفتاری کی عادت سے چھٹکارا
- 252 دفعِ بلبلم کیلئے
- 252 ڈراؤنے خواب اور حصار کیلئے
- 253 تنگیِ معاش کا خاتمہ
- 253 اضافہِ علم
- 253 دفعِ بواسیر

- 294 نامردی کے خاتمے کیلئے
- 295 شوگر کے خاتمے کیلئے
- 295 سو وظیفوں کا ایک وظیفہ
- 295 زیارت حضور نبی کریم ﷺ
- 296 برائے امساک
- 296 ان افراد کو تعویذات پلائے گئے ہوں
- 296 سفر میں رکاوٹ دور کرنے کیلئے
- 297 اگر ایک ہی فرد کی نظر لگی ہو
- 297 بھدا پتھرہ خوبصورت بنانے کیلئے
- 298 تسخیر و جب
- 298 ان افراد کے دشمنوں کے خاتمے کیلئے
- 299 ان افراد کی زبان بندی کیلئے
- 299 ترقی رزق دروزی و حصول ویرکت کیلئے
- 300 ادائیگی قرض کیلئے
- 300 عدد 2 اور 7 مرد حضرات کے دوست افراد
- 303 عدد 3 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات
- 316 عدد 3 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ
- 317 عدد 3 رکھنے والے مرد حضرات کا فال نامہ
- 318 عدد 3 سے متعلق مرد حضرات کے عملیات
- 318 گنٹھیا کے خاتمے کیلئے
- 318 ہاضمے کی خرابی
- 319 پرانا زلہ و زکام
- 319 حلق کی بیماری
- 320 پھیپھڑوں کی بیماریاں
- 321 اپنے محبوب کو مطیع و فرمانبردار بنانے کیلئے
- 321 مخالف کو مغلوب کرنے کیلئے
- 322 مخالف کی زبان بندی کرنے کیلئے
- 323 ترقی رزق دروزی اور ویرکت کیلئے
- 323 قرض کی ادائیگی کیلئے
- 324 خاتمہ جاوود آسب زوگان بحر و غیرہ
- 324 درد بدن کے خاتمے کیلئے
- 325 ملک سے باہر جانے کیلئے
- 325 زیارت حضور نبی کریم ﷺ
- 326 مفرد کو واپس لانے کیلئے
- 326 دل کی گھبراہٹ اور تمام عارضوں سے نجات کیلئے
- 326 بو اسیر کے خاتمے کیلئے
- 327 حفاظت مکان و نظریہ کا خاتمہ
- 328 بو اسیر کے خاتمے کیلئے
- 329 حافظے کی زیادتی کیلئے
- 329 خاتمہ نامردی کیلئے
- 329 کوئی بھی اسلمہ اٹھ کرے
- 330 عدد 3 مرد حضرات کے دوست افراد
- 330 عدد 3 سے متعلق مرد حضرات کے مخالف افراد
- 334
- 335
- 335 عدد 5 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات
- 348 عدد 5 رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ
- 349 عدد 5 رکھنے والے مرد حضرات کا فال نامہ

## باب پنجم

- 380 اسماں سے نجات کیلئے  
380 عارضہ قلب سے نجات  
380 ہر مقصد حاصل ہو  
381 قرض سے مکمل نجات  
381 تنغیر محبوب کیلئے  
382 دشمن کو زیر کرنے کیلئے  
383 برائے زبان بدمی  
383 ترقی و فراخی رزق کیلئے  
384 آسب کے خاتمے کیلئے  
384 گھر اور دکان کی ہر طرح سے حفاظت کیلئے  
385 مسان سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے  
386 ہر مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو  
386 زیارت نبی کریم ﷺ  
386 مفروز کو واپس لانے کیلئے  
387 دفع مرگی  
387 یواسیر کے خاتمے کیلئے  
388 نظریہ کا مکمل خاتمہ  
388 ناف ٹل جانے کیلئے  
389 دکان کی ترقی کیلئے  
389 سقلی علم کے ذریعے ہمت ہوتا

390 عدد 6 مرد حضرات کے دوست افراد

391 عدد 6 مرد حضرات کے مخالف افراد

395

### ساتواں باب

395 عدد 8 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

409 عدد 8 سے متعلق مرد حضرات کا خاکہ

350 عدد 5 سے متعلق مرد حضرات کے عملیات

350 آٹھ تعویذات سے مکمل شفاء

352 تنغیر و حجب کیلئے

353 دشمنوں کو مغلوب کرنے کیلئے

353 مخالف کی زبان بدمی کیلئے

354 برکت رزق و روزی کیلئے

354 قرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے

355 ہر طرح سے حفاظت میں رہنے کیلئے

356 درد شقیقہ کے مکمل خاتمے کیلئے

356 مسان کے خاتمے کیلئے

357 حصول ہر حاجت کیلئے

357 خاتمہ یواسیر کیلئے

358 خار کے جڑ سے خاتمے کیلئے

358 دل کے تمام عارضوں کا خاتمہ

359 چوری سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے

359 دین پر استقامت کیلئے

359 اساک پیدا کرنے کیلئے

360 عدد 5 مرد حضرات کے دوست

362 عدد 5 کے مخالف افراد

365

### باب چھٹا

363 عدد 6 سے متعلق مرد حضرات کے عملیات

365 عدد 6 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

379 عدد 6 مرد حضرات کا مثال نامہ

379 درد گرد و پتھری کا خاتمہ

- 443 اگر ان افراد کو کسی سے محبت ہو جائے  
 443 قاطع محبت  
 444 دشمن کو مغلوب کرنے کیلئے  
 445 ترقی رزق و روزی کیلئے  
 445 ادا ہوگی قرض کیلئے  
 446 آسیب سے نجات کیلئے  
 446 کوئی بھی اسلحہ اثر نہ کرے  
 447 قید سے رہائی حاصل کرنے کیلئے  
 447 مسان سے حفاظت کیلئے  
 448 ہر طرح کی حاجت پوری ہونے کیلئے  
 448 زیارت نما کریم ﷺ  
 449 مفروضہ کو واپس بلانے کیلئے  
 449 مرگی کے خاتمے کیلئے  
 450 بواسیر کے خاتمے کیلئے  
 450 ناف نل جانے  
 451 تلی بڑھ جانے کیلئے  
 451 دوکان اور مکان کی ہر طرح سے حفاظت کیلئے  
 451 چور کو پکڑنے کیلئے  
 452 بڑی سے بڑی مشکل کا خاتمہ  
 452 عدد 9 افراد کے دوست افراد  
 456 عدد 9 کے مخالف افراد

- 410 عدد 8 مرد حضرات کا فال نامہ  
 410 محبت میں کامیابی کیلئے  
 412 غلبہ دشمن کیلئے  
 413 دشمنوں کی زبان بند کرنے کیلئے  
 413 رزق کی فراخی کیلئے  
 414 ادا ہوگی قرض کیلئے  
 415 چور کو پکڑنے کیلئے  
 415 توفیق اطاعت اللہ و رسول ﷺ کیلئے  
 416 نظربند کے خاتمے کیلئے  
 416 ناف نل جانے کیلئے  
 416 مکان اور دوکان کی ہر طرح سے حفاظت کیلئے  
 417 بواسیر کے مکمل خاتمے کیلئے  
 418 عدد 8 مرد حضرات کے دوست افراد  
 419 عدد 8 کے مخالف افراد

425

### آٹھواں باب

- 425 عدد 9 سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات  
 438 عدد 9 رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ  
 439 ان افراد کا روحانی فال نامہ  
 440 ان افراد کی بیماریوں کیلئے  
 440 اعصابی بیماریوں کے خاتمے کیلئے  
 441 السر کے خاتمے کیلئے  
 441 درد سر سے نجات کیلئے  
 442 ہر قسم کے پھوڑے کا خاتمہ  
 442 کان سے متعلق ہر بیماری کا علاج



## کونسا عدد کس برج و ستارے سے ملتا ہے



★ عدد 1 و 4 ستارہ شمس، برج اسد

★ عدد 2 و 7 ستارہ قمر، برج سرطان


★ عدد 3 ستارہ مشتری، برج قوس و جدوت

★ عدد 5 ستارہ عطارد، برج سنبلہ و جوزا

★ عدد 6 ستارہ زہرہ، برج ثور و میزان

★ عدد 8 ستارہ زحل، برج جدی و دلو

★ عدد 9 ستارہ مریخ، برج حمل و عقرب





## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### پیش لفظ

دنیا میں ایسا کون شخص ہوگا جو نام کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو۔ ہم سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ جس سے ہمیں پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کا تذکرہ اس وقت تک نامکمل بلکہ مہمل ہوتا ہے۔ جب تک اس کا نام نہ لیا جائے۔ نام صرف انسانوں ہی کے نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز اور ہر جگہ کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ نام کی اہمیت ہماری زندگی میں اس قدر زیادہ ہے۔ کہ اگر نام نہ ہو تو ہم سب کی زندگی ناقابل بیان حد تک مشکل اور پریشان کن ہو جائے۔ ناموں سے ہماری زندگی میں معانی پیدا ہوئے۔ اگر زندگی سے ناموں کو منہا کر دیا جائے تو زندگی بے معنی اور مہمل ہو کر رہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کسی کی شادی پر بھیجنا چاہوں اور نام بتائے بغیر بس اتنا کہہ دوں کہ فلاں شخص کی شادی پر چلیں جائیں تو یہ بات کہنا میرے لئے تو آسانی ہے۔ لیکن اس کے اندر معانی نہیں ہیں۔ آپ لفظ فلاں سے کیا سمجھ سکتے ہیں۔ کہ آپ کو کسی کی شادی پر بھیجا جا رہا ہے۔ بلکہ اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ سے کہوں کہ فلاں علاقے میں فلاں کے گھر فلاں کے بیٹے کی شادی ہے۔ فلاں دن فلاں وقت اس کی بارات ہے۔ اور فلاں اولاد لیمہ ہے۔ تو بات اور بھی زیادہ بے معنی ہو جائے گی۔ اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہونگے۔ کہ نام کی اہمیت ہم سب کی زندگی میں کس قدر زیادہ ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ نام کے بغیر ہم سب کی زندگی لامعنی اور بے مقصد بن کر رہ جاتی ہے۔ میری اس کتاب کا مقصد لفظ (فلاں فلاں) کی جگہ اصل ناموں کو رکھ کر آپ کو ٹھیک اس پتہ پر پہنچانا ہے۔ جہاں پہنچنے کیلئے ہر مرد و عورت بے تاب ہے۔ اس بے تالی کا ہونا بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہر شخص صحیح مقام پر پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور اس کا اسے حق بھی حاصل ہے۔ اس کتاب میں ہر مرد و عورت کیلئے ایسا طریقہ کار درج کیا گیا ہے۔ جس کا موجودہ دور میں

زندگی گزارنے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کم سے کم صفحات میں زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پڑھ کر تجربہ کریں گے۔ تو آپ کے سامنے فوائد ظاہر ہونگے۔ محنت اور لگن کے بعد حتمی فیصلہ ہر کسی کی قسمت پر ہوگا۔ البتہ درج شدہ مواد میں کسی بھی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح درج شدہ جدول میں سے کوئی بھی مرد و عورت اپنے نام کے حروف اجدد کی تعداد کے مطابق اپنے عدد نکالے اور اس کو مفرد عدد بنا کر اپنے متعلقہ عدد کے لحاظ سے اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم الہی کو وارد کرے۔ کتاب ہذا میں عوام الناس کیلئے سب سے بڑی جس چیز کو پہلی مرتبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ہر کسی مختلف نام سے مطابقت رکھنے والے اسم الہی کو وارد کرنا ہے۔ اس لئے سب کی سہولت کیلئے کوئی بھی اسم کتاب میں سے اپنے نام کو دیکھے اور اپنے نام کے آگے اسم الہی کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق ان کو وارد کرے۔ اور اگر کسی کو اپنا نام اس کتاب میں نہ ملے تو آگے جدول حروف اجدد کی مدد سے اپنے نام کے اعداد نکالے اور اس کو مفرد عدد بنا کر صرف اپنے عدد کی مناسبت سے اسم الہی کا وارد کرے۔ مثلاً کتاب میں کسی کا نام درج نہیں ہوا تو وہ صرف جدول حروف اجدد کی مدد سے اپنے نام کے اعداد نکالے اور پہلے سے لکھے ناموں کے اعداد دیکھے ان میں سے جو ان کا مفرد عدد بنے یہ افراد اپنے تمام کاموں سے متعلق عملیات اور اسم الہی کو وارد کریں۔ نام کا لکھا ہونا ضروری بھی ہے اور نہیں بھی لیکن ہر فرد اپنے عدد کے حساب سے اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیابی عطا کریں گے۔ انشاء اللہ

از

السید علی حسین شاہ بخاری

سجادہ نشین

حضرت پیر السید محمد شاہ گولڑے والا

## جدول حروف ابجد

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

ناموں کے عدد نکالنے والے اصولوں کی بھی پابندی کریں۔ اس صورت میں آپ کو اپنے نام کے صحیح اعداد کی رونمائی ہو سکے گی۔ اگر کسی کا نام عطاء ہو تو ہمزہ کا ایک عدد اس جدول سے حاصل کریں۔ اور اگر کسی خواتین کا نام نور النساء ہو تو اس میں ہمزہ ساکن ہے۔ اس کا کوئی عدد حاصل نہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کا ایک نام رحمن ہے یہ نام پڑھنے میں الف کو ظاہر کرے گا۔ اور لکھنے میں بھی رحمن اسی طرح لکھا جائیگا۔ اس کا بھی کوئی عدد نہیں ہوگا۔ اگر رحمان اس طرح ہو تو اس کا ایک عدد شمار ہوگا۔ اسی طرح سے ان مثالوں کو دیکھ کر اپنے نام کے اعداد پوری صحت کے ساتھ اس جدول میں سے حاصل کریں اس کلیہ سے نام کے اعداد کے مطابق اسم الہی کو درج کرنا آسان بن جائے گا۔ اور اگر نام کے اعداد نکالنے میں ایک عدد بھی بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو سارا مقصد ہی الٹ ہو جائے گا۔ اب صحیح اور ٹھیک طرح سے اپنے نام کے اعداد نکال کر اسکو مفرد عدد میں بنائیں اور آگے درج جدول سے لیکر اس عدد کے تمام افراد خواتین کے کرنے والے عملیات کریں۔ آپ اپنی محنت کے عوض اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تمام کے تمام نام اور عملیات جن اعداد کے بیان کئے جائینگے۔ وہ سب انہی ناموں کو فوائد ضرور بخشیں گے۔ جن کا اس عدد اور نام سے گہرا تعلق ہوگا۔ اور اس کتاب میں اس مثال کو مد نظر رکھ کر اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ جس کا تعلق کامیابی سے ہے۔ (جس کا کام اسی کو سا جھے) یعنی جس مرد و عورت کے کرنے والے عملیات ہیں۔ صرف ان ہی کو درج کیا گیا ہے۔ جن کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں۔

# حصہ خواتین

## عدد (1) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		حرف آ		
آبدار	ABDAR	چمک	208	الرحمن
آبرہ	ABRA	دلیل دینا	208	الملك
		<b>الف</b>		
اجیہ	AJYA	اچھی	19	المومن
ارجمند	ARIJUMAND	معزز	298	المہيمن
اروی	ARWA	اچھلنے کودنے والی	208	المقیت
افرشیم	AFRESHAM	ریشم	631	الجلیل
امالی	AMALI	آورش	82	المجیب
امید	UMMEED	آرزو	55	الولی
انورہ	ANWARA	منور	262	الواحد
		<b>ب</b>		
باصرہ	BASIRA	ہوش مند	298	الاول
برکت	BARAKAT	کثرت	622	الرحمن
برودہ	BAROODA	سرد	217	الملك
بہیرہ	BASEERA	عقلند	307	المومن
بلبل	BULBUL	پرندہ	64	الموہيمن
بہار	BAHAR	موسم گل	802	المقیت

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>پ</b>		
الجلیل	802	حصہ	PARA	پارہ
المجیب	514	قدیم	PASTAN	پاستان
الولی	271	دلربا	PAREEHAN	پریمان
		<b>ت</b>		
الواحد	478	تابع فرماں	TABIA	تابعہ
الاول	658	عزت دینا	TAHREEM	تحریم
الرحمن	1441	عرفی نام	TAMAZAR	تماضر
الملک	910	شان و شوکت	TAMKANAT	تمکنت
المومن	1117	پاکیزہ	TAHZEEB	تہذیب
		<b>ث</b>		
المہمین	523	ثواب والی	SOABIA	ثوبیہ
		<b>ج</b>		
المقیت	64	ڈونٹا سورج	JONA	جونہ
		<b>چ</b>		
الجلیل	118	حسین و جمیل	CHANDANI	چاندنی
		<b>ح</b>		
المجیب	19	رکھوالی	HAIJIBA	حاجبہ
الولی	6	حمایت کرنے والی	HAMIYA	حامیہ

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
حدیقہ	HADEEQA	باغ	127	الواحد
حسن	HUSN	جمال	118	الاول
حنان	HANAN	سرخنیاں	109	الرحمن
<b>خ</b>				
خالدہ	KHALIDA	جنت مکانی	640	الملک
خدیجہ	KHADEEJA	جوان سال	622	المومن
خلود	KHALOOD	مستقل	640	المہيمن
خمیلہ	KHAMEELA	چادر	685	المقیت
خیری	KHERI	پاک	820	الجلیل
<b>ر</b>				
ربیطہ	RABEETA	زائدہ	226	المجیب
رحیلہ	RAHEELA	چلنے والی	253	الولی
رعوفہ	RAOOFA	بوند باندی	361	الواحد
رکان	RAKAN	باحوصلہ	271	الاول
رازہ	RAMAZA	متحرک	153	الرحمن
رہسمان	REESMAN	ڈوری	361	الملک
<b>ز</b>				
زبادہ	ZABADA	خوشبو	19	المومن
زبیدہ	ZUBAIDA	پاک دامن	28	المہيمن

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المقیمت	424	شاداب	ZAR-RAIZ	زرزیز
الجلیل	478	سنہری	ZARNIGAR	زرنگار
المجیب	307	دولتمند	ZARMEEN	زرمین
الولی	217	بے مثال	ZARI	زری
الواحد	217	بلند مرتبہ	ZAHRA	زہرہ
الاول	19	سجاوٹ	ZAIB	زیب
الرحمن	478	ننھا پودا	ZETONA	زیتونہ
<b>س</b>				
الملک	73	سجدہ کرنے والی	SAJIDA	ساجدہ
المومن	136	صحت مند	SALIMA	سالمہ
المہیم	568	مسحور کن	SAHRISH	سحرش
المقیمت	145	سکون	SAKEENA	سکینہ
الجلیل	136	فریفتگی	SALAMA	سلامہ
المجیب	145	درست	SALEEMA	سلیمہ
الولی	100	ملائم	SAHLA	سہلہ
<b>ش</b>				
الواحد	766	سلیقہ شعار	SHAISTA	شائستہ
الاول	307	مثل	SHABA	شبہ
الرحمن	316	حیز طرار	SHAHZA	شہزادہ



اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الملک	595	نیک پارسا	SHREEFA	شریفہ
المہمین	316	سر سبز	SHATBA	شطبہ
المقیمت	415	روشن	SHAEELA	شعیلہ
<b>ص</b>				
الجلیل	298	بردار	SABIRA	صابرہ
الولی	436	روزہ دار	SAIMA	صائمہ
الواحد	307	صابرہ	SABEERA	صبیحہ
الاول	190	پیاری سی	SANEEM	صنیم
<b>ض</b>				
الرحمن	1045	نازک اندام	ZAMRA	ضمیرہ
الملک	1855	شیرنی	ZAIGHAMA	ضیغمہ
<b>ط</b>				
المومن	217	خوش	TAROOB	طروب
المہمین	424	خوبصورت	TARERA	طریرہ
المقیمت	82	ناز کرنے والی	TANNAZIA	طنازیہ
<b>ع</b>				
الجلیل	82	عبادت کرنے والی	AABIDA	عابدہ
المجیب	496	مہذب	AATIKA	عائکہ
الولی	109	جلدی کرنے والی	AAJILA	عاجلہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الواحد	316	شوخ	ARIMA	عارمہ
الاول	316	معمور	AAMIRA	عامرہ
الرحمن	91	وفادار	ABEDA	عبیدہ
الملك	118	عاجلہ	AJEELA	عجیلہ
المومن	145	بہادر	ADOOSA	عدوسہ
المہيمن	451	گانے والی چیزیا	ASFORA	عصفورہ
المقیت	550	قدر	IFFAT	عفت
الجلیل	316	بردار	AMMARA	عمارہ
المجیب	325	معمور	UMAIRA	عمیرہ
الولنی	136	بے آرام حرف غ	ANAIYA	عنایہ
الواحد	1054	دسترس	GHADAN	غدن
الاول	1126	خوبصورت	GHESANA	غیسانہ
<b>ف</b>				
الرحمن	100	وفادار	FADIA	فادیہ
الملك	145	ذہین و فطین	FATNA	فاطنہ
المومن	415	جوان عورت	FITAYYA	فتیہ
المہيمن	100	جاں نثار	FIDVI	فدوی
المقیت	343	ذہین	FARZANA	فرزانہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الجلیل	190	ہوشیار	FEHMAENA	فہیمہ
المجیب	901	فیض والی	FAYZA	فیوضہ
<b>ق</b>				
الولی	316	پڑھنے والی	QARIYA	قاریہ
الواحد	109	رہنما	QADH	قدہ
<b>ک</b>				
الاول	406	ظاہر کرنے والی	KASHIFA	کاشفہ
<b>ل</b>				
الرحمن	244	قیمتی پتھر	LAIWARD	لاجورد
الملک	136	قابل	LAIQA	لائقہ
المومن	145	روشنی	LAMA	لمعہ
المہیمن	541	روشنیاں	LAMAAT	لمعات
المقیت	145	ذہین	LAIQA	لائقہ
الجلیل	91	نازک اندام	LEENA	لینا
<b>ما</b>				
الجلیل	46	چاند	MAH	ماہ
المجیب	505	استوار	MATEENA	متینہ
الولی	163	احسان کرنے والی	MOHSINA	محسنہ
الواحد	82	دھلوانی چٹان	MAZLA	مزلہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الاول	946	ابن	MAZNON	مضنون
الرحمن	91	خواہش	MINA	منی
الملك	496	بلند مرتبہ	MUNTAHA	متہا
المومن	64	رہنما	MAHDIYA	مہدیہ
<b>ن</b>				
المہيمن	73	نازوالی	NAZIA	نازیہ
المقیت	154	نصیحت کرنے والی	NASIHA	ناصحہ
الجلیل	226	تازہ	NAQIA	ناقدہ
المجیب	55	صدا	NIDA	ندا
الولی	73	مانند	NADEEDA	ندیدہ
الواحد	109	رفیقہ	NADEEMA	ندیمہ
الاول	478	نازک پن	NAZAKAT	نازاکت
الرحمن	370	سفید پھول	NASREEN	نسرین
الملك	127	منفرو	NASEEBA	نسیبہ
المومن	154	پاکیزہ	NATEEFA	نطیفہ
المہيمن	64	نورانی	NAWAZ	نواز
المقیت	262	غنچہ	NAWARA	نوارہ
الجلیل	181	قیمتی پتھر	NEELMAN	نیلمان
المجیب	100	نیلگوں	NEELI	نیلی

اسم الہی	حروف اجدد	مطلب	انگریزی	نام
		و		
الولی	19	نبی بات نکالنے والی	WAJIDA	واجده
الواحد	712	میراث لینے والی	WARISA	وارثہ
الاول	316	شکفتہ	WASHIDA	واشده
الرحمن	721	عمدہ کپڑا	WASEERA	وشیرہ
الملک	64	جاننا	WIIDAN	وجدان
المومن	181	ملازمہ	WASFA	وصفہ
المہیمن	55	لڑکی	WALEEDA	ولیدہ
		ہ		
المقیت	46	نادر	HUMA	ہما
الجلیل	64	خوبصورت	HINDA	ہندہ
		ی		
المجیب	271	آسانی	YUSRA	یسری
الولی	100	خوش نعت	YAMAN	یمین

## عدد (4) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
<b>آ</b>				
آرا	AARA	سجانے والی	202	العزیز
آسیہ	AASIA	شہزادی	76	الشکور
<b>ا</b>				
اختر	AKHTAR	چنگدار	1201	الشہید
ادیبہ	ADEEBA	علم و ادب جاننے والی	22	المحصى
اریدہ	UREEDA	مراد	220	المحی
ارزش	ARZASH	قسمت	508	الممیت
افشا	IFSHA	ظاہر	382	الاحد
الہ	AMLA	ہانگی ہوئی	76	المقدم
امیرہ	AMEERA	بزرگ	256	البر
انجم	ANJUM	چنگدار	94	التواب
ایتاس	AITAS	متمدن	472	النور
انیقہ	ANEEQA	خوب	166	العزیز
<b>ب</b>				
بازعہ	BAZ-AA	بہت عمدہ	85	الشکور
باطنہ	BATINA	پوشیدہ	67	الشہید
بدرہ	BADRA	توزا	211	المحصى

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المحصى	553	بارش کا موسم	BARSHGAL	برشگال
المحی	517	خوشخبری سنانے والا	BASHEERA	بشیرہ
الممیت	202	حکمران	BALQEES	بلیس
الاحد	103	منہی منہی	BANAN	بانان
المقدم	22	روشن	BAHIYYA	بھیہ
<b>پ</b>				
البر	220	پری نما	PARIZA	پریزا
<b>ت</b>				
التواب	454	روشن	TABAN	تابان
النور	463	ظاہر	TABYAN	تبیان
العزیز	418	خوش	TAJIYA	تجیہ
الشکور	706	صورت مٹانا	TASWEER	تصویر
الشہید	670	عزت دینا	TAKREEM	تکریم
<b>ث</b>				
المحصى	517	کنواری	SIBA	شیبہ
<b>ج</b>				
المحی	220	گنگن	JABEERA	جمیرہ
الممیت	94	موتی	JAMAN	جمن

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		چ		
الاحد	58	مستاب	CHAND	چاند
		ح		
المقدم	814	عقلمند	HAZIQA	حازقہ
البر	274	حافظہ	HARIMA	حارمہ
التواب	994	محفوظ	HAFIZA	حافظہ
النور	58	مدح کرنے والی	HAMIDA	حامدہ
العزیز	13	دوستی	HIBAB	حباب
الشکور	418	ریشم	HAREER	حریر
الشہید	85	حساب کرنے والی	HASEEBA	حسیبہ
المحصى	1003	حافظہ	HAFEEZA	حفیظہ
المحی	67	عمدہ اوصاف	HAMEEDA	حمیدہ
المیبت	229	خورنما	HOORYYA	حوریہ
		خ		
الاحد	975	عاجزی کرنے والی	KHASHIYA	خاشعہ
المقدم	1615	سر سبز ڈالی	KHAZEERA	خضیرہ
		د		
البر	328	باعث مسرت	DILAFROZ	دل افروز



اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
		ذ		
التواب	733	چراغ کی ہتی	ZABAL	ذبال
		ز		
النور	301	فرمانبردار	RAMEEN	رامین
العزیز	310	راگنی	RASEEM	رسیم
الشکور	301	انارکلی جیسی	RUMMANI	رمانی
الشہید	211	نمائش	RIYA	ریا
المحصى	274	مطر	REHANA	ریحانہ
		ز		
المحی	22	نیک	ZAHIDA	زاہدہ
الممیت	220	سونے والی	ZARYAB	زریاب
الاحد	652	دلربا	ZULAIKHA	زلیخہ
المقدم	31	پارسا	ZAHEEDA	زہیدہ
الیر	67	خوبصورت	ZAIN	زین
		س		
التواب	139	درمیانی چال	SAJIA	ساجہ
النور	274	محمور کن	SAHIRA	ساحرہ
العزیز	301	گھومنے والی	SAIRAM	سائر م
الشکور	355	قاصدہ	SAFEERA	سفیرہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الشہید	175	ہم جوئی	SUNENA	سینہ
المحصى	85	ممتاز	SAWEEDA	سویدہ
المحی	310	قصہ گو	SAMEER	سمیر
<b>ش</b>				
الممیت	355	ہرن کاچہ	SHADAN	شادان
الاحد	526	ممنون	SHAKRA	شاگرہ
المقدم	310	جوان	SHABOOB	شبووب
البر	706	چنگاری	SHRARA	شرارہ
التواب	535	حصہ دار	SHAREEKA	شریکہ
النور	337	صاہرہ	SHAKEEBA	شکیبہ
العزیز	805	سرور	SHAGUFTA	شگفتہ
الشکور	355	موتی	SHAMODA	شمودہ
<b>ص</b>				
الشہید	157	سجنان	SABEENA	صبینہ
المحصى	697	بوائے وال	SAKHBA	صحبہ
المحی	1291	چھوٹی	SUGHRA	صغری
الممیت	391	تیز فہم	SUQRA	صقرا
الاحد	526	مرحبا	SALWAT	صلوت
المقدم	220	نیکی، احسان	SANEEA	صنیع

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ض</b>		
التواب	1237	روشن	ZOFISHAN	ضوفشان
		<b>ط</b>		
النور	220	پاک و صاف	TAHIRA	طاہرہ
العزیز	67	عقلمند	TABINA	طابنہ
الشکور	85	عمدہ ذوق والی	TASIYA	طاسیہ
الشہید	1210	نشان	TUGHRA	طغرا
المحصى	67	نازوالی	TUNNAZ	طناز
المحی	229	پاک دامن	TAHEERA	طمیرہ
الممیت	22	خوشبو	TAYYAB	طیب
الاحد	310	خوبصورت پرندہ	TAIFORA	طیفورہ
		<b>ظ</b>		
المقدم	1111	رواں دواں	ZIHARA	ظہارہ
البر	1111	آشکارہ	ZAHIRA	ظاہرہ
التواب	1120	مددگار	ZAHEEARA	ظہیرہ
		<b>ع</b>		
النور	283	عذر کرنے والی	AAZRA	عازرہ
العزیز	85	عمد و بیان	AAHDA	عابدہ
الشکور	139	نیک	ADEENA	عدینہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الشہید	283	بہت محبت کرنے والی	AROoba	عروبہ
المحصی	94	تحفہ	ATYA	عطیہ
المحی	382	معطر	AMBAREEN	عنبر میں
الممیت	85	عاجزی والی	AJZA	عجزہ
الاحد	166	چکار والی	ANDALEEB	عندلیب
المقدم	85	بہاریہ برسات	AHADA	عمہادہ
البر	130	آنکھ	AIN	عین
<b>خ</b>				
التواب	1606	پر شائب	GHURATA	غرأتہ
النور	1255	مرطوب جگہ	GHAMEERA	غمیرہ
<b>ف</b>				
العزیز	886	پرو تار	FAHIRA	فاخوہ
الشکور	886	فیض پہنچانے والی	FAIZA	فائضہ
الشہید	895	بروائی والی	FAKHRIYA	فخریہ
المحصی	688	خوشی	FARHAT	فرحت
المحی	292	لہلہاتا ہوا سبز	FARZA	فرزہ
الممیت	355	بلند مقام	FAREEHA	فریحہ
الاحد	193	خوش بیان	FASEEHA	فصیحہ
المقدم	130	آسمان	FALAK	فلک

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		ق		
قادریہ	QADIRA	طاقور	310	البر
قدیریہ	QADEERA	بااختیار	319	التواب
		ک		
کشور	KISHWAR	ریاست	526	النور
		گ		
گلنار	GULNAR	حسین	301	العزیز
گلشن	GULSHAN	گلستان	400	الشکور
		م		
ماریہ	MARIYA	گوری چٹی	286	الشہید
مجاہدہ	MUJAHIDA	یاد کرنے والی	58	المحصى
محسنہ	MUHSINA	پارسا	193	المحی
محمودہ	MAHMOODA	قابل تعریف	103	الممیت
مدیحہ	MADEEHA	تعریف	67	الاحد
مسلمہ	MUSLIMA	سلامتی والی	175	المقدم
مشرفہ	MUSHARRIFA	بلند مرتبہ	625	البر
مشیطہ	MASHEETA	مٹائی ہوئی	364	التواب
مشیہ	MASHEEA	چاہی ہوئی	355	النور
مظفرہ	MUFEERA	فائدہ مند	139	العزیز

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الشکور	301	بزرگی والی	MAKARAM	مکارم
الشہید	121	جاگیر	MANAL	منال
المحصى	301	نورانی	MUNAVVARA	منورہ
الممیت	112	بے عیب	MUNEEZA	منیزہ
الاحد	166	دلریا	MAISON	میسون
<b>ن</b>				
المقدم	58	خالص شراب	NABH	ناہ
البر	1156	نظروالی	NAZRA	ناظرہ
التواب	166	نرم و نازک	NAIMA	ناعمہ
النور	166	زیادہ انعام	NAFLA	نافلہ
العزیز	67	بلند مرتبہ	NABIYA	نبیہ
الشکور	72	عظمت	NABIYAH	نبیہ
الشہید	454	بلند زمین	NAJAT	نجات
المحصى	67	شریف	NASADA	نسادہ
المحی	157	قسمت	NASEEBA	نسیبہ
الممیت	355	مددگار	NASEERA	نصیرہ
الاحد	355	چاندی	NUQRA	نقرہ
المقدم	130	قیمتی پتھر	NAGEEN	نگین
البر	256	روشنی	NOOR	نور

اسم الی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
التواب	265	منور	NAYERA	نیرہ
النور	130	ایک موتی	NEELAM	نیلم
		و		
العزیز	58	چاندی	WAZEELA	وزیلہ
الشکور	112	خوبصورتی	WASAMA	وسامہ
الشہید	121	خوبصورت	WASEEMA	وسیمہ
المحصى	346	خوبصورت	WASHAM	وشم
المحی	301	مالدار	WAFEERA	وفیرہ
		ہ		
الممیت	58	ہوشیار	HAMZA	ہامزہ

## عدد (1) اور (4) خواتین کا مختصر خاکہ

یہ خواتین اگر مغربی علاقے کی آزاد عورتوں کی طرح نہ ہوں۔ تو ان میں بے حد اچھے اوصاف پائیں جائیں گے اور یہ ایک شریف گھریلو عورت ثابت ہوگی۔ انہیں محبت کی دیوی سے منسوب کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی انا اور حیا کے حسن و جمال کے خول سے باہر آجائیں تو یہ پوری دنیا کی سب سے حسین ترین مخلوق ثابت ہوگی۔ اور ان کے حسن و جمال کی کمریں ہر طرف پھولیں گی۔ اور یہ سب سے الگ تھلگ اتنی خوبصورت حسین و جمیل دکھائی دیں گی کہ ان کی جانب ہر کوئی دیکھنے والا اشک کراٹھے گا۔ اور ان کو کوئی بھی اپنی شریک حیات بنانے کیلئے دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کا حوصلہ رکھے گا۔ اور ان کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہے گا۔ خواہ ان کے حصول کیلئے کسی قتل و غارت کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ان کے چاہنے والے افراد ان کو کبھی بھی ایک طرح چاہ کر الگ نہیں کر سکیں گے۔ اس لئے کہ یہ خواتین اپنے حسن و جمال میں اتنا ہی کمال رکھتی ہیں۔ یہ گھریلو معاملات کے علاوہ بھی اپنے اندر امتیازی حیثیت کے رجحانات رکھتی ہیں۔ اور ایک مکمل وضع دار خاتون کی شخصیت رکھتی ہیں۔ ان کا قد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا مگر یہ اپنے آپ کو ہمیشہ بہر دنیا داری کے معاملے میں سب سے اونچا ہی دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہ مکمل انداز میں ڈرامائی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں دکھا سکتی ہیں۔ بعض حالات میں یہ شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور بعض دفعہ اپنی قسمت کے چکر میں گھوم کر ہمیشہ ہی گھومتی رہتی ہیں۔ مگر ایسا ان کے ساتھ کم ہی ہوتا ہے۔ یہ دوسروں سے تعاون حاصل کرنے کیلئے ان کی حیثیت کے مطابق ان سے گرجوشی اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ بہترین مہمان نواز بھی ہیں۔ اور اپنے مہمانوں کے ہر آرام و آسائش اور خاطر مدارت کا مکمل خیال رکھتی ہیں۔ ان کی چھٹی حس اتنی زود اثر ہوتی ہے۔ کہ یہ دوسرے تمام افراد کے دل کی بات کو اکثر سمجھ کر ان کی بات کے جواب میں بہت اچھا اور پائیدار جواب دیتی ہیں۔ ان کو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دینے والا خود دھوکے میں رہتا ہے۔

## عدد (1) اور (4) خواتین کا روحانی فال نامہ

ان خواتین کا برجوں کے حوالے سے تین دوروں میں سے گزر ہوتا ہے۔ اور اس کیفیت سے واقف ہو کر یہ صحیح طور اپنی فال سے آگاہ ہو سکے گی۔ پہلی یہ کہ اگر اس برج سے تعلق



رکھنے پر ان کا رنگ سرخ و سفید ہو۔ تو ان کی پیدائش جب ہوئی تھی تو اس وقت مریخ کا دور تھا یہ اونچے قدم و قامت اور جاہ و جلال والی ہو گئی۔ اور طبیعت کے حوالے سے ہر کوئی ان سے انسیت رکھتا ہوگا۔ اور دوسرے طور پر رنگ گندمی، خوش گفتار، اور بہت زیادہ میٹھی زبان والی جب پیدا ہوئیں تو اس وقت عطارد کا خانہ تھا۔ اور اس وجہ یہ بہت زیادہ عارضی تکالیف میں اکثر مبتلا رہیں گی۔ اور جب ان کی شادی ہوگی تو ان کا شوہر ان کے اپنے گھر آنے سے آئندہ زندگی کیلئے ہر دکھ و تکلیف سے بری ہوگا۔ اور روز بروز اس کی ترقی ہوگی۔ جن حالات میں شادی ہوگی وہ سب بدل کر ایک اچھی زندگی کا رخ اختیار کریں گے۔ اس عدد اور برج سے تعلق رکھنے والی تیسری خواتین بہت زیادہ اللہ کی راہ پر حرج کرنے والی اور توبہ و استغفار کرنے والی ہو گئی۔ خواہ ان میں سے کوئی بھی ہو یہ اس دعا کو زعفران سے خود لکھ کر یا کسی پرہیزگار خاتون نے لکھو کر الماس، یلیا قوت کے نگ کے اندر رکھو کر اس کو اوپر سے بند کروا کر اپنے ہاتھ کی سیدھی انگلی میں پہنیں یہ ان کی روحانیت کی دعوتی ہے۔ اور ہر لحاظ سے ان کے حق میں بہت اچھی ہے۔ اگر یہ روحانی طور پر کسی بیماری یا کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے منقطع ہونا چاہتی ہیں۔ تو معلوم ہو کہ ان پر بد گفتار کی نظر بد کا اثر ہے۔ اور یہ معدے کے عارضہ میں مبتلا ہیں۔ ان کی اولاد بھی کم ہوگی۔ اور ان کے رشتہ داروں میں بعض افراد ان سے کسی صورت میں بہت زیادہ مخالفت رکھتے ہیں۔ اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان کی طبیعت میں خلل سارہتا ہو۔ تو ان کے رشتہ داروں کی طرف سے سفلی علم کا وار ہے۔ اس لئے یہ کسی روحانی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ یہ اس علاج کو کریں اللہ کے فضل و کرم سے ان پر پہلے سے کیا ہوا جادو جہاں سے آیا ہے۔ وہیں پر واپس لوٹ جائیگا۔ اور اگر اس علاج میں کوتاہی سے کام نہ لیں تو آئندہ کیلئے بھی محفوظ رہیں گی۔ ان کا کوئی بھی دشمن اور مخالف کبھی بھی ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا۔ بلکہ یہ اس عمل کی بدولت اپنے تمام مخالفین پر غلبہ رکھیں گی۔ اور ہر میدان میں ان کی فتح ہوگی۔ انشاء اللہ

انگوٹھی میں بند کروا کر رکھنے والی دعا

بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللهم احفظ صاحب هذا الكتاب من كل آفة و عاهة ومن كل عين لامة



اسی نقش کو ایک عدد زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے الٹے بازو یا اپنے گلے میں باندھ لیں۔ ہر طرح سے شفاء ہوگی۔


۲۲۲۷۲	۲۲۲۷۶	۲۲۲۷۹	۲۲۲۶۵
۲۲۲۷۸	۲۲۲۶۶	۲۲۲۷۱	۲۲۲۷۷
۲۲۲۶۷	۲۲۲۸۱	۲۲۲۷۴	۲۲۲۷۰
۲۲۲۷۵	۲۲۲۶۹	۲۲۲۶۸	۲۲۲۸۰

گلے کے تمام امراض کے خاتمے کیلئے

اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے کے مقام پر باندھیں۔ اور اسی کو دوسری مرتبہ لکھ کر اس کا پانی پیئیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ اپنے گلے کی ہر بیماری سے نجات حاصل کر کے سکون محسوس کریں گی۔ اور ان بستیوں کو روزانہ تین عدد کالی روشنائی سے لکھ کر اپنے گلے پر مل کر جلادیا کریں۔ اور اس کی دھوئی لیا کریں۔ یہ اس بات کا ضرور مشاہدہ کریں کہ دن بدن اس مرض سے ان کو مکمل افاقہ ہو رہا ہے۔

۳۶۵	۳۷۶	۳۷۸	۳۶۲
۳۷۱	۳۶۹	۳۶۷	۳۷۴
۳۶۶	۳۷۳	۳۷۲	۳۷۰
۳۷۹	۳۶۳	۳۶۴	۳۷۵

جلانے والی بیتیاں



اب لای میں اور روز نامہ سے نسخہ عدد ابال دس

## مٹانے کی بیماریوں کا خاتمہ

مٹانے کی بیماریوں سے جان چھڑانے کیلئے اس نقش کو سرخ زعفران سے لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیا کریں۔ اور اس کو دوسری مرتبہ لکھ کر اپنے پیٹ پر باندھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مٹانے کی بیماریوں سے ہمیشہ کیلئے حفاظت ہوگی۔ اور آئندہ کیلئے محفوظ رہیں گے۔

۲۰۷۷	۲۰۸۰	۲۰۸۳	۲۰۷۰
۲۰۸۳	۲۰۷۱	۲۰۷۶	۲۰۸۱
۲۰۷۲	۲۰۷۶	۲۰۷۸	۲۰۷۵
۲۰۷۹	۲۰۷۳	۲۰۷۳	۲۰۸۵

## ریڑھ کی ہڈی کی شفاء کیلئے

ان اسماء کو کالی سیاہی سے لکھ کر اس کو روزانہ اپنے جسم پر مل کر آگ میں جلایا کریں۔ اور دوسرے نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنی پشت پر باندھیں۔ ہر طرح سے کامل شفاء ہوگی۔

۹	۲۰	۲۱	۶
۱۵	۱۲	۱۱	۱۸
۱۰	۱۷	۱۶	۱۳
۲۲	۷	۸	۱۹

## باندھنے والا نقش

۲۲۲۰	۲۲۲۳	۲۲۲۶	۲۲۲۲
۲۲۲۵	۲۲۲۴	۲۲۲۹	۲۲۲۷
۲۲۲۵	۲۲۲۸	۲۲۳۱	۲۲۲۸
۲۲۲۲	۲۲۲۷	۲۲۲۶	۲۲۲۷

## بد گفتاروں کی مکمل نظر بد کا خاتمہ

ان خواتین کے رونا ہانا حال میں بھی درج ہے۔ کہ ان کو بد نظری کی اکثر شکایت رہتی ہے۔ اس لئے اس کے مکمل طور پر حل کیلئے۔ سب سے پہلے کسی کوری ہانڈی کو لائیں پھر اس نقش کو کالی سیاہی سے لکھیں۔ یہ عمل کم از کم سات دنوں تک کریں۔ اس کا بھی آٹھے تفصیل وار ذکر کیا جائے گا۔ پھر اس نقش کو ایک ہی دن یا روزانہ تازہ لکھ لیا کریں لیکن لکھنے کا ایک وقت مقرر رکھیں۔ پھر روزانہ رات کو اس نقش کو اپنے ماتھے سے رگڑ کر اس کو ہانڈی میں ڈال کر اس میں کالے ماش خود تین پاؤ ڈالیں پھر اس میں ہموزن پانی تین پاؤ ڈالیں اور اس کو چولھے کے اوپر رکھ دیں۔ اور درمیانی آٹھ پر پکنے دیں اور اس کے ارد گرد گوند ہاہو آٹا لگا دیں۔ تاکہ دھواں باہر نہ آئے۔ پھر اس کو صبح سورج نکلنے سے پہلے اسی طرح چلتے دریا یا پانی میں بہا دیں۔ اور واپسی پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اور جس راستے سے اس ہانڈی کو بہانے جائیں اس راستے سے دوبارہ گھر واپس نہ آئیں اور اس عمل کو سات دنوں تک اسی طرح برابرتے رہیں۔ آپ کو اس عمل کے سرلیخ التا شیر ہونے کا اس وقت پتہ چلے گا۔ جب آپ اپنے گزرے دنوں اور آنے والے دنوں میں زمین اور آسمان کا فرق محسوس کریں گی۔ یہ بد نظری کے خاتمے کا بہت بڑا عمل ہے۔

## شادی اور اچھے رشتے کے حصول کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کی نکاح بندی ہو گئی ہو اور اس کی بیاد کوئی جادو ٹونہ ہو یا ان کو کوئی ان کی مرضی کے مطابق رشتہ نہ ملتا ہو تو اس عمل کی مدد سے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا رشتہ ملے گا جو ان کے حق میں بہت اچھا ہو گا۔ اور ان کا نبھا بھی ہو گا۔ اور یہ شادی کے بعد بھی اپنے گھر میں خوشی سے رہیں گی۔ ان تمام مقاصد میں کامیابی کیلئے۔ سورۃ انعام کو اپنے حروف اجد کی تعداد سے روزانہ تا حصول مقصد جاری رکھیں اور اس نقش کو ایک عدد اپنے گلے میں پہنیں اور ایک عدد کو زعفران سے لکھ کر ہوا میں ایسی جگہ پر لٹکائیں جہاں یہ ہوا سے ہمارے اور مقصد کے حاصل ہونے کے بعد اس نقش کو دریا یا نہر میں بہا دیں اور نقشوں کو زعفران سے ہی لکھنا ہو گا۔ اور نیچے اپنا مقصد بھی لکھنا ہو گا۔

۱۳	۲۴	۲۶	۱۰
۱۹	۱۷	۱۵	۲۲
۱۳	۲۱	۲۰	۱۸
۲۷	۱۱	۱۲	۲۳

### محبوب سے شادی کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کو کسی سے جائز محبت ہو اور یہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں یا ان کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوں اور ان کو اپنے راستے سے ختم کرنا بہت ضروری ہو۔ تو یہ سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جو افراد ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ان کا نام آخر میں لیں اس طرح کہ جہاں اس سورۃ میں ہو الابر ہو یہاں فلان بن فلان ابر ابر ابر فلان بن فلان ابر ابر ابر کہیں یہ طریقہ اپنے راستے کو صاف کرنے میں مدد دے گا۔ اور پھر اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنی الٹی بازو پر باندھیں اور ان کے نیچے اپنے محبوب کا نام لکھ کر اپنا مقصد بھی لکھیں ان کا راستہ اور وسیع ہوگا۔ اور یہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے ضرور کامیاب ہوگی۔ انشاء اللہ

۲۴۵	۲۵۵	۲۵۶	۲۴۲
۲۵۰	۲۴۸	۲۴۷	۲۵۳
۲۴۶	۲۵۲	۲۵۱	۲۴۹
۲۵۷	۲۴۳	۲۴۴	۲۵۴

### بعد ولادت دودھ میں زیادتی کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کے ولادت کے بعد ان کا دودھ اگر خشک ہو جائے تو ان آیت کو دودھ پر دم کر کے صبح نہار منہ پئے اور انہیں آیت کو اس نقش سمیت زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھ لیں۔ اللہ کے فضل سے دودھ میں کمی نہیں رہے گی اور نہ ہی دودھ خشک ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي ينفقون اموالهم في سبيل الله

کمثل حبة انت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة واللہ یضعف  
 یمن یشاء واللہ واسع علیم وبحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة  
 للمؤمنین۔

۲۳۱۳	۲۳۱۶	۲۳۱۹	۲۳۰۵
۲۳۰۷	۲۳۰۶	۲۳۱۲	۲۳۲۷
۲۳۰۷	۲۳۲۱	۲۳۱۳	۲۳۱۱
۲۳۱۵	۲۳۱۰	۲۳۰۸	۲۳۲۰

### تپ و لرزہ کے بخار کے توڑ کیلئے

اگر ان خواتین میں سے ان کو تپ و لرزے کی شکایت ہو جائے اور کوئی دوائی بھی اثر نہ  
 کرے تو با وضو حالت میں یعنی حیض سے پاک ہو کر تھوڑا سا میٹھا تیل اور تھوڑی سی پاک روٹی لیکر  
 اس پر گیارہ مرتبہ سورۃ فاتحہ، گیارہ مرتبہ سورۃ مزمل، اور گیارہ مرتبہ ان آیات کو اس تیل اور روٹی  
 پر دم کر کے پھر روٹی کو اس تیل میں بھجو کر اپنے کانوں میں رکھیں اللہ کے حکم سے ان کا ہر طرح کا  
 بخار اتر جائے گا۔

یا اللہ الشافی یا اللہ الکافی یا اللہ المعافی یا غفور یا غفور یا غفور

### پستانوں کے درد کے خاتمے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کو چھاتیوں کا مرض ہو تو کسی پاک جگہ سے پاک مٹی لاکر  
 اس پر ان آیات کو دم کر کے پھر پانی میں ملا کر اس کو اپنی چھاتیوں پر لپ کرے اور کچھ دیر بعد  
 اتار دے اس عمل کو کم از کم گیاروں دنوں تک صبح روزانہ کرے اور اس کے ساتھ سرسوں کا تیل  
 لاکر اس پر بھی ان آیات کو پڑھ کر دم کر کے روزانہ اس تیل کی مالش کیا کریں اللہ کے فضل سے  
 چھاتی سے متعلق ہر مرض کا خاتمہ ہو گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقنا کم  
 و فیہا نعید کم منها نخرجکم تارة اخرى کھیعص حم عسق وبحق  
 صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ واصحابہ وسلم

## دل کے تمام عارضوں کے خاتمے کیلئے

اگر دل سے مکمل کسی نئی مرض میں مبتلا ہوں۔ تو ایک جگہ یا کسی بڑے برتن میں اتنا پانی لیں جو کافی دنوں تک چل سکے پھر کڑکتی دھوپ میں اس کو کھلا اپنی چھت پر رکھ دیں تاکہ سورج کی گرمائش اچھی طرح پانی میں جذب ہو اور رات کو اس پر (۱۰۰) مرتبہ سورۃ العادیات کو پڑھ کر اس پانی کو پیئیں اللہ کے حکم سے روحانی علاج میں اس سے بڑھ کر کوئی اور علاج نہیں ہوگا۔ اور اس کے ہمراہ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے سینے میں اس طرح باندھیں کہ نقش دل کے مقام پر رہے اگر اس مرض میں کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی ہوگی تو ضرور اثر کریگی اور اگر اس مرض میں کسی سفلی علم کا ہاتھ ہوگا۔ تو اللہ کی مدد سے اس کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اور اس مرض سے ہمیشہ کیلئے نجات ہوگی۔

۷۰	۸۰	۸۱	۶۷
۷۵	۷۳	۷۲	۷۸
۷۱	۷۷	۷۶	۷۳
۸۲	۶۸	۶۹	۷۹

## باجھ پن کے خاتمے کیلئے

اگر ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اور اس کی چاہے کوئی بھی وجہ ہو۔ تو ان آیات کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر گلاب کا عرق ڈال کر دھو کر پیئیں اور اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنی کمر میں باندھیں اور اس عمل کو مسلسل تا حصول مقصد تک جاری رکھیں اللہ کے فضل سے اولاد ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين  
وبحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والله خيرا  
حافظا وهو ارحم الراحمين۔



۲۴۴۴۹	۲۴۴۴۰	۲۴۴۴۳	۲۴۴۱۹
۲۴۴۴۲	۲۴۴۴۰	۲۴۴۴۵	۲۴۴۴۱
۲۴۴۴۱	۲۴۴۴۵	۲۴۴۲۸	۲۴۴۲۴
۲۴۴۴۹	۲۴۴۴۳	۲۴۴۴۲	۲۴۴۴۴

### حیض کی بے اعتدالی درست کرنے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے ان کو حیض کی بے اعتدالی کا مرض ہو گیا ہو۔ اور اس کی نجات کیلئے ہر طرح کی دوا استعمال کی ہو لیکن کوئی افادہ نہ ہو رہا ہو تو کسی سنار سے ایک چاندی کا چھلہ ایسا بنوائیں جو گرم کرنے پر پگھل نہ جائے پھر اس پر ان آیات کو (۵۰۰) کی تعداد میں پڑھ کر سادے پانی میں ڈال کر بھجائیں اور اس طرح کم از کم تین مرتبہ کریں اور یہ پانی پی لیا کریں لیکن اس تمام عمل کو صبح کے وقت کریں۔ اور اس میں زیادہ طاقت پیدا کرنے کیلئے اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو پر باندھ لیں۔ اللہ کے فضل سے حیض کی تمام بے اعتدالیاں درست ہو سکیں گی۔ اور کبیدہ کیلئے اس سے محفوظ رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم و بحق  
يا نوز صل على نورك المنير الانوار وعلى آله و صحبه المنورين  
وبارك وسلم۔

۳۰۱۱۲	۳۰۱۱۵	۳۰۱۱۸	۳۰۱۰۵
۳۰۱۱۷	۳۰۱۰۶	۳۰۱۱۱	۳۰۱۱۶
۳۰۱۰۷	۳۰۱۳۰	۳۰۱۱۳	۳۰۱۱۰
۳۰۱۱۴	۳۰۱۰۹	۳۰۱۰۸	۳۰۱۱۹

### حیض کی کثرت کو روکنے کیلئے

اگر ان میں سے کسی خواتین کو حیض کو کثرت سے آنے کی شکایت ہو تو یہ ایک عدد کالے رنگ کی نگی لائیں اور اس کو اپنے قد کے مطابق سات مرتبہ اتار لیں اور درمیان سے پکڑ کر سب سے پہلی گرہا

اس پر نیچے مذکورہ آیات کو ایک مرتبہ پڑھ کر لگائیں اور پھر اسی طرح گریں لگاتے لگاتے کل اکیس گریں لگائیں۔ اور ایک گنڈہ کی شکل میں اپنے گلے میں پھنیں اور دوسرے نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو گلاب کے عرق میں ڈال کر اس کو روزانہ اکیس دنوں تک نماز منہ پھیں۔ اللہ کے فضل سے حیض اعتدال سے آئیں گے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ مُوسٰی کَلِیْمُ اللّٰهِ جِبْرٰئِیْلُ امِیْنُ اللّٰهِ عِیْسٰی زَوْجُ اللّٰهِ عِزْرٰثِیْلُ قَابِضُ الْاَزْوَاحِ الْم تری کیف مد الظل ولو شاء جعله ساکنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وبحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وابق ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم فلان بن فلان

۳۸	۵۹	۶۱	۳۵
۵۳	۵۲	۵۰	۵۷
۴۹	۵۱	۵۵	۵۳
۶۲	۴۶	۴۷	۵۸

### رحم فرج اور اندام نہانی کی خارش کے خاتمے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہو۔ تو ادھاپانی تازہ اور ادھابگلاب کا عرق لے کر ان دونوں کو آپس میں ملا کر ان آیات کو اس پر (۴۵۰) کی تعداد میں پڑھیں اور روزانہ صبح نماز منہ اس کو پھیں اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں اللہ کے فضل سے اس مرض کا خاتمہ ہوگا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا اللّٰهُ یَا رَحِیْمُ یَا غَفُوْرُ یَا شَکُوْرُ وَبِحَقِّ یَا نُوْرُ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ حَمِّ اللّٰهِ یَا شَافِیُّ یَا شَافِیُّ یَا کَافِیُّ یَا کَافِیُّ یَا کَافِیُّ یَا کَافِیُّ یَا مَعَاْفِیُّ یَا مَعَاْفِیُّ یَا مَعَاْفِیُّ یَا مَعَاْفِیُّ یَا نُوْرُ یَا نُوْرُ یَا نُوْرُ یَا نُوْرُ

۲۰۶۰۰۲	۲۰۶۰۰۶	۲۰۶۰۰۹	۲۰۵۹۹۵
۲۰۶۰۰۸	۲۰۵۹۹۶	۲۰۶۰۰۱	۲۰۶۰۰۷
۲۰۵۹۹۷	۲۰۶۰۱۱	۲۰۶۰۰۳	۲۰۶۰۰۰
۲۰۶۰۰۵	۲۰۵۹۹۹	۲۰۵۹۹۸	۲۰۶۰۱۰

### رحم اور فرج میں رسولیوں کے خاتمے کیلئے

یہ ایک بہت ہی نامراد مرض ہے۔ اور اس کا علاج بھی کافی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے روحانی علاج کے طور پر صرف اس نقش کو روزانہ لکھ کر کالی سیاہی سے اس کو جلا کر اس کی دہونی اپنی شرم گاہ کو دیں یہ اس کا روحانی علاج ہے۔ اور ان آیات کو زعفران سے لکھ کر اس کو دودھ میں گھول کر اس دودھ کو روزانہ صبح نہار منہ پییں اللہ کے فضل سے اس مرض سے نجات ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ان البقر تشابه علينا وانا انشاء الله لمهتدون. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وبحق انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا (تعداد ۵۵۰) مرتبہ پڑھ کر پھر اس کو استعمال کریں۔

### شرم گاہ میں ورم کیلئے

اس مرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے اس نقش کو چینی کی پلٹ پر زعفران سے لکھ کر تازے پانی سے دھو کر اس کو روزانہ صبح نہار منہ پییں اللہ کے فضل سے اس مرض سے نجات ہوگی۔ اور دوسرے نقش کو بھی زعفران سے لکھ چاندی میں بند کروا کر اپنے گلے میں پہنیں ضرور

شفاء ہوگی۔ پینے والا نقش

۲۶	۲۷	۲۸	۲۳
۳۲	۲۹	۲۸	۳۵
۲۷	۳۳	۳۳	۳۰
۳۹	۲۳	۳۵	۳۶

## گلے میں پہننے والا نقش

۲۲۱	۲۳۱	۲۳۳	۲۱۸
۲۲۶	۲۲۵	۲۲۳	۲۲۹
۲۲۲	۲۲۸	۲۲۷	۲۲۶
۲۳۳	۲۱۹	۲۲۰	۲۳۰

## رحم کا اپنے مقام سے ہٹ جانے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کوئی اس مرض اس کی شکار ہو تو اس نقش کو اتوار والے دن عصر اور مغرب کے درمیان زعفران سے لکھے اور اس کو چاندی میں بند کروا کر اس کو اپنے گلے میں پہنیں اور دوسرے نقش کو اپنی شرم گاہ سے مس کر کے روزانہ اکیس دنوں تک جلایا کریں اللہ کے حکم سے شفاء ہوگی۔ گلے میں پہننے کیلئے

۱۳۷۶۳	۱۳۷۶۸	۱۳۷۷۱	۱۳۷۵۷
۱۳۷۷۰	۱۳۷۵۸	۱۳۷۶۳	۱۳۷۶۹
۱۳۷۵۹	۱۳۷۷۳	۱۳۷۶۶	۱۳۷۶۲
۱۳۷۶۷	۱۳۷۶۱	۱۳۷۶۰	۱۳۷۷۲

## جلانے کیلئے

۳۵۶۸۶۷۶۷۷۷۸۷۹۳۸۸۳۷۶۶۵۹۹۹۹۹۱۱۱۱

۶۷۷۷۷۷۷۷۷۸۳۵۶۹۸۹۰۳۵۵۶۷۶۷۷۷۷

۹۰۹۹۸۹۸۹۸۸۷۸۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷

## رحم میں پانی یا ہوا بھر جانے کیلئے

اس مرض سے نجات کیلئے اس نقش کو پھل کے پتے پر لکھیں اور شہد ذال کر اس کو چائیس نقش کو زعفران سے لکھیں اور صبح کے وقت گیارہ دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیں اللہ کے فضل سے

شفاء ہوگی اور آئندہ کے لئے بھی اس مرض سے جان چھوٹ جائیگی۔

۱۲	۲۲	۲۳	۹
۱۷	۱۵	۱۳	۲۰
۱۳	۱۹	۱۸	۱۶
۲۳	۱۰	۱۱	۲۱

### فرج میں پھوڑے پھنسیوں کے خاتمے کیلئے

اگر ان میں سے کسی خواتین کو اس مرض کی شکایت ہو تو نیچے درج حروف کو روزانہ سرسوں کے تیل میں اپنی شہادت والی انگلی سے (۱۰۰) مرتبہ لکھیں اور اسی وقت لکھنے کے بعد اس تیل کو اپنی فرج میں انگلی کی مدد سے لگائیں چند دنوں میں ہی اس مرض کا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسرے اعداد کو کالی سیاہی سے لکھ کر اپنی فرج سے مل کر اس کو جلا کر اپنی فرج کو اس کی دہونی دیں یہ اس مرض کا روحانی علاج ہے۔ اللہ کی مدد سے اگر اس مرض کو ختم کرنے کیلئے کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہوگی تو اثر کریگی اور ہر حال میں شفاء ہوگی۔

اب ج د ای ق غ ای و ب س ف ر ت ہ ا ت م ہ ا ت م

جلانے والے اعداد

۱۱۱۳۹۱۱۱۳۳۱۱۱۳۳۷۵۶۲۱۱۳۱۳۳۵۱۳۱۵۶۱۳۲۱

### زیر ناف درز کے خاتمے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کو یہ مرض اکثر ہتا ہو تو سرسوں کے تیل پر ان آیات کو دم کریں اور روزانہ اس تیل کی اس مقام پر مالش کیا کریں۔ اور کالے رنگ کے دہاگے پر بھی ان آیات کو پڑھ کر گڑھیں لگا کر دم کریں اور اس کو اپنی کمر میں باندھیں اللہ کے فضل سے اس مرض کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہوگا اور اس عمل کو کم از کم ایکس دنوں تک کریں اس عمل کا اثر ہر حال میں اٹل ہے۔

پڑھنے کی تعداد (۱۲۱) ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد لله

ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم بسم

اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اشد بصیر بالعباد  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ  
 شافی یا اللہ کافی یا اللہ معافی

### نبی کریم ﷺ کی زیارت کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کوئی حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت کرنا چاہے تو حیض و نفاس  
 والے دنوں سے پاک ہو کر اس درود شریف کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد (۵۰۰) مرتبہ پڑھیں اور  
 اپنے سونے کی جگہ اور نماز پڑھ کر اس عمل کو کرنے والی جگہ کو اتھائی پاک و صاف رکھیں اور بوقت  
 عمل ایک یادو اگر تیاں سلگائیں۔ اور احادیث شریف کا زیادہ مطالعہ کیا کریں۔ اور شریعت میں جو  
 جائزے اس پر عمل کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا  
 و مولانا محمد شجرة الاصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية و  
 افضل الخلیقة الانسانية اشرف الصورة الجسمانية ومعدن الاسرار  
 الربانية و خزائن العلوم الاصفائية صاحب القبضة الاصلية  
 والبهجة السنية والرتبة العلیة من اندرجت النبیون تحت لوائه مهم  
 منه والیه وصل وسلم وبارک علیہ وعلی آله و صحبه عدد ما خلقت  
 ورزقت و امت واحییت الی یوم تبعث من افنیت وسلم تسلیما کثیرا  
 والحمد لله رب العلمین

اس عمل کو کرنے سے پہلے اور بعد میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جھوٹ فریب  
 اور تمام وہ باتیں جن سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے اس سے ہمیشہ منع رہیں اور جن کاموں  
 کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں پھر زیارت ضرور ہوگی۔ اور دنیاوی مصیبتیں  
 ختم ہوگی۔

## خاتمہ بالا ایمان ہونے کیلئے

یہ خواتین اپنا خاتمہ بالا ایمان ہونے کیلئے پہلے اور دوسرے کلمے کو زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور ان کے بعد اگر اس کو بھی اپنا اور دہرائیں تو خاتمہ بالا ایمان ضرور ہوگا۔ اس ورد کو کھلا پڑھیں کسی قید میں پڑھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ساری زندگی کے مخصوص ورد ہوتے ہیں۔ اور ان کو کسی قید میں پڑھنے کی جائے کھلا پڑھنا زیادہ ثواب کا مستحق کرتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو الرحمن الرحيم

## دلوں کو تسخیر کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کی کوئی بھی قدر اور اہمیت کو نہ جانے یا یہ چشمِ خلاق میں معزز اور محترم بننے کیلئے اس نقش کو بروز منگل صبح سورج طلوع ہونے کے وقت زعفران سے لکھیں مثلاً یہ زعفرانی سیاہی اور کاغذ بالکل تیار رکھیں اور جس وقت سورج طلوع ہوتا شروع ہو یہ نقش کو لکھنا شروع کر دیں۔ اور اس کی تیاری کے بعد اس کو اپنے گلے یا الٹی بازو میں چاندی میں بند کروا کر پھینیں اللہ کے فضل سے اس نقش کی برکت سے ان کے عزیز اور دوسرے افراد ان کی دل سے عزت کریں گے۔ اور ان کی قدر اور اہمیت کو جانیں گے۔

۳۱۵	۳۲۶	۳۲۸	۳۱۲
۳۲۱	۳۱۹	۳۱۷	۳۲۳
۳۱۶	۳۲۳	۳۲۲	۳۲۰
۳۲۹	۳۱۳	۳۱۴	۳۲۵

## برائے زبان ہندی

یہ خواتین اس نقش کی مدد سے ہر اس عورت اور ہر اس مرد کی زبان بند کر سکتی ہیں جو ان کے ساتھ فضول میں زبان درازی کرتا ہو۔ یا ان کی غیر موجودگی میں غیبت کرتا ہو یا کرتی ہو۔ یہ خواتین اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کیلئے اس نقش کو کالی سیاہی سے رات کے وقت لکھیں

اور اس کو اپنے ساتھ زبان درازی کرنے والے کا نام لکھ کر اسی وقت جلادیا کریں۔ اس عمل کو کم از کم گیارہ دنوں تک کریں۔

۳۱۷	۳۲۷	۳۲۸	۳۱۳
۳۲۲	۳۲۰	۳۱۹	۳۲۵
۳۱۸	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۱
۳۲۹	۳۱۵	۳۱۶	۳۲۶

### شوہر کی اصلاح کرنے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کا شوہر ان کے ساتھ ناجائز زبان درازی یا بد سلوکی کرتا ہو۔ یا ان کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے التفات کرتا ہو تو یہ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے اور اپنے شوہر کا نام لکھ کر اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو میں باندھیں اور ان آیات کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر اپنے شوہر کو پلائیں۔ یعنی ان آیات کو زعفران سے لکھ کر کسی میٹھی چیز میں گھول کر پھر پلائیں یا اس کا پانی کسی میٹھی کھانے والی چیز میں ملا کر اس کو پلائیں اللہ کے فضل و احسان سے یہ اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔

### گلے یا بازو میں ڈالنے والا نقش

۷۳	۸۴	۸۵	۷۰
۷۹	۷۶	۷۵	۸۲
۷۴	۸۱	۸۰	۷۷
۸۶	۷۱	۷۲	۸۳

### دم کر کے پلانے والی آیات

بسم الله الرحمن الرحيم يا الولي يا الولي يا الولي فلان بن فلان على الحب فلان بنت فلان (یہاں اپنے شوہر کا نام لے) بسم الله الرحمن الرحيم يا ولي يا ولي يا ولي فلان بن فلان على الحب فلان بنت فلان وبحق يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد محبا لله فلان



بن فلان علی الحب فلان بن فلان وبحق یا ولی یا ولی یا ولی  
فلان بن فلان کی جگہ اپنے شوہر کا نام لے۔ اور فلان بنت کی جگہ اپنا نام لے۔

### ہر نیک مقصد کے حصول کیلئے

یہ خواتین اپنے کسی بھی نیک مقصد کے حصول کیلئے اپنے اعداد سے تعلق رکھنے والے اسم الہی جو پیچھے اور اوراق میں درج کئے ہیں ان کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق کسی مقررہ وقت پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس نقش کو اپنے کسی بھی نیک مقصد کی خاطر اپنا نام لکھ کر اپنے پاس کسی بھی صورت میں رکھیں۔ اللہ کے فضل سے ان کا ہر نیک مقصد بہت جلد کامیاب ہوگا۔ اور یہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔

### غربت سے نجات حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین پر غربت اور افلاس کا دور دورہ رہتا ہو تو یہ خوش حال بننے کیلئے سورۃ یسین کو صبح کے وقت اس طریقے سے پڑھیں کہ جب آیت (سلام قول من رب الرحیم) پر پہنچیں تو اس کو ایک سو مرتبہ پڑھ کر اس سے آگے پڑھ کر سورۃ کو ختم کر دیں اور اس عمل کو کم از کم چالیس دنوں تک کریں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گھر میں دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگائیں ان کی غربت کا خاتمہ ہوگا۔

۱۲۷	۱۳۷	۱۳۸	۱۲۳
۱۳۲	۱۴۰	۱۲۹	۱۳۵
۱۴۸	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۱
۱۳۹	۱۲۵	۱۲۶	۱۳۶

### اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہنے کیلئے

اپنی ہر طرح سے کامل حفاظت کیلئے ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں لیکن یہ اس وقت کریں جب کسی سفر میں جانے کا ارادہ ہو۔ اس کے علاوہ ان آیات سمیت اس نقش کے اضافے کے ساتھ ان کو زعفران سے لکھ اپنے گلے یا بازو میں باندھیں۔ اس کی برکت سے یہ ہر

وقت حفاظت میں رہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰٰ اَیُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبِّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فَرٰشًا وَالسَّمَاءَ بِنَا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّکُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (پارہ ۱ سورہ بقرہ آیت ۲۲ و ۲۱)

۴۷	۵۷	۵۸	۴۴
۵۲	۵۰	۴۹	۵۵
۴۸	۵۳	۵۳	۵۱
۵۹	۴۵	۴۶	۵۶

### دشمن کو زیر کرنے کیلئے

اگر ان خواتین سے کوئی بغض اور عداوت رکھتا ہو۔ اور ان کا اس پر کسی بھی طور زور نہ چلے ہو تو یہ اس نقش کو اپنے دشمن کا نام لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھیں یا اپنے گلے میں پہنیں اور اگر ان کو صحیح طرح سے اس کے نام کا پتہ نہ ہو تو بھی اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اسی نیت سے اپنے گلے یا بازو میں باندھیں۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ان کے دشمن اپنے فعل قبیحات سے منع ہو گئے۔ اور ان کے زیر ہو گئے۔

۲۷۴۴۳	۲۷۴۴۷	۲۷۴۴۰	۲۷۴۴۶
۲۷۴۴۹	۲۷۴۴۷	۲۷۴۴۲	۲۷۴۴۸
۲۷۴۴۸	۲۷۴۴۲	۲۷۴۴۵	۲۷۴۴۱
۲۷۴۴۹	۲۷۴۴۰	۲۷۴۴۹	۲۷۴۴۱

## جادو، ٹونہ، آسیب، اور دشمن کے وار سے بچنے کیلئے

یہ خواتین اپنے اس مقصد کی خاطر اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں اللہ کے فضل اور احسان سے ان پر کوئی بھی جادو نہیں کر سکے گا۔ اور اگر ان پر پہلے سے کوئی اثر وغیرہ ہوگا۔ تو بھی اس کا خاتمہ ہوگا۔ کیونکہ یہ نقش جس کے پاس ہوتا ہے اس پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ اور اگر آسیب بھی ہوگا تو اس کی طاقت اور اثر سے خود ان سے دور رہے گا۔ اور اگر ان کے رشتے دار ان پر جادو کرتے ہوئے تو خود اس کی لپیٹ میں آئیگی اور یہ ہمیشہ کیلئے ان تمام قیامت سے مکمل محفوظ ہوگی۔

۱۲۱۷۶	۱۲۱۷۹	۱۲۱۸۳	۱۲۱۶۹
۱۲۱۸۲	۱۲۱۷۰	۱۲۱۷۵	۱۲۱۸۰
۱۲۱۷۱	۱۲۱۸۵	۱۲۱۷۷	۱۲۱۷۳
۱۲۱۷۸	۱۲۱۷۳	۱۲۱۷۲	۱۲۱۸۳

## قرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین پر کسی قرض کا بہت بوجھ ہو اور اس کو اتارنے کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو تو یہ اللہ کو اپنا حامی اور ناصر بنا کر اس عمل کو کریں اللہ کے فضل سے قرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہونگے کہ یہ خود حیران ہونگی۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں کسی پاک اور صاف جگہ کا بندوبست کریں اور اس درود شریف کو ایک سو مرتبہ پڑھیں اور اپنے اس مقصد کے حل کی دعا کریں پھر دیکھیں کہ اس درود کی برکت سے کیسے دنوں میں ان کی مشکلات کا حل نکلتا ہے۔ اور ان کی قرض سے جان چھوٹی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ  
وَرَسُوْلِكَ النَّبِیِّ الْاَمِیِّ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی  
اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلُوٰةً تَكُوْنُ لَكَ رِضٰی وَ لَهُ جِزَاءٌ وَ لِحَقُّهُ اِذًا وَ اعْطِهِ الْوَسِیْلَةَ  
وَ الْفِضِیْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَهُ وَ اجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَ اجْزِهِ  
اَفْضَلَ مَا جَازَیْتَ نَبِیًّا عَن قَوْمِهِ وَ رَسُوْلًا عَن اُمَّتِهِ وَ صَلِّ عَلٰی اِخْوَانِهِ

من النبیین والصلحین یا ارحم الراحمین

## اچھے رشتے کے حصول کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کا اچھی جگہ رشتہ نہ ہو رہا ہو۔ یا ان کے رشتے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو۔ تو یہ سرخ ریشی کپڑے پر اس نقش کو تلے کی تار سے لکھیں اور بند کر کے تعویذ کی شکل میں اپنے گلے بازو یا اپنے سونے والے ہتکے کے نیچے رکھیں ان کا اچھی سے اچھی جگہ رشتہ ہوگا۔

۲۳۵۳۵	۲۳۵۳۸	۲۳۵۵۲	۲۳۵۳۸
۲۳۵۵۱	۲۳۵۳۹	۲۳۵۳۴	۲۳۵۳۹
۲۳۵۳۰	۲۳۵۵۳	۲۳۵۳۶	۲۳۵۳۳
۲۳۵۳۷	۲۳۵۳۲	۲۳۵۳۱	۲۳۵۵۳

## ان خواتین کی دوست خواتین

### (عدد 2) ستارہ قمر برج سرطان

آتیہ، اریبہ، ازدہار، ازل، افروزہ، امروز، انوشہ، ایمن، بارقہ، بتولہ، برکات، برکہ، بنت، بینظیر، پشینہ، پاورہ، تنیم، شمر، رثاء، شینہ، شین، جبین، جلاباب، جریمہ، حسی، حمیرہ، خوباں، خولہ، خیلا، درخشندہ، دلآرا، رابیہ، رلوفہ، راعنہ، راقۃ، راندہ، راقبہ، رحیمہ، رضا، رقا، رفرق، رفیدہ، رقلہ، روفی، زبانہ، زرقا، زلینہ، زعفرہ، زفرہ، زیبا، سبزہ، سل، سدیمہ، مراب، مریسہ، سلطانہ، سامہ، سیتہ، سحیلہ، سیلہ، شاداب، شاطبہ، شاہینہ، شبو، شیبہ، شریطہ، شقرہ، شقیقہ، شمرانہ، صادقہ، صادیہ، صباح، صدیقہ، صفرا، صوفیہ، ضامرہ، ضراط، عاملہ، عدیلہ، عرزم، عربینہ، علفہ، علفہ، عقیقہ، طلحہ، عمدہ، عوسا، غادہ، غاشیہ، عالیہ، غزل، فرحانہ، فریدہ، فزوا، قاصدہ، قاتہ، کامرہ، کسودہ، کلثوم، گلاندام، لیلیٰ، ماہدہ، مخدومہ، مدر، مرام، مردارید، مرہ، مریم، مزدومہ، مصاحبہ، مصونہ، مغظہ، مقدسہ، مقصودہ، مہ جبین، مجہ، مینا، تاجیہ، نبال، ندومہ، لیلیہ، نہاء، نسلی، جمیدہ، دشیلہ، وفیہ، وهاجہ، بیجہ، ہناء، ہمناء، بیمن،

### (عدد 7) ستاره قمر برج سرطان

آرزو، آرزو، اجتماع، اذکیه، ارم، ازهار، اسده، اطروبه، امروزه، بازغ، بشینه، بدامرزن، پارینه، پروین، تبسم، تحفه، تحکین، تمیز، تزیله، ثمره، ثیله، جلا، جمیله، حینه، حلیفه، خازر، خانم، خمیره، خطامه، خلیفه، ذاکیه، راسبه، رباب، رخسانه، ردا، رصیفه، رغد، رفاقت، رمه، روشن، ریشمان، ریسان، ریم، زرتار، زغله، زمیت، ساجیه، ساربه، سبله، سپحه، ستوده، سحر، سراره، سطوت، سفانه، سفینه، سلولی، سلیقه، سنبل، سوری، سهام، شانزه، شبانه، شانکه، شمشاد، شمیره، شیباه، صبا، صبیحه، صراحه، صریحه، صغیره، صوفه، صوند، ضاهر، طالع، طرازیه، طریقه، طزه، ظرافه، عاشره، عربه، عشرت، علیه، عنبر، عمد، غیاء، فاضله، فاغیه، فاکه، فضیله، فکرت، فیضانه، قمر، کبرئی، کنول، لینه، لینه، مامونه، ماچین، مبارکه، مرسال، مطره، متاب، میونه، نادیه، نازش، نامیه، نایید، نباله، نبیله، نجیه، نسیم، نضار، نفیسه، نکت، نگفت، نسیقه، واداد، وفر، وللیقه، هاجره، هادیه، هیه، هینه.

### (عدد 3) ستاره مشتری برج قوس و جوت

آزفه، آفریده، احمرین، ازلی، اسماء، افروزیه، الماش، الوانہ، ایمان، بامره، بلانہ، بخت، محتاور، بلیغه، بنات تامده، تاشقه، تابه، تشبیب، تصور، جاریه، جانکه، جن، جنت، جوهره، حارثه، خطیه، حصه، حلیمه، خافیه، خندان، درخشال، درشین، دردانه، دریه، دلربا، دیبا، ذوقه، راده، راصده، رائده، رجونه، رختی، رشقه، رفعت، روضه، رؤف، رومیله، رقیده، ریسان، زلاله، زوقیه، ساحت، سیمه، سبد، سحره، سروج، سروذ، سر، سینه، سناء، سمه، سیما، شادم، شارقه، شازی، شمطه، شمیله، شترادی، شہلا، شہلی، شیریں، صادرة، صارمه، صبا، صدف، صریر، صندل، صومانه، صومر، صییه، ضرغام، ضیعه، طارمه، طاسه، طین، طریده، طلاله، ظہرہ، عاطفہ، عمرد، عمیر، عقیده، عقیده، عرش، عروس، عریسه، عشوه، عصا، عصفیه، عطیلی، عطوف، عظمی، علیا، عمیمه، غادیه، غانیه، غصون، غنیر، غیغانه، فائزہ، فرخنده، فروه، فزوده، فضه، قابلہ، قمره، کاظمه، کسفه، کبیره، کوکب، گلخانه، گیتی، آراء، لاله، لبات، لطیحہ، ماچین، ماہنه، مزنه، مصنعه، مصیطره، مطیبه، ملیحہ، منار، منزہ، میاء، ناجہ، ناصرہ، ناییدہ، نجلا، نجم، زما، نساء، نعمات، نعمه، نقیه، ورامہ، ورفیقہ، ہبہ، ہنیا.

## (عدد 9) ستارہ مرتجہ برج حمل و عقرب

اجسام، اسوہ، افزینہ، افشال، الواز، امال، امثلہ، انیسہ، باور، باسہ، خندان، برودت، بزمہ، بصیرت، پاکیزہ، تانہ، تسکین، تسلیم، تنویر، ثریا، جمانہ، جویریہ، چاہ، حبذا، حبیبہ، حرمت، حکمت، حنہ، حنیفہ، خانہ، حریدہ، خضاع، دمنہ، ذبالہ، ذہین، رانی، ریبطہ، رخا، رضوانہ، رقیہ، روان، رویدہ، زائتہ، زبدہ، زفر، زرافشال، سازہ، سامرہ، سبا، ستارہ، سترہ، بجیلہ، سرود، سلمہ، سبارہ، سماع، سمیرہ، شادی، شاعرہ، شانیہ، شاما، شاہدہ، شبیعہ، شفیقہ، شکورہ، شمسہ، شہابہ، شہما، صابہ، صدیقہ، صغیرہ، صفاء، صغیرہ، صنم، صنیعہ، صیابہ، ظاہیہ، طالبہ، طاکلہ، طاؤسہ، طفاؤہ، طفیدہ، طولی، طویسہ، طورہ، طاقرہ، ظہینہ، عاتقہ، عاقدہ، عتیقہ، عجلہ، عجیبہ، عذارا، عرشہ، عروج، عزتہ، عزیزہ، عشوینہ، عطبول، عفراء، عنان، عنایت، عزیزینہ، عقبہ، غسانہ، غوثیہ، فائقہ، فاکرہ، فرح، فرزا، فوزیہ، فہمیدہ، قیصرہ، کرن، گلغام، لمیاء، لولو، ماہرخ، محبوبہ، مرمریں، مستورہ، مشہودہ، معروضہ، موش، بیضاء، میسونہ، نازندہ، شادہ، نجیدہ، ناردین، نزاہہ، نزیہ، نشائے، نگینہ، ہبلہ، نیسی، واٹھ، وخورہ، یاسمین۔

یہاں لکھے گئے عددوں سے متعلق ان خواتین سے مناسبت رکھنے والی ان کی دوست خواتین کے نام لکھیں ہیں۔ یہ ہر طرح سے ان سے اچھا سلوک اور برتاؤ ہی کریں گی۔ اگر انہوں نے ان سے کسی قسم کا کوئی لین دین کرنا ہو یا کوئی بھی مقصد ہو تو یہ بلا جھگ ان میں سے اپنے ساتھ مناسبت رکھنے والی خواتین سے کوئی بھی کاروبار یا کسی بھی قسم کا لین دین کر سکتی ہیں۔ اب اس سے آگے ان خواتین کی مخالف خواتین کے نام درج ہونگے۔ یہ کسی بھی صورت میں ان سے کسی بھی قسم کا کوئی لین دین نذر رکھیں کیونکہ ضرورت کے وقت یہ ان کے کام بھی نہیں آئیگی۔ اور ان کو ہر طرح سے پریشان کرنے کا ان کی مخالف خواتین کا ہاتھ ہوگا۔ اس لئے اگر کسی عورت کا (عدد 1) اور (عدد 3) سے تعلق ہو تو یہ اپنے ساتھ مناسبت رکھنے والی اور اپنی مخالف خواتین کے نام پہلے دیکھ لیں پھر ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ طے کرنے کا ختمی فیصلہ کریں۔ اس طرح کرنے سے ان کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کو پہلے سے ہی پتہ لگ جائیگا۔ کہ فلاں عورت میرے حق میں نہیں ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب کوئی اس پر عمل کریگا۔ اس لئے ان قواعد پر جو بھی خواتین عمل کریں گی سو فیصدی کامیاب ہوگی۔

### عدد (1) اور (4) کی مخالف خواتین

#### عدد (6) ستارہ زہرہ برج ثور و میزان

آمنہ، ادا، اردنا، ازلقہ، افروز، البالہ، الماس، امامہ، امنہ، امیمہ، انوار، انوش، بادریہ، بتول، بسم اللہ، بھیرہ، پریا، تحسین، ترنم، تشلیہ، تمینہ، ثامن، ثمنین، چاشیہ، جلیلہ، حاضرہ، حبیبہ، حریم، حسنہ، حواء، بختہ، خزینہ، خصمہ، غلوز، خیریہ، دلآرام، دلشاد، ذکیہ، ذاہب، زینب، راحت، راحیل، زاشدہ، راویہ، رجا، رزان، رشا، رشادہ، رشیدہ، رعوبہ، رعنا، ریشہ، ریمیلہ، روینہ، زارہ، زائرہ، زینہ، زراحمہ، زرینہ، زریں، زعمہ، زکیہ، زہراء، زینب، ساریہ، سینا، سلسالہ، سلطیہ، سمن، سمیہ، سننیعہ، سیمالی، شاب، شافقہ، شامقہ، شاپن، شرہ، شحاذہ، شفیقہ، شمیرہ، صباحت، صراحت، صغی، صنوبر، صمیمہ، صوفاء، صیاح، ضاحبہ، ضافرہ، ضفور، ضفیرہ، طافیہ، طرازہ، طرفہ، طروبہ، عاطرہ، عائشہ، عائرہ، عبود، عبید، عصمت، عفتت، عفاف، عمرانہ، عونہ، غازیہ، غمامہ، فارد، فائقہ، فائقہ، فحیرہ، فرازیہ، فریال، فریحہ، فضیلت، فلاحت، کاملہ، کثود، کھمہ، کینز، کوش، گلزار، گوہر، لبنہ، مجیہ، مرجان، مشیرہ، مصباح، مضئنونہ، مومنہ، مہامہ، میادہ، ناجیہ، نازنین، ناشیہ، ناظمہ، بلہ، نجوی، نرگس، نعمہ، نوال، وجیہ، وحیدہ، وفا، ولید، ہانم، ہدیہ، ہریرہ، یاسرہ، یمنہ۔

#### عدد (8) ستارہ زحل برج جدی و دلو

آفرین، آلفہ، آنسہ، احلام، ارسلہ، اسیدہ، افزاء، اکبری، البانہ، امروزیہ، ال، امہانی، امیر، انعام، بادامہ، باسلہ، بدر، بدلہ، بسمہ، بعراء، بیہام، پریراد، تاج، تزئین، تشنہ، تمثیل، ثانیہ، ثرا، ثروت، شمزن، جلوہ، جواہر، جوہرہ، چندن، چندہ، حلیہ، خدرہ، خردہ، خضر، حمرہ، دیبا، ذاکرہ، ذریرہ، رابعہ، راضیہ، ربیعہ، رخشال، رسیلہ، رین، رضوی، رقیقہ، زکبانہ، زکیرہ، رناع، روزینہ، روشان، رمانہ، روحی، زرناب، زریہ، زمر، زینت، سابلہ، سامیہ، سبدہ، سبرینا، سنیلہ، سدرہ، سروری، سمن، سحیہ، سواد،

سیمال، سیمیں، شاد، شازیہ، شذرہ، شامہ، شائمہ، شمیمہ، صاعده، صالحہ، صائبہ، صبیہ، ضدفہ، صفورا، صلحہ، صہبا، ضحیٰ، طایہ، طائرہ، طریہ، طغرہ، طیبہ، ظبیہ، ظلہ، غامدہ، عاصمہ، عاقلہ، عالیہ، عائدہ، عبقرہ، عبلیہ، عبیرہ، عسرت، عذرا، عروب، عروسہ، عظمیہ، عنقوہ، عقیلہ، عکبہ، غافرہ، غرہ، غزالہ، غضارہ، غصیرہ، غزہ، فارقہ، فاریہ، فاغرہ، فردوس، فرز، قاسمہ، قدسیہ، قرہ، قویہ، قومہ، کامنہ، گلاب، گلشکار، کیتی، لجنہ، لطیفہ، لطیفہ، لمی، لیلیٰ، ماجدہ، مادیہ، مائیکہ، مینہ، مجیدہ، مطاہرہ، معصومہ، منور، منیبہ، منیرہ، مونہ، مہ رخ، تاب، نادرہ، نازلی، نافعہ، نباد، نجاح، نجمہ، نردین، نرہ، نظیر، نیر، وردہ، ونیہ، ہانیہ، ہویدا، یاسنہ، یرسلہ۔

یہ تمام خواتینوں کے نام (عددا) اور (عدد) سے تعلق رکھنے والی خواتین کے مخالف ہیں۔ یعنی اگر ان کا واسطہ ان سے روز پڑتا ہو تو یہ خوشی اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گی کہ ہم تو ان خواتین سے پیار کرتی ہیں لیکن اس کا صلہ الٹا ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے۔ کہ ان خواتین کا ان سے مزاج نہیں ملتا اور یہ ہمیشہ ہی ان کے الٹ سوچ رکھ کر ان سے ملیں گی۔ اس لئے ان خواتین کی سمولت کیلئے میں نے ان خواتین کے نام درج کروئے ہیں جو ان کے ساتھ کبھی بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دیں گی بلکہ اچھائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ اور جن دوست خواتین کے نام لکھیں ہیں۔ یہ ہمیشہ ہی ان سے اچھا سلوک کریں گی اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کے ضرور کام آئیگی۔ اس لئے یہ ان کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے اس نقش کو ان ناموں سے اپنی جاننے والی خواتین کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھیں یا تعویذ کی طرح اپنے گلے میں باندھ لیں اللہ کے فضل سے یہ ہمیشہ ان کے شر سے محفوظ رہیں گی۔

۲۳۵۳۵	۲۳۵۳۸	۲۳۵۵۲	۲۳۵۳۸
۲۳۵۵۱	۲۳۵۳۹	۲۳۵۳۲	۲۳۵۳۹
۲۳۵۳۰	۲۳۵۵۳	۲۳۵۶۳	۲۳۵۳۳
۲۳۵۳۷	۲۳۵۳۲	۲۳۵۳۱	۲۳۵۵۳



## عدد (2) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف اچھ	اسم الہی
آتیہ	AATYA	آقاصدہ	آ	الخالق
آریبہ	AREEBA	آزین	آ	الرزاق
آزدار	AZDAHAR	آزھورت	آ	الخبیر
آزل	AZAL	آہیشہ	آ	العلی
آفروزہ	AFROZA	آروشنی	آ	الواسع
آمروز	IMROOZ	آج والی	آ	الودود
آنوشہ	ANOSHA	آشادمانی	آ	المبدی
آمین	AIMAN	آمبارک	آ	الوالی
آرقہ	BARIQA	آرق والی	آ	المتعالی
آبتولہ	BATOLA	آپاک دامین	آ	ذوالجلال والاکرام
آبرکات	BARAKAT	آرحمتیں	آ	المغنی
آبرکہ	BARAKA	آنیک بختی	آ	الضار
آبت	BINT	آبھی	آ	الهادی
آبینظیر	BAINAZEER	آبہ	آ	الخالق

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
		پ		
الرزاق	407	پیش قیمت	PASHMEENA	پشینہ
		ت		
الخبیر	614	الاکتور	TABOORA	تابورہ
العلی	560	جنت کی نبر کا نام	TASNEEM	تسنیم
		ث		
الواسع	740	پھل	SAMAR	شمر
الودود	551	تغریف	SANA	ثناء
المبدی	605	عمدہ شے	SAMEENA	شمینہ
الوالی	560	قیمتی موتی	SEEN	شین
		ج		
المتعالی	65	ما تھا	JABEEN	جبین
ذوالجلال والاکرام	38	چادر	JILBAB	جلباب
		ح		
المعنی	263	احترام کی چادر	HAREEMA	حرمہ
الضار	119	اعلیٰ اوصاف	HUSNA	حسنى
الهادی	263	سرخ ستارہ	HUMAIRA	حمیرہ
		خ		
الخالق	659	خوبصورت	KHOOBAN	خوبان

اسم الہی	حروف اچھ	مطلب	انگریزی	نام
الرزاق	641	نادر	KHOLA	خولہ
الخبیر	101	ممتاز	KHAILA	خیلا
العلی	1163	روشن	DARAKHSHINDA	درخشندہ
الواسع	236	خوش کن	DIL AARA	دل آرا
الودود	218	باندوبالا	RABIA	رابیہ
المبدی	290	تغائب کرنے والی	RADIFA	زادفہ
الوالی	326	شنزادی	RAANA	راعنہ
المتعالی	686	مہربانی	RAFATA	رافتہ
ذوالجلال والاکرام	290	ہمدرد	RAFIDA	رافدہ
المغنی	308	منتظر	RAQIBA	راقبہ
الضار	263	مہربان	RAHEEMA	رحیمہ
الہادی	1001	مرضی	RAZA	رضا
الخالق	281	خوش	RAFA	زفا
الرزاق	560	خمیہ، بکیہ	RAFRAF	رفرف
الخبیر	299	گول مٹول	RAFEEDA	رفیدہ
العلی	335	باند	RAQLA	رقلہ
الواسع	218	سورج	ROOBI	روبی

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ز		
الودود	65	لپک	ZABANA	زبانہ
المبدی	308	بلند حوصلہ	ZARQA	زرقا
الوالی	272	سونے والی	ZAREENA	زریںہ
المتعالی	362	معطر	ZAFRA	زعفرہ
ذوالجلال والاكرام	272	موتیوں والی	ZANEERA	زنیہ
المعنی	20	خوبصورت	ZAIBA	زیبا
		س		
الضار	74	نباتات	SABZA	سبزہ
الهادی	92	راہیں	SUBUL	سبل
الخالق	119	ذاکرہ	SADEEMA	سدیمہ
الرزاق	263	گرمز مند	SARAB	سراب
الخبیر	335	عقلمند	SAREESA	سریسہ
العلی	155	شہزادی	SULTANA	سلطانہ
الوالسع	146	ایک پرندہ	SAMAMA	سامہ
الودود	515	نشان	SAMEETA	سمیتہ
المبدی	119	نیک	SAMEEDA	سمیدہ
الوالی	155	پارسا	SUNEELA	سینلہ
المتعالی	110	ستارے	SAHEELA	سینلہ

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
-----	---------	------	-----------	----------

ش

شاداب	SHADAB	ہری ہمری	308	ذوالجلال والاکرام
شاطبہ	SHATIBA	فتکارہ	317	المغنی
شاہینہ	SHAHEENA	بلند پرواز	317	الضار
شبو	SHABBO	گل چاندی	308	الہادی
شہبہ	SHABEEBA	شہزادی	317	الخالق
شریطہ	SHREETA	عطر دان	524	الرزاق
شقرہ	SHAQRA	سرخ مائل	605	الخبیر
شقیقہ	SHAQEEQA	تھرد	515	العلی
شمرانہ	SHAMRANA	سنجیدہ	596	الواسع

ص

صادقہ	SADIQA	سچی	200	الودود
صادیہ	SADIYA	پہاسی	110	المبدی
صباح	SABAH	سحر	101	الوالی
صدیقہ	SIDDEEQA	راست	209	المتعالی
صفرا	SUGHRA	سونے جیسی	371	ذوالجلال والاکرام
صوفیہ	SUFIYA	برگزیدہ	191	المغنی

س

ضامرہ	ZAMIRA	پوشیدہ	1046	الضار
-------	--------	--------	------	-------

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الہادی	1010	خوبصورت لہرو	ZARTAA	ضرطاء
<b>ع</b>				
الخالق	146	فعال	AAMILA	عاملہ
الرزاق	119	عادلہ	ADEELA	عدیلہ
الخبیر	317	برگزیدہ	ARZAM	عزم
العلی	335	جنگل والی	AREENA	عرینہ
الواسع	164	شاخ	ATFA	عطفہ
الودود	245	پارسا	AFEEFA	عقیقہ
المبدی	155	علم والی	ALEEMA	علیمہ
الوالی	119	معتبر، نفیس	UMDA	عمدہ
المتعالی	137	خوبصورت عورت	AOSA	عوسا
<b>غ</b>				
ذوالجلال والاکرام	1010	نرم و نازک	GHADA	غادہ
المغنی	1316	قیامت	GHASHIYA	غاشیہ
الضار	1046	تیز خوشبو	GHALIYA	غالیہ
الہادی	1037	عشقیہ اشعار	GHAZAL	غزل
<b>ف</b>				
الخالق	344	شادان	FARHANA	فرحانہ
الرزاق	299	بے مثال	FAREEDA	فریدہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الخبیر	137	زلقوں والی	FANWA	فتوا
		ق		
العلی	200	پیغام بر	QASDA	قاصدہ
الواسع	506	خاموش	QATAH	قاتہ
		ک		
الودود	227	عظیم	KABRA	کابره
المبدی	335	کامران و کامیاب	KSHODA	کشودہ
الموالی	596	پری چہرہ	KALSOOM	کلثوم
		گ		
المتعالی	146	نرم و نازک	GULANDAM	گل اندام
		ل		
ذوالجلال والاکرام	83	خوش اطوار	LUBNA	لبنی
		م		
المغنی	101	حادثہ	MAHNA	ماہینہ
الضار	695	قابل تعظیم	MAKHDOOMA	مخدومہ
الهادی	246	پتی کردالی	MIDRA	مڈرا
الخالق	281	مراد	MARAM	مرام
الرزاق	461	گوہر	MARWAREED	مروارید
الخبیر	245	چاندی	MARAH	مرہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
العلی	290	دوشیزہ	MARYAM	مریم
الواسع	56	بھارت	MUZDA	مژدہ
الودود	146	ساتھی	MUSAHIBA	مصاحبہ
المبدي	191	چائی ہوئی	MASONA	مصنوعہ
الوالی	1055	بزرگی والی	MUAZIMA	معظمہ
المتعالی	209	پاک عورت	MUQADISA	مقدسہ
ذوالجلال والاکرام	245	طلب	MAQSOODA	مقصودہ
المغنی	110	خوبصورت	MAHIABEEN	مہ جبین
الضار	56	روح، جان	MAHJA	مجھ
الهادی	101	شیشہ	MEENA	مینا
<b>ن</b>				
الخالق	74	کنارہ	NAHIYA	ناحیہ
الرزاق	83	تیر ساز	NABAL	نبال
الخبیر	65	کونسل	NADWAH	ندوہ
العلی	155	منفرد	NASEELA	نسلیہ
الواسع	56	شیشہ	NIHA	نیہا
لودود	65	ذہانت	NAHI	نہی
المبدي	74	پروقتار	NHEEDA	نہیدہ



اسم الی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
		و		
الوالی	551	برگزیدہ	WASEELA	وشیلہ
المتعالی	101	وقادار	WAFIA	وفیہ
المغنی	20	روشنی	WAHHAJA	وہاجہ
		ہ		
الضار	110	پانی کا قطرہ	HAMEENA	ہمینہ
الهادی	56	رحمت	HANA	ہنا
		ی		
الخالق	101	پاکباز	YAMNA	یمناء
الرزاق	110	برکت والی	YAMEEN	یمین

## عدد (7) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		آ		
آرزو	AARZO	خواہش	214	الجلیم
آزلہ	AAZALA	روکنے والی	43	الکبیر
		ا		
اجتہاج	IBTIHAJ	سرت	412	المعید
اڑکیہ	AZKIYA	ذہین	736	الزوف
ارم	IRAM	جنت	241	الغنی
ازہار	IZHAR	پھول	214	الجلیم
اسدہ	ASDA	بہادر	70	الکبیر
اطروبہ	UTROOBA	معطر	223	المعید
امروزہ	IMROZA	جدت پسند	259	الروف
		ب		
بازنہ	BAZIGHA	چنگدار	1015	الغنی
باشینہ	BASHEENA	خوبصورت	367	الجلیم
بدا	BADA	شروع	7	الکبیر
برزن	BARZAN	محلہ	259	المعید
		پ		
پارینہ	PAREENA	قدیم	268	الروف

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
پروین	PARWEN	ستارے	268	الغنی
تبسم	TABASSUM	مسکراہٹ	502	الحلیم
تحفہ	TUHFA	نعمت	493	الکبیر
تمکین	TAMKEEN	رتبہ	520	المعید
تمیز	TAMEEZ	پہچان	457	الروف
تنزیلہ	TANZEELA	اتری ہوئی	502	الغنی
ثمرہ	SAMRA	جزا، پھل	745	الخلیم
ثنیہ	SANYA	پالاسا	565	الکبیر
جلا	JILA	روشنی	34	المعید
جیلہ	JAMEELA	خوبصورت	88	الروف
حینہ	HASEENA	خوبصورت	133	الغنی
حلیفہ	HALEEFA	مددگار	133	الخلیم
خازر	KHARAZ	عظمت	808	الکبیر
خانم	KHANAM	بیگم	691	المعید

اسم الی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الروف	817	باخبر	KHABEERA	خبیره
الغنی	655	معطر	KHATAMA	خطامہ
الحلیم	745	اخلاق والی	KHALEQA	خلیقہ
		ذ		
الکبیر	736	تیز خوشبو والی	ZAKIYA	ذاکیہ
		ر		
المعید	268	بردار	RASIBA	راسبہ
الروف	205	موسیقی	RUBAB	رباب
الغنی	916	طلوع	RUKHSANA	رخسانہ
الحلیم	205	چادر	RIDA	ردا
الکبیر	385	ساتھی	RASEEFA	رضیفہ
المعید	1015	مطمئن	RAZIYA	رضیہ
الروف	1204	عیش، نعمت	RAGHAD	رغد
الغنی	781	ساتھ	RIFAQAT	رفاقت
الحلیم	745	راہ راست	RAMSA	رمہ
الکبیر	556	چمکیلا	ROSHAN	روشن
المعید	601	نرم و نازک	RAISMAN	ریشمان
الروف	331	نوجوانی	RESAN	ریسان
الغنی	250	ہرن	REEM	ریم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ز		
الکبیر	808	پیش قیمتی شے	ZARTAR	زرتار
المعید	1042	نرم و نازک	ZAGHLA	زغلہ
الروف	457	باوقار	ZAMEET	زمیت
		س		
الغنی	79	چھوٹے والی	SAIYA	ساجیہ
الحلیم	268	ظاہر	SARIBA	ساریہ
الکبیر	97	چھوٹا راستہ	SABLA	سبلہ
المعید	97	بہت گوری	SABEEKA	سبیکہ
الروف	465	قابل تعریف	SATODA	ستودہ
الغنی	268	فجر	SAHAR	سحر
الحلیم	466	عمدہ و خالص	SARARA	سرارہ
الکبیر	475	دبذبہ	SATWAT	سطوت
المعید	196	کشتی	SAFANA	سفانہ
الروف	205	کشتی	SAFEENA	سفینہ
الغنی	97	اللہ کی عنایت	SALWA	سلوئی
الحلیم	205	شعور	SALEQA	سلیقہ
الکبیر	142	کونیل	SUNBAL	سنبل
المعید	277	نور کا تزکا	SAWAIRA	سویرا

نام	انگریزی	مطلب	حروف تہجد	اسم الہی
سہام	SAHAM	بھالے	106	الروف
		ش		
شائزہ	SHAIZA	ناز	313	الغنی
شبانہ	SHABANA	پر شباب	358	الحلیم
شائلہ	SHAMAILA	با کردار	376	الکبیر
شمشاد	SHAMSHAD	سرو	646	المعید
شیرہ	SHAHERA	شہرت یافتہ	520	الروف
شیا	SHEEBA	فریقہ	313	الغنی
		ص		
صباح	SABAHA	حسین	106	الحلیم
صبیحہ	SABEEHA	حسین و جمیل	115	الکبیر
صراحہ	SARAH	پر خلوص	304	المعید
صریحہ	SAREEHA	خالص	313	الروف
صفیرہ	SAFEERA	خوش آواز	385	الغنی
صنوہ	SANWA	ملی جلی ہریالی	151	الحلیم
صونہ	SONA	خزانہ	151	الکبیر
		ض		
ضاہر	ZAHAR	بلندی	1006	المعید

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
		ط		
الروف	115	خوش قسمت	TALIA	طالعا
الغنی	232	سجائے والی	TARAZIA	طرازیا
الخلیم	232	خوش	TAROOBIA	طروفیا
الکبیر	214	زلف	TARAH	طرہ
		ظ		
المعید	1186	عظمت	ZARAFIA	ظرافہ
		ع		
الروف	376	خوش حال	AYESHA	عائشہ
الغنی	277	رواں دواں	ARBA	عربہ
الخلیم	970	شادمانی	ISHRAT	عشرت
الکبیر	115	بلند مرتبہ	ULYA	علیہ
المعید	322	خوشبو	ANBAR	عنبر
الروف	79	نصیحت	AHAD	عہد
		غ		
المغنی	1015	نازک اندام	GHAIDA	غیدا
		ف		
الخلیم	916	عالمہ	FAZLA	فاضلہ
الکبیر	1096	نرم و نازک	FAGHIYA	فاغیہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المعید	106	ہنس مکھ	FAKHA	فاکہ
الروف	925	برتری	FAZILA	فضیلہ
الغنی	700	سویچ پچار	FIKRAT	فکرت
الحلیم	196	خوجھورت	FEENANA	فینانہ
<b>ق</b>				
الکبیر	340	چاند	QAMAR	قمر
<b>ک</b>				
المعید	223	بہت بڑی	KUBRA	کبریٰ
الروف	106	نیلو فر	KANWAL	کنول
<b>ل</b>				
الغنی	97	ذہین	LABINA	لابینہ
الحلیم	88	گروہ	LAINA	لابنہ
<b>م</b>				
الکبیر	142	محفوظ	MAMONA	مامونہ
المعید	106	خادمہ	MAHIN	ماہین
الروف	268	مبارک	MUBARIKA	مبارکہ
الغنی	331	آہستہ	MARSAL	مرسال
الحلیم	259	پاکیزہ	MUTAHHIRA	مطہرہ
الکبیر	448	چاند	MAHTAB	مہتاب



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المعید	151	مبارکہ	MEMONA	میمونہ
		ن		
الروف	70	پکارتے والی	NADIA	نادیہ
الغنی	358	ناز	NAZISH	نازش
الحلیم	106	قوت نما	NAMIYA	نامیہ
الکبیر	70	بادشاہ	NAHID	ناہید
المعید	88	شریف	NABALA	نبالہ
الروف	97	خوبصورت	NABILA	نبیلہ
الغنی	70	شریف	NAJIBA	نجیبہ
الحلیم	160	نرم ہوا	NASIM	نسیم
الکبیر	1051	چمکدار	NAZAAR	نظار
المعید	205	عمدہ	NAFEESA	نفسیہ
الروف	475	خوشبو	NIKHAT	نکھت
الغنی	475	خوشبو	NIGHAT	نگھت
الحلیم	205	خط	NAMIQA	نمیقہ
		و		
الکبیر	16	محبت	WADAD	واداد
المعید	286	کثرت	WAFAR	وفا
الروف	151	برق	WALIQA	ولیقہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ہ		
الغنی	214	ہجرت کرنے والی	HAIIRA	ہاجرہ
الحلیم	25	ہدایت یافتہ	HADIA	ہادیہ
الکبیر	70	خوش	HINIA	ہنیہ
		ی		
المعید	115	نیک دل	YAMINA	سینہ

## عدد (2) اور (7) سے منسوب خواتین

پچھلے صفحات میں جدول میں درج اسم الہی صرف ان خواتین کیلئے ہیں۔ جن کا عدد (۲) اور (۷) ہے۔ یہ خواتین اپنے کسی بھی مقصد کی خاطر ان اسم الہی سے جو ان کے نام کے آگے لکھا ہے اس کو بخرت یا اپنے نام کے حروف کی تعداد کے مطابق ورد کریں۔ اللہ کے فضل و احسان سے ان کا ہر مسئلہ حل ہو گا۔ اور اسم الہی بھی ان تمام خواتین کے نام کے مزاج کے مطابق درج کیا گیا ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت ان کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہ رہے۔ اور یہ خود ہی اپنے نام کے آگے لکھے اسم الہی کو ورد کرنا شروع کر دیں۔ ورد کرنے کیلئے کسی خاص اجازت کی بھی حاجت نہیں ہے۔

## عدد (2) اور (7) سے منسوب خواتین

یہ خواتین ہر معمولی بات پر جذباتی کیفیت رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور داخلی طور پر یہ پریشان زندگی گذارتی ہیں۔ کسی سے اپنے متعلق اچھی خبر سن کر بے حد خوش ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کے الٹ ہو تو یہ زار و قطار رونا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی ان پر کسی قسم کے کوئی جملے کہے یا ان کے متعلق مذاق اڑائے تو کسی بھی بات کا لحاظ کئے بغیر فوراً کجحوالہ ہو کر اس پر برسنا شروع کر دیں گی جس نے ایسی حرکت کی ہو گی۔ یہ موسیقی سے لگاؤ رکھتی ہیں۔ اور یہ اپنی مرضی کے گانے سننا پسند کرتی ہیں۔ اور اپنے پسندیدہ گانوں میں مگن ہو کر ایسا ڈوبتی ہیں کہ پھر ان کو اپنے متعلق ہوش ہی نہیں رہتی اس کے علاوہ یہ عملی دنیا سے زیادہ تصورات کی دنیا میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اپنے خیالات کی وادی کو ہمیشہ سجائے رکھنا بھی ان کی زندگی کا خاصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر یہ کسی ہنگامی صورت حال سے دوچار ہوں تو ایسے کارنامے سرانجام دیتی ہیں۔ کہ دیکھنے والے کی حیرت گم ہوتی ہے۔ یہ ان دوسری خواتین یا ان دوسروں مردوں سے بہت زیادہ جلتی ہیں۔ جو ان سے زیادہ مقام رکھتے ہوں۔ اور اسی نقص کی بنیاد پر یہ خود اعتمادی کا شکار ہو کر زیادہ وقت جلنے میں لگاتی ہیں۔ اور اپنی کامیابی کے متعلق بھول جاتی ہیں۔ اگر یہ اپنے اس نقص کو دور کر لیں تو زندگی کے کسی بھی میدان میں بہت جلد کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ان کو اس بات کے متعلق پتہ لگ جائے کہ کوئی ان سے ہمدردی جتا کر ان سے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو بھی یہ اس کا کسی بھی طریقے سے نقصان کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ یہ اپنی سہیلیوں عزیز و اقارب اور اپنے تمام ملنے

والوں سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں۔ کہ جیسے دنیا میں ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا ہمدرد نہیں ہے۔ اور موقع آنے پر اگر انہیں تکلیف بھی دینی پڑے تو یہ ہر صورت تکلیف پہنچا کر ہی رہیں گی۔ وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے یا ان کا دل دکھائے۔ اپنے شوہر کے معاملے میں یہ کسی بھی طرح ہرگز نہیں چاہتیں کہ ان کا شوہر کسی غیر عورت سے کسی قسم کی کوئی بات کرے یا اس سے کوئی تعلق رکھے بلکہ ہمیشہ اور سازی زندگی صرف میرا ہی دم نھرے اگر میں دن کھوں تو یہ دن کے اور اگر دن کورات کھوں تو یہ رات کے۔ ایسا بھی ان خواتین کی زندگی میں کم ہی ہوتا ہے۔ اور ویسے شوہر کے معاملے میں یہ خواتین دوسری عورتوں سے زیادہ دکھی ہوتی ہیں۔ اور اگر اوپر والی مثال کے مطابق ان کو ایسا شوہر مل جائے تو یہ بھی ان کی زندگی میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور اگر ایسا شوہر ان کو مل جائے تو یہ کبھی بھی اپنے شوہر کا دل نہ دکھائیں اور اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کریں۔ اس کے علاوہ یہ کسی بھی معاملے کی سیاست میں خوب دلچسپی رکھتی ہیں۔ اور کسی دوسرے سے کام پڑنے پر یہ اپنا کام نکلوا کر ہی چھوڑتی ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اگر یہ اپنی انا کا تحفظ چاہتی ہوں۔ تو انہیں تحریص اور ترغیب سے بچنا چاہئے اور اپنے لئے مثبت راستے اختیار کرنے چاہئیں اس کیلئے ان کو بہت زیادہ محنت درکار ہوگی۔ لیکن اسی صورت میں ان کی کامیابی اور ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ زیادہ ان خواتین کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو اپنی ذات پر کم اعتماد ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ذہن اور ہوشیاری کے لحاظ سے ان کو اپنی ذات پر زیادہ اعتماد ہونا چاہئے مگر ایسا کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہی ہے۔ اگر یہ خواتین اپنے آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں اور اپنی ذات پر زیادہ زیادہ اعتماد کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو کسی بھی میدان میں مات نہیں دے سکتی اس لئے یہ خواتین اپنے متعلق کتاب میں سے دیکھ کر اپنی خامیوں کو درست کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ کیسے دن بدن ترقی کی طرف جاتی ہیں۔ پھر ہر کامیابی والا میدان ان کا اپنا میدان ہوگا۔ انشاء اللہ

## ان خواتین کا روحانی فال نامہ

یہ خواتین اپنے روحانی فال نامہ میں اس بات سے مطلع ہوں۔ کہ اگر ان کو کسی دوا سے کسی قسم کا کوئی افاقہ نہ ہو رہا ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ یہ سو موار والے دن کسی نہر، دریا، یا کسی قبرستان سے گزری ہیں۔ اور اس کی یہ نشانی ہے۔ کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ان کی ہڈیوں کو پکڑ لیا ہے۔ اور درد اس قسم کی ہوتی ہے کہ جیسے روح نکل رہی ہے۔ پھر سر میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ پورے بدن میں ایسا لرزہ پیدا ہوتا کہ کان بھاری ہو جاتے ہیں۔ معدہ، پیٹ، اور ناف کا مقام ایسی پکڑ میں آتا ہے۔ جس کی تکلیف بیان سے باہر ہے۔ منہ کا ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ اور اگر ان میں کسی عورت کی ایسی حالت نہ ہو تو ان پر نظر بد گفتار ہی ہے۔ اس کی نشانی کہ ان کی گردن یا پیٹھ پر تل ہے۔ اور یہ تین صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان خواتین میں پہلی صورت کہ ان کا چہرہ سفید اور خوبصورت ہو گا۔ اور یہ بہت زیادہ دوسرے سے خوش خلقی سے پیش آئیگی۔ ان خواتین کی دوسری صورت رنگ گندمی اور کالی آنکھیں ہونگی۔ یہ اپنے مزاج کی تیز ہونگی۔ ان خواتین کی تیسری صورت درمیانہ رنگ اور بھوری آنکھیں یہ چست اور چالاک اور بہت حاضر دماغ ہونگی۔ ان میں سے کوئی بھی خاتون ہو۔ یہ اپنے روحانی علاج کے طور پر ان دعاؤں کو مشک اور زعفران سے لکھ کر اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو پر باندھیں۔ اور اس سے آگے طلسمات لکھے ہوئے کو کالی سیاہی سے لکھ کر اپنے سر سے سات مرتبہ وار کر دیا سلائی کی مدد سے جلا کر اس کی دھونی لیا کریں۔ یہ ان کا ہر طرح سے روحانی علاج ہے۔ اور اگر ان پر کسی بھاری میں کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی ہوگی تو اس علاج کی مدد سے ان پر دوائی بھی اثر کرے گی اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہوگی۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله  
المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في  
السماء وهو السميع العليم اعوذ صاحب الدعوات بحق اھيا شراھيا  
صيطيطا برح و صكوه الحى م ح م د فسيكفيكهم الله وهو السميع  
العليم بحق يا شروھيا يا اھيا شراھيا وبراهيا ومن الذين اضاوت  
الرشدى انه من ستليمان بن داوئد عليه السلام فلان بن فلان

اس طلسم کو کالی سیاہی سے لکھ کر ٹی اور اونٹ کے بالوں میں رکھ کر پھر جلا کر اس کی دہونی لیں۔

ش ۰۰ ۷۹ ۷۶ م ۷۸۳۸۹۷۶ ر ۷۸۳۲۸۹ ل ۷۸۳۲۸۱ ۷۸۳۲۸۱ ن

۷۳۷۸۳۹ ل ۷۳۷۸۳۹ ی ۷۳۷۳۷۸۳۸ س سسوسوع

### اچھے رشتے کے حصول کیلئے

یہ خواتین اچھے رشتے کے حصول کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی الٹی بازو پر باندھیں اور دوسرے نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے سونے اور زیادہ رہنے والی جگہ پر لٹکائیں یہ ان خواتین کیلئے بہت زبردست اور آسان عمل ہے اس سے اگر ان کی کسی نے خواب بندی کی بھی ہوگی تو اللہ کے حکم سے ختم ہوگی۔ اور اسی مقصد کیلئے اپنے نام کے آگے لکھے اسم لہی کو بھی زیادہ ورد کیا کریں۔

گلے میں پہننے والا نقش

۳۳۲۵	۳۳۲۹	۳۳۳۲	۳۳۱۸
۳۳۳۱	۳۳۱۹	۳۳۲۳	۳۳۳۰
۳۳۲۰	۳۳۳۳	۳۳۲۷	۳۳۲۳
۳۳۲۸	۳۳۲۲	۳۳۲۱	۳۳۳۳

لٹکانے والا نقش

۲۲	۳۳	۳۳	۱۹
۲۸	۲۵	۲۳	۳۶
۲۳	۳۰	۲۹	۲۶
۳۵	۲۰	۲۱	۳۲

### سفلی علم کا مکمل خاتمہ

اگر ان خواتین پر کسی نے سفلی علم کروادیا ہو اور ان کی زندگی میں خوشی کی بجائے زیادہ غم اور دکھ رہتا ہو تو یہ ان آیات کو اس نقش سمیت زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں اور

دوسری آیات کو بھی زعفران سے لکھ گلاب کے عرق میں ڈال کر اس کو پینیں اللہ کے علم سے بڑے سے بڑے سفلی علم کا خاتمہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰۤاٰمَنُۢمُجْرِبِیۡنَ اِنۡ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفِذُوۡا مِنْۢ مِّنۡ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ فَاَنْفِذُوۡا ۗ اِلَّا تَنْفِذُوۡنَ ۗ اِلَّا بِسُلْطٰنِ اللّٰهِ ۗ اِحْفَظْ صَاحِبَ الْکِتٰبِ مِّنۡ کُلِّۭ اَفۡةٍۭ دَعَاہُہٗ وَلَا مَۡةٍۭ وَّمِنۡ شَرِّ کُلِّ شَیْطٰنٍ وَّشَیْطٰنَۃٍ وَّجَنۡیۡ وَّجَنۡیۡةٍۭ فِلٰنَ بِنْتِ فِلٰنَ

۸۰۳۸	۸۰۳۱	۸۰۳۵	۸۰۳۱
۸۰۳۴	۸۰۳۲	۸۰۳۷	۸۰۳۲
۸۰۳۳	۸۰۳۷	۸۰۳۹	۸۰۳۶
۸۰۳۰	۸۰۳۵	۸۰۳۳	۸۰۳۶

### روزگار کو بڑھانے کیلئے

اگر ان خواتین کا کوئی اپنا یا ان کے شوہر کا کاروبار ختم ہو رہا ہو اور اس میں کسی سفلی علم کا کردار ہو تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر مٹی کے گھڑے میں تازہ پانی ڈال کر اس کے پانی کو روزانہ ایکس دنوں تک اپنے کاروباری مقام پر چھڑکا لیں اور سورۃ الم نشرح کو سومر جبہ اپنے کاروبار کی ترقی کی غرض سے پڑھیں اللہ کے حکم اور فضل سے ان کا کاروبار پہلے سے زیادہ چلے گا۔

۱۱۷	۱۲۸	۱۳۰	۱۱۳
۱۲۳	۱۲۱	۱۱۹	۱۲۶
۱۱۸	۱۱۲۵	۱۲۳	۱۲۲
۱۳۱	۱۱۵	۱۱۶	۱۲۷

### ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

اگر یہ خواتین ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں جس کا علاج نہ ہو رہا ہو تو ان آیات کو تانے کے پتے پر کندہ کروا کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پینیں اور اسی نقش کو پھر تانے پر کندہ کروا کر

روڈ کر اپنے گلے میں باندھیں ان کا ہر مرض روحانی طور پر ختم ہوگا۔ اور یہ سکون محسوس کریں گی۔

۱۹۳۹۶	۱۹۳۰۰	۱۹۳۰۳	۱۹۳۸۹
۱۹۳۰۲	۱۹۳۹۰	۱۹۳۹۵	۱۹۳۳۰۱
۱۹۳۹۱	۱۹۳۰۵	۱۹۳۹۸	۱۹۳۹۳
۱۹۳۹۹	۱۹۳۹۳	۱۹۳۹۲	۱۹۳۰۳

### نظر بد سے مکمل نجات کیلئے

اگر ان خواتین کو بار بار کسی کی نظر بد کا اثر ہوتا ہو تو یہ اس نقش کو کالی سیاہی سے کافی مقدار میں لکھ کر رکھیں اور روزانہ ایکس دنوں تک ان کو صبح دوپہر اور شام ایک ایک جلایا کریں اس عمل سے نظر بد کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اور یہ آئندہ کیلئے بھی اس سے محفوظ رہیں گی۔ اور دوسرے نقش زعفران سے لکھ کر اپنی الٹی بازو پر باندھیں یا اپنے گلے میں باندھیں اللہ کے فضل سے ان کا مقصد راہ ہوگا۔

۶۰۷۰	۶۰۷۳	۶۰۷۷	۶۰۶۳
۶۰۷۶	۶۰۶۳	۶۰۶۹	۶۰۷۳
۶۰۶۵	۶۰۷۹	۶۰۷۱	۶۰۶۸
۶۰۷۲	۶۰۶۷	۶۰۶۶	۶۰۷۸

### ہر طرح کی فتح حاصل کرنے کیلئے

ان خواتین کا خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہو یہ اپنے کسی بھی دنیوی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر اس عمل کو اپنا معمول بنالیں یہ عمل ان کو ان کی زندگی میں اتنے فوائد دے گا۔ کہ خود حیران ہوگی ایسا صرف اس لئے ہوگا کہ یہ عمل صرف ان کے کرنے والا ہے۔ اور ان سے مل مناسب رکھتا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے حسب مقدار بیٹھا زردہ خود اپنے تھوں سے پکائیں اور چوں میں بانٹیں پھر اس دعا کو روزانہ چالیس دنوں تک وقت مقررہ پر اپنے



نام کے حروف کے مطابق پڑھیں (جدول میں نام کے حروف ہیں) اگر چالیس دنوں کے بعد بھی پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کو شروع رکھیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انى اسئلك باسمك الذى اذا ذكرت به سجدت له الملائكة سبحت وبالاسم القدوس السلام القديم وبالاسم المخزون المكنون وبالأسم الذى سميت به بنفسك وبالاسم الذى هو مكتوب على سرادق الجلال وبالاسم الاكبر الاكبر وبالاسم الاعظم الاعظم المحيط بملكوت السموات والارض وبالاسم الذى مشى به الخضر على الماء فلم تبتل قد ماہ وبالاسم الذى كشفت به ضر ايوب وبالاسم الذى وهبت لذكرىنا يحيى ان تشغنى مرضى الذى انا فيه

### اللہ کی رحمت حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں ان کی غیب کے ذریعے مدد فرمائے اور ان سے خوش رہے اور دنیا میں ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو تو اس عمل پر سب سے پہلے عبور حاصل کرنا ہوگا۔ پھر اس کی طاقت اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی نعمتیں آپ خود ہی مشاہدہ فرمائیں گی۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو ہر لحاظ سے پاک اور صاف ہو اور اس میں جوتی بھی پنن کر کوئی نہ گزرتا ہو اگر ایسی جگہ آپ کو مل جائے تو اس کو صاف ستھرا کر کے عمل شروع کرنے سے پہلے یعنی ایک گھنٹہ پہلے بارہ اگرچیاں سلگائیں جب یہ بچھ جائیں تو دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد شریف کے بعد ان آیات کو اکیس مرتبہ پڑھیں (قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انک على کل شیء قدير تولج اللیل فی النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغير حساب) ان کو ایک رکعت پڑھ کر اکیس مرتبہ پڑھیں پھر ایک مرتبہ پڑھ کر اکیس مرتبہ پڑھیں پھر سجدہ میں ان کو بھی اکیس مرتبہ پڑھیں (ربنا اغفر لنا وارحمنا وهب لنا مملکا لا

ینبغی لاجد من بعدی انک انت الوهاب الباسط) پھر آخر میں سلام پھیرنے کے بعد ان کو بھی اکیس مرتبہ پڑھیں (یا ارحم الراحمین وبحق اللہم صل علی محمد و آل محمد) اس طرح کرنے والا عمل خوب سمجھ کر پھر اس کو کریں اللہ کے حکم سے دنیا میں ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور اس عمل کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں۔ بلکہ وہ خواتین ضرور اس عمل کو کریں جن کا یہ عدد ہو اگر اس کے علاوہ کوئی اور عدد والی خاتون اس کو کرنے کی تو ان کا عمل مشکل سے پورا ہوگا۔

### قوت ذہن کیلئے

اس عدد سے تعلق رکھنے والی خواتین میں سے کسی کا دماغ پڑھائی یا دوسروں شعبوں میں تیز نہ چلتا ہو تو یہ کثرت سے ان آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں یا اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کو پینے سے پہلے ان کو سومرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر کے پھر پیئیں اللہ کے فضل سے ان کا دماغ ہر معاملے میں بہت تیز چلے گا۔ پڑھنے والی آیات (بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابریں الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ و اولئک ہم المہتدون

### دل و دماغ کو نیک راستے پر مائل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کو بہت زیادہ دوسو سے آتے ہوں اور شیطان ان کے پاس زیادہ آتا ہو تو یہ اس عمل کی بدولت شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہیں گی۔ اور ان کا دل اور دماغ اللہ کے کاموں کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ مثلاً جو خواتین جو نماز پڑھنے کی سستی کرتی ہیں۔ اور دل بھی نماز پڑھنے کو

نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی تمام شیطان کی شرانگیزیوں سے محفوظ رہنے کیلئے اس عمل کو روزانہ بعد نماز فجر صبح پڑھ کر ایک سو مرتبہ پڑھیں اور پہلے ہی دن اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر رکھ لیں اور بعد میں اسے چاندی میں کندا کر ڈال کر اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو پر باندھیں اس عمل سے ان کا دل اور دماغ صرف نیک کاموں کی طرف مائل ہوگا۔

پڑھنے والی آیات۔ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ  
وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشْدَّاءُ عَلٰی الْكُفَّارِ رَحْمَةً بَيْنَهُمْ تُرْهَمُ رُكْعًا سَجْدًا یَّبْتَغُوْنَ  
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِیْمَانًا هُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ  
مِثْلُهُمْ فِی التَّوْرَةِ مِثْلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْرُهُ فَازْرَهُ  
فَاسْتَغْلَظْ فَاسْتَوٰی عَلٰی سَوَاقِهِ یَعْجَبُ الزَّرْعُ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَّ  
اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِیْمًا وَبِحَقِّ یَا  
رَبِّ سَهْلٌ وَّیَسْرٌ وَلَا تَعْسَرَ عَلَیْنَا یَا اللّٰهُ یَا رَبِّ  
گلے میں پہننے والا نقش

۲۲۲۶۵	۲۲۲۶۸	۲۲۲۷۱	۲۲۲۷۴
۲۲۲۷۰	۲۲۲۷۳	۲۲۲۷۶	۲۲۲۷۹
۲۲۲۸۴	۲۲۲۸۷	۲۲۲۹۰	۲۲۲۹۳
۲۲۲۹۸	۲۲۳۰۱	۲۲۳۰۴	۲۲۳۰۷

### تبادلے میں منسوخی کیلئے

ان خواتین میں سے اگر کوئی خاتون کوئی نوکری وغیرہ کر رہی ہو اور ان کے مخالف ان کا تبادلہ کرنا چاہتے ہوں اور یہ اس جگہ سے نہ جانا چاہتی ہوں تو جو افراد ایسا کرنا چاہتے ہوں ان کا مکمل تصور باندھ کر سورۃ فتح کو روزانہ ایکس دنوں تک ایکس مرتبہ پڑھیں ان کے مخالف اپنی شرارتوں اور اپنے مقصد میں ناکامیاب ہونگے۔ اور اپنے تبادلے کو منسوخ کرنے کیلئے اس نقش کو نیل کی سیاہی بنا کر اس سے لکھیں اور اپنے مخالفین کے نام لکھیں ان کا تبادلہ رک جائیگا اور ان کے مخالف ان کے زیر ہونگے۔

۱۵۲۰	۱۵۲۲	۱۵۲۷	۱۵۲۳
۱۵۲۱	۱۵۲۳	۱۵۲۹	۱۵۲۵
۱۵۲۵	۱۵۲۹	۱۵۳۲	۱۵۲۸
۱۵۳۳	۱۵۲۷	۱۵۲۶	۱۵۳۸

### سو وظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

یہ خواتین جدول میں لکھے گئے اپنے اسم لھی کو زیادہ سے زیادہ ورد کریں یہی ان کا سو وظیفوں کا ایک وظیفہ ہے۔ اور اس کی ہدایت کیلئے جھوٹ کو کم یولیں اور زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں صرف کریں۔ اور صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرنے کی عادت بنا لیں یہی ان کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو بہت فائدہ دے گا۔

۷۲۱۱	۷۲۱۳	۷۲۱۷	۷۲۰۳
۷۲۱۶	۷۲۰۵	۷۲۱۰	۷۲۱۵
۷۲۰۶	۷۲۱۹	۷۲۱۲	۷۲۰۹
۷۲۱۳	۷۲۰۸	۷۲۰۷	۷۲۱۸

### نفسانی خواہشات کے خاتمے کیلئے

اگر ان میں سے کوئی خاتون نفسانی خواہشات کی شکار ہو اور یہ خود بھی اس عادت سے پریشان ہوں اور کسی بھی طریقے سے نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہو تو ایک بالکل صاف اور شفاف آئینہ لاکر خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر (یا علی یا عظیم یا عظیم یا علی) کو بھرت آئینے میں خود سے نظریں ملا کر اتنی دیر پڑھیں جتنی دیر مزہبی آرہا ہو اور نفسانی خواہشات سے سکون بھی ملتا ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے نفسانی خواہشات کا جڑ سے کھل خاتمہ ہو گا۔ اور اس پر کاربند رہنے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنی الٹی بازو پر باندھیں یہ نقش خواہشات کو بھڑکنے نہیں دیگا۔

۲۰۳۲۹	۲۰۳۳۲	۲۰۳۳۶	۲۰۳۳۲
۲۰۳۳۵	۲۰۳۳۳	۲۰۳۳۸	۲۰۳۳۳
۲۰۳۳۳	۲۰۳۳۸	۲۰۳۳۰	۲۰۳۳۷
۲۰۳۳۱	۲۰۳۳۶	۲۰۳۳۵	۲۰۳۳۷

### عذاب قبر سے نجات کیلئے

یہ خواتین قبر کے عذاب سے نجات کیلئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی طرف مائل ہوں اور جو باتیں اللہ کے نزدیک گناہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان سے منع رہیں اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حکم فرمایا ہے ان پر چلنے کو پیش کریں۔ اور سورۃ حشر کی یہ آجری آیات صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھیں اس عمل سے ان کے حق میں ستر ہزار فرشتے دعا کریں گے۔ اور اگر اس دوران ان کی موت واقع ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور قبر سے عذاب کی نجات ممکن ہے۔ انشاء اللہ

اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنی يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم

### دشمنوں سے حفاظت کیلئے

یہ خواتین اپنے تمام دشمنوں کو مغلوب کرنے کیلئے اور ان پر فتح حاصل کرنے کیلئے اس کو نماز مغرب کے بعد دو رکعت اسکی عہدہ سے نماز حاجت ادا کریں پھر سجدہ کر کے اس کو اپنے دشمنوں یا ایک ہی دشمن کا کامل تصور باندھ کر پڑھیں اللہ کے فضل سے ان کے تمام دشمن ان کے سرنگوں ہو گئے۔ اور ہمیشہ کیلئے اپنے فعل قیحات سے منع رہیں گے۔ اگر انہوں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا اور اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنی الٹی بازو پر باندھیں یہ ان کے دشمن کے ہر وار کو خطا کریگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم يا شديد القوى يا شديد المحال يا  
عزیزا ذلت بعزتک جمیع خلقتک من خلقت صل علی محمد واکفنی  
موتة فلان بن فلان (یہاں اپنے دشمنوں کا تصور باندھ کر ان کا نام لیں)

۲۲۲۸	۲۲۲۱	۲۲۲۲	۲۲۲۲
۲۲۲۲	۲۲۲۲	۲۲۲۲	۲۲۲۲
۲۲۲۲	۲۲۲۶	۲۲۲۹	۲۲۲۶
۲۲۲۰	۲۲۲۵	۲۲۲۲	۲۲۲۵

### زیارت بزرگان دین اور چلہ کرنے کیلئے

ان خواتین میں سے اگر کسی خاتون کو کسی بزرگ کی لگن ہو اور یہ ان کی زیارت کرنا  
چاہیں تو سب سے پہلے حیض و نفاس والے دنوں سے پاک ہو کر پاک و صاف جگہ کا انتخاب کریں  
اور ایک چراغ جلا کر بعد نماز عشاء (سلام قول من رب الرحیم) کو اتنا بکرا رہے پڑھیں کہ پڑھتے  
پڑھتے سو جائیں اللہ کے حکم سے ان کو جس بزرگ کی لگن ہے اسی دن ان کی خواب میں ان کو  
زیارت دیں گے۔ اگر نیند غلبہ کرے تو سو جائیں اور دیا نہ جھائیں دیا خود خود چھ جائے گا۔ اور کسی  
بھی قسم کا اپنے اوپر کوئی ڈر یا خوف طاری نہ ہونے دیں بلکہ پرسکون حالت میں اپنا ذکر کریں اور  
جن بزرگوں کی زیارت کرنی ہے۔ ان کا مکمل تصور باندھیں۔

### ہر طرح کی برکت حاصل کرنے کیلئے

یہ خواتین اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ کی برکت حاصل کرنے کیلئے اس دعا کو بجزرت  
اپنے ورد میں رکھیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت فرمائیں گے۔ اور ان کے  
ہر کام میں اللہ کی خاص برکت ہوگی۔ اور ان کا ہر کام کسی نہ کسی طریقہ سے پورا ہو جایا کرے  
گا۔ اور گھر میں برکت اور اپنے گھر کو ہر نظر بد سے محفوظ رکھنے کیلئے اس نقش کو بھی زعفران سے  
لکھ کر اپنے گھر میں دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگائیں ان کے گھر کی ہر طرح سے مکمل حفاظت  
ہوگی۔ اور یہ محفوظ ہونگے۔

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسى ودينى بسم الله على

اهلى ومالى وولى بسم الله على ما اعطانى الله ربى لا اشرك به  
 شيئا الله اكبر الله اكبر الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذ  
 وعز جادك وجل ثنائى ولا اله غيرك اللهم انى اعوذ بك من شر  
 نفسى ومن شر كل شيطان مرید ومن شر كل جبار عنيد فان تولوا  
 فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان  
 ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔

۲۵۳۳۷	۲۵۳۳۰	۲۵۳۳۳	۲۵۳۳۰
۲۵۳۳۳	۲۵۳۳۱	۲۵۳۳۶	۲۵۳۳۱
۲۵۳۳۲	۲۵۳۳۵	۲۵۳۳۸	۲۵۳۳۵
۲۵۳۳۹	۲۵۳۳۴	۲۵۳۳۲	۲۵۳۳۲

یہاں عدد (۲) اور (۷) کا تمام موضوع قسم کیا جا رہا ہے۔ پچھلے تمام اوراق میں جو کچھ بھی درج ہے وہ سب  
 ان خواتین کے کرنے کیلئے ہے۔ جن کا عدد ایک اور چار ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ان عملیات اور اسم الہی  
 کے ورد کرنے کیلئے کسی بھی قسم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنے نام کے مطابق خود دیکھ کر  
 اپنے متعلقہ مقصد کی نیت سے کوئی بھی عمل کریں اور جس طرح کی شرط عمل کو کرنے کی بیان کی  
 ہے۔ اس پر ضرور عمل کریں اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔

## عدد (2) اور عدد (7) کی دوست خواتین

### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

کبدار، آبرہ، اجیبہ، ارجمند، اروولی، افریثم، المالی، امید، انورہ، باصرہ، برکت، بروہہ، بصیرہ، بلبل، بیمار، پارہ،  
 پاکستان، پریمال، تایبہ، تحریم، تماضر، تمکنت، تندیب، ثویہ، جونہ، چاندنی، حاجبہ، حامیہ،  
 حدیقہ، حسن، حنان، خالدہ، خدیجہ، خلود، خمیلہ، خیر کی بیٹھ، رحیلہ، روف، رکان، رمازہ، ریمان، زیادہ،  
 زیدہ، زریز، زرنکار، زرین، زری، زہرہ، زیب، زیتونہ، ساجدہ، سالمہ، سحرش، سیکنہ، سلامہ، سلیمہ،  
 سلمہ، شائستہ، شبہ، شخرا، شریفہ، شطبہ، شعلیہ، صابرہ، صائمہ، صبرہ، صمیم، ضمیرہ، ضعیفہ،  
 طروب، طریہ، طنزیہ، علیہ، عائکہ، عاقلہ، عازمہ، عامرہ، عبیدہ، عدوسہ، عصفورہ، عفت، عمارہ،

عمیرہ، عناسیہ، عدن، عیسانہ، فادیہ، فاطنہ، فقیہ، فدوی، فرزانه، ہبیدہ، قاریہ، قدہ، کاشفہ، لاجورد، لائقہ، لعدہ، لمعات، لثیقہ، لیٹا، ماہ، میتہ، محسنہ، منزلہ، مضمٹنون، منی، مہتا، مہدیہ، نازیہ، ناصرہ، ناقہ، نداد، ندیدہ، ندیرہ، نزاکت، نسرین، نسیم، نظیفہ، نواز، نوارہ، نیلماں، نیلی، واجدہ، وارثہ، واشدہ، وشرہ، وجدان، وصفہ، ولیدہ، ہما، ہندہ، ہسری، یکن۔

### عدد (۴) ستارہ شمس برج اسد

آرا، آسیہ، اختر، اویہ، اریدہ، ارزش، افشا، املہ، امیرہ، انجم، ایٹاس، انیقہ، بازہ، باطنہ، بدرہ، برشکال، بشرہ، بلیس، بتان، بیہ، پرزہ، تاباں، تباں، تجیہ، تصویر، ٹکریم، ٹیبہ، جمیرہ، جمان، چاند، حاذقہ، حارسہ، حافظہ، حامدہ، حباب، حریر، حمیدہ، حفیظہ، حمیدہ، حوریہ، خاشعہ، خضیرہ، دل افروز، ذبال، رائین، رسیم، رمانی، ریاء، ریحانہ، زاہدہ، زریاب، زلفہ، زین، ساجدہ، ساحرہ، سازم، سفیرہ، سینہ، سویدہ، سمیر، شاذن، شاکرہ، شوب، شرارہ، شریکہ، شکیبہ، شگفتہ، شودہ، صیدہ، صحبہ، صقرا، صلوت، صلوت، صنیع، ضوفشال، طاہرہ، طابنہ، طاسیہ، طاہرہ، طفرا، طناز، طہیرہ، طیب، طیفورہ، ظہارہ، ظاہرہ، ظہیرہ، ہازرہ، عابدہ، عدینہ، عروبہ، عطیہ، عزیزیں، عجزہ، عندلیب، عمادہ، عین، غرابہ، عمیرہ، فاحرہ، فائقہ، فخریہ، فرحت، فرزہ، فریحہ، نصیحہ، فلک، قادرہ، قدیرہ، کشور، گلنار، گلشن، ماریہ، مجاہدہ، محسنہ، محمودہ، مدیحہ، مسلمہ، شریفہ، مشیطہ، منشیہ، مفیرہ، مکارم، منال، منورہ، منیزہ، میسون، نایہ، ناظرہ، ناعمہ، ناقلہ، نیبہ، نیبہ، نجاہ، نژادہ، نصیبہ، نصیرہ، نقرہ، گلکن، نور، نیرہ، نیلم، وزیلہ، وسامہ، وسیمہ، وشم۔

### عدد (۵) ستارہ عطارد برج سنبلہ و جوزا

آصفہ، آبلہ، ازین، ارفہ، اشنہ، اصغری، الہام، امتہ، امثال، انوار، بادرہ، بانو، بدریہ، برجیس، بنیقہ، بوسیہ، بخت، پالیز، پری، تبار، تسکینہ، تشمیر، تمنا، توقیر، جنان، جہاں، چاندی، چکوری، حجاب، حنا، خاطرہ، حسند، خضیلہ، خطیبہ، خطیرہ، در شہوار، رانیہ، رفیعہ، روقد، روانہ، رسیہ، زائین، زرقم، زرکار، زرکش، زرگل، زفرہ، زلفہ، زیتون، سارہ، سیمہ، سعیدیہ، سللی، سوسن، سوسہنی، سیما، شادال، شادیہ، شاکلہ، شبنم، شرفا، شکیلہ، شمع، شہانہ، صاعقہ، صائم، صعبہ، صفیہ، صمیمہ، صویہ، طافہ، طلعت، عارفہ، عاصیہ، علقہ، عثوہ، عدوس، عدیہ، عمقیرہ، عطارد، عطیوس، عسہ، عزیزہ، عینی، عاسقہ، غنچہ، قاتنہ، فارزہ، فقہ، فقاہہ، فلذہ، فیروزہ، کریمہ، گلگون، گلالہ، لامیہ،



میس، ماورا، ناکدہ، مسعودہ، مشتری، مصادہ، معرقہ، ملکہ، منیفہ، نابذ، ناحدہ، نائیرہ، ناکلہ، نسیب،  
واجہ، وشام، وشم، وقایہ، ہالہ، ہرثم

یہ عدد (2) اور عدد (7) سے تعلق رکھنے والی خواتین کی دوست خواتین کے نام ہیں۔ اب ان میں سے کوئی خاتون بھی اپنے جاننے والی خاتون کا نام دیکھ لے یہ واقعی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی خاتون سے ان کے اچھے تعلقات نہ ہوں تو یہ ان کے اخلاق پر ہے۔ کہ یہ ان سے کیسا سلوک کرتی ہیں۔ لیکن یہ تقریباً ان کی دوست خواتین کے نام ہیں۔ اور ان کے مخالف خواتین کوئی نہیں ہے۔ یہاں عدد دو اور سات رکھنے والی خاتون کا موضوع ختم کیا جا رہا ہے۔

اس عدد سے تعلق رکھنے والی خاتون کے کوئی بھی مخالف خاتون نہیں ہے۔

## عدد (3) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
آزفہ	AAZFA	مقرب	93	اللہ
آفریدہ	AFRIDA	پیدا کی ہوئی	300	المصور
احمرین	AHMAREEN	سرخ مائل	309	الغفار
ازلی	AZLI	ہمیشہ سے	48	الفتاح
اسما	ASMA	خوبصورت	102	القابض
افروزیہ	AFROZIYA	منور	309	اللطیف
الماش	ALMASH	نرم و نازک	372	العظیم
الوانہ	ALWANA	رنگین	93	المجید
ایمان	EEMAN	دین	102	الوکیل
بابرہ	BABRA	روشن	210	القیوم
بابونہ	BABOONA	سفید شے	66	الماجد
بخت	BAKHT	قسمت	1002	العفو
بختاور	BAKHTAWAR	نصیب والی	1209	المعطی
بلیغہ	BALEEGHA	خوش بیان	1047	النافع
بنات	BINAT	سکھیاں	453	اللہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
----------	-----------	------	---------	-----

## ت

المصور	426	روشن	TABINDA	تابندہ
الغفار	786	ہمدرد	TASHIFA	ٹاشفہ
الفتاح	408	توبہ کرنے والی	TAIBA	ٹائبہ
القابض	714	روشن آگ	TASHIB	ٹاشیب
اللطیف	696	خیال	TASAWWUR	ٹسور

## ج

العظیم	219	آفتاب	JARIYA	جاریہ
المجید	309	عمدہ	JAISHA	جائشہ
الوکیل	93	موتی	JAMAN	جمن
القیوم	453	باغ	JANNAT	جنت
الماجد	219	لعل	JAOHARA	جوہرہ

## ح

العفو	714	کسان عورت	HARISA	حارشہ
المعطی	32	خادمہ	HATIYA	حطیہ
النافع	183	شیرنی	HAFSA	حصہ
اللہ	93	بردار	HALIMA	حلیہ

## خ

المصور	696	پوشیدہ	KHAFIYA	خافیہ
--------	-----	--------	---------	-------

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الغفار	705	مکراتی ہوئی	KHANDAN	خندان
الفتاح	1155	چمکتی ہوئی	DARAKSHAN	درخشاں
القابض	804	قیمتی شے	DARSAMIN	درشمن
اللطف	264	بے مثال	DURDANA	دردانہ
العظیم	300	ہمدرد	DURMANA	دورمانہ
المجید	219	گوہر	DURYA	دوریہ
الوکیل	237	پرکشش	DILRUBA	دلربا
القیوم	21	خوش شکل	DIBA	دیبہ
الماجد	741	شوقین	ZOQIYA	زوقیہ
العفو	210	خوبصورت	RADAH	رادہ
المعطي	300	منجھم	RASIDA	راسدہ
النافع	210	رہنما	RAIDA	رائدہ
الله	264	مانوس ہونا	RAJOONA	راجونہ
المصور	1110	کرن	RAKSHI	رکشی
الغفار	615	خوش اندام	RASHIQA	رشیقہ
الفتاح	750	بلندی	RIFAT	رفعت

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الٰہی
روضہ	ROZA	باغ	1011	القابض
رووفہ	RAUFA	نہریان	291	اللطیف
رومیلہ	ROMILA	سجانے والی	291	العظیم
رہتیدہ	RAHTIDA	جوان عورت	624	المجید
ریباس	REEBAS	مفید بوٹی	273	الوکیل
<b>ز</b>				
زاہلہ	ZAHLA	مستقل مزاج	48	القیوم
زوبیہ	ZOBIYA	رحمت	30	الماجد
<b>س</b>				
ساحت	SABAHAT	تیرنا	471	العفو
سبحہ	SUBHA	شیخ	75	المعطی
سبد	SABD	پھولوں والی	273	النافع
سحرہ	SAHRA	گلدستہ	264	اللہ
سروج	SAROJ	تاخدار	966	المصور
سروز	SAROZ	کنول	300	الغفار
سمر	SAMAR	کمانی	165	الفتاح
سینہ	SAMINA	نمائت باریک کپڑا	111	القابض
شاء	SANA	بلندی	120	اللطیف
سہیمہ	SAHEEMA	حصہ دار	111	العظیم

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
سیما	SIMA	علامت	111	المجید
<b>ش</b>				
شادام	SHADAM	خوش	345	الوکیل
شارقہ	SHARIQA	روشن	606	القیوم
شازی	SHAZI	نایاب	318	الماجد
شمطہ	SHAMTA	خوش گفتار	354	العفو
شمیلہ	SHAMILA	عادت	345	المعطی
شہزادی	SHAHZADI	ملکہ	327	النافع
شہلا	SHAHLA	زرگس	336	اللہ
شہلی	SHAHLI	نبلی آنکھیں	345	المصور
شیریں	SHIRIN	میٹھی	361	الغفار
<b>ص</b>				
صادرہ	SADIRA	پھر آنے والی	300	الفتاح
صارمہ	SARIMA	بہادر عورت	336	القابض
صبا	SABA	باد صبا	93	اللطیف
صدف	SADAF	سپی	174	العظیم
صریمہ	SARIMA	پر عزم	345	المجید
صمیرہ	SAMIRA	بے پرواہ	348	الوکیل
صندل	SANDAL	چندن	174	القیوم

اسم الی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الماجد	192	روزہ دار	SOMANA	صومانہ
العفو	336	ریحان	SOMAR	صومر
المعطی	165	تھال	SENIYA	صینیہ
<b>ض</b>				
النافع	2046	شیرنی	ZARGHAMA	ضرقامہ
اللہ	885	سر سبز	ZEIAH	ضیعہ
<b>ط</b>				
اللہ	255	بلند قامت	TARIMA	طارمہ
المصور	75	تاشہ	TASA	طاسہ
الغفار	66	ہوشیار	TABNA	طبنہ
الفتاح	228	متلاشی	TUREEDA	طریدہ
القابض	75	باوقار	TALALA	طلالہ
<b>ظ</b>				
اللطیف	1110	تھرد	ZAHRA	ظہرہ
<b>ع</b>				
العظیم	165	مہربان	ATIFA	عاطفہ
المجید	282	نازک بدن	ABROOD	عبرود
الوکیل	282	خوشبو	ABIR	عبیر
القیوم	489	آگاہ، حاضر	ATIDA	عتیدہ

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
عدیدہ	ADIDA	فراواں	93	الماجد
عدیدہ	ADIMA	معدوم	129	العفو
عرش	ARSH	آسمان، تخت	570	المعطي
عروس	AROOS	دلہن	336	النافع
عزیزہ	ARISA	بناوٹ	345	اللہ
عشوہ	ESHWA	ادائیں	381	المصور
عصا	ASMA	اہم	201	العقار
عصیفہ	ASIFA	محفوظ و مامون	255	الفتاح
عطیل	ATBAL	مثالی خاتون	111	القابض
عطوف	ATOOF	مہربان	165	اللطيف
عظمی	UZMA	بڑائی	1011	المجید
علیا	ULYA	بلند بالا	111	الوکیل
عمیمہ	AMIMA	غالب	165	القیوم
<b>غ</b>				
غادیہ	GHADIYA	صح کابل	1020	الماجد
غانیہ	GHANIYA	بے نیاز	1056	العفو
غصون	GHASOON	شانیں	1146	المعطي
غصیر	GHZIR	سر سبز و شاداب	2010	النافع
غیفانہ	GHIFANA	لچک دار	1146	اللہ



اسم الہی	حروف ابجد	بمطلب	انگریزی	نام
		<b>ف</b>		
المصور	93	فاتح	FAIZA	فائزہ
الغفار	939	مبارک	FARKHANDA	فرخندہ
الفتاح	291	دوپٹہ	FARWA	فرودہ
القابض	102	بڑھائی ہوئی	FAZOODA	فرودہ
اللطيف	885	چاندی	FIZZA	فہدہ
		<b>ق</b>		
العظیم	138	لائق	QABILA	قابلہ
المجید	345	چاند	QAMARA	قمرہ
		<b>ک</b>		
الوکیل	966	قصہ پی جانے والی	KAZIMA	کاظمہ
القیوم	165	پارہ	KASFA	کسفہ
الماجد	237	بڑی	KABIRA	کبیرہ
العفو	48	ستارہ	KOKAB	کوکب
		<b>گ</b>		
المعطي	606	بے مثال	GULSANA	گل خانہ
النافع	642	دنیا کو سجانے والی	GITIARA	گیتی آرا
		<b>ل</b>		
اللہ	66	ایک پھول	LALA	لالہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المصور	435	روح	LABABITA	لہاتہ
الغفار	102	نارونایاب	LATIMHA	لطمی
<b>م</b>				
الفتاح	111	خوبصورت	MAHJABIN	ماہ جبین
القابض	111	چاند کی مانند	MAHINA	ماہینہ
اللطیف	102	بارش	MAZNA	مزنہ
العظیم	255	تالاب	MASNA	مصنعہ
المجید	354	نگہبان	MASEETRA	مصیطرہ
الوکیل	66	پاکباز	MATEEBA	مطیہ
القیوم	93	تمکین	MALIHA	ملیحہ
الماجد	291	نور کی جگہ	MANAR	منار
العفو	102	بے عیب	MUNAZA	منزہ
المعطی	111	روشن تارہ	MISA	میاء
<b>ن</b>				
النافع	129	حسین	NAJIA	ناجیہ
اللہ	1056	رونق والی	NAZRA	ناضرہ
المصور	75	عقلمند	NAHIDA	ناہیدہ
الغفار	84	خوبصورت	NAJLA	نجلا
الفتاح	93	ستارہ	NAJIM	نجم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
القباض	291	سنبیل کادریخت	NIRMA	نرما
اللطیف	111	خواتین	NISA	نساء
العظیم	165	نرم خو	NASIMA	نسیہ
المجید	561	عطیہ	NAIMAT	نعمات
الوکیل	165	نعمت	NAIMA	نعمہ
القیوم	165	سربراہ	NAQIYA	نقیہ
		و		
الماجد	282	پرہیزگار	WIRA	وراعہ
العفو	201	کامیاب	WAFIQA	دقیقہ
		ہ		
المصور	12	تحفہ	HIBA	ہبہ
اللہ	66	خوش لباس	HANYA	ہنیا

## ان خواتین کا خاکہ

ان خواتین کو متحرک اور حرکت میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ انہیں بے چین مضطرب اور متحرک مخلوق کا نام دیا گیا ہے۔ یہ غصے میں جوش بھرے جذبوں کی بہتات ہیں اور ذرا سی بات پر بھی مشتعل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور بد کلامی پر اتر آتی ہیں۔ یہ سہیلیوں اور رشتے داروں اور واقف کاروں سے ایک دم ناراض ہو کر ان کی جانب سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ پھر زندگی میں کبھی بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کو اپنے دل کی آواز پر مکمل مہمروسہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہی کچھ کرتی ہیں جس کے کرنے کا ان کا دل آواز دے اور یہ وہ کام کبھی نہیں کرتی جن کو ان کا دل نہ کرے۔ اور ان کے دل سے نکلنے والی آواز اکثر سچی ثابت ہوتی ہے۔ یہ مختلف النوع کاموں کو سرانجام دینے کی خوبی اور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان میں شدید توانائی اور طاقت ہوتی ہے۔ انہیں ہر چیز سے بہتری کی توقع ہوتی ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلہ پر بھی پر امید رہنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ کیونکہ مایوسی سے ان کو سخت نفرت ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ اچانک بے چین اور مضطرب ہو کر اپنے سماجی کاموں سے ہیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگتی ہیں۔ اور اس کام سے غافل ہو جاتی ہیں جس کو کرنے کیلئے انہوں نے کافی عرصے سے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ سفر کرنے کے معاملے میں انہیں سفر کرنے کا بھی شوق ہے۔ اور یہ مغربی ممالک کی سیر کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ کیونکہ ان کا دل اور دماغ فلسفیانہ قسم کا ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ ان کی تمنائے نئے شہر دیکھنے کی ہوتی ہے۔ اور ان کے ہاتھ اگر کہیں سے پیسہ لگے تو فوراً ان کا پروگرام کسی ملک کی سیر کرنے کیلئے بنتا ہے۔ اگر ان کے پاس اتنے روپے نہ ہوں جس سے یہ غیر ممالک کی سیر کر سکیں تو پھر اپنے ملک میں ہی ان مقامات کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہیں جو پہلے سے انہوں نے نہیں دیکھے ہوتے پھر جب ان کی خواہش کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو خوب دل بھر کر سیر کرتی ہیں۔ اس سے ان کے نفس کو سکون ملتا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک سفر تلاش و جستجو کا

ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لئے ان راستوں پر چل کر اپنے تجربات میں اضافہ کرنے کا یہ باعث بنتی ہیں۔ اور مادیات سے بھرپور راستے انہیں نئے نئے سبق دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ان سے مفادات حاصل کرتی ہیں۔

## ان خواتین کا روحانی فال نامہ

یہ خواتین روحانی طور پر بہت چست و چالاک طبیعت کی مالک ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جس سے بھی نیکی کریں گی ان کو اس کے بدلے میں برائی ہی ملے گی اور سلسلہ ان کا ہمیشہ جاری رہے گا۔ لیکن یہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے سستی اور بے فضول شوق میں گذارتی ہیں ان کو زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہونا چاہئے تاکہ ان کا نصیب اور اچھا ہو۔ اور مستقبل میں یہ کامیاب خاتون بنیں اگر یہ کنواری ہیں تو ان کو شوہر ایسا ملے گا جو ان کی قدر اور عزت کرے گا۔ اور ساری زندگی ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرے گا۔ ان کو اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ ویسے ان پر کوئی زرد آنکھوں والا شخص سفلی علم کروا سکتا ہے۔ اور اگر اس کا وار چل گیا ہو تو اس کی یہ نشانی ہے۔ کہ ہر وقت پیٹ سے متعلقہ تکالیف میں مبتلا رہیں گی۔ اس لئے اس شخص کے ہر وار کو ضائع اور آئندہ کیلئے جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کیلئے ان عزیزیمتوں کو زعفران سے لکھ کر اپنی الٹی بازو پر باندھیں یا اپنے گلے میں پہنیں اللہ کے فضل سے یہ تمام قسم کے آسیب جادو ٹونے اور تمام سفلی اعمال سے ہمیشہ کیلئے محفوظ رہیں گی۔ انشاء اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عطوف بحق آدم صفی اللہ وبحق  
ابراہیم خلیل اللہ وموسیٰ کلیم اللہ وبحق عیسیٰ روح اللہ وبحق  
محمد رسول اللہ وبحق هذه الاسماء الحسنیٰ وبحقک یا علام الغیوب  
یا ارحم الراحمین وبحق یا نور فوق کل نور السموات والارض یا  
مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات انک علی کل شیء قدير۔  
ان اسماء کو اپنے اوپر سے سات مرتبہ وار کر آگ میں جلایا کرے۔

طلی ق ا م ل ی ق ا ع ل ق ا ج ل ی ق ا ق ا ر و ن ۵ ا ر و ت م ا ر و ت ا  
ب ل ی س ۵ ا م ا ن ش د ا د ف ر ع و ن ا ب و ج ۵ ل ق ا ب ی ل ن م ر و د

## اچھے رشتے کے حصول کیلئے

اگر ان خواتین کو کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا ہو یا ان کی کسی نے نکاح بندی کی ہو یا ان کو ویسے ہی کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا ہو تو اس عمل کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ان کا رشتہ ضرور اچھی جگہ ہو گا۔ ان آیات کو اس نقش سمیت لال سرخ ریشمی کپڑے پر لکھ کر اپنے زیادہ رہنے والی جگہ پر لٹکائے اور دوسرے نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو مٹی کے گڑے میں ڈال کر اس کا پانی گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکائے۔ ان پر کیا ہوا ہر سظی عمل باطل ہو گا۔ اور ان کا رشتہ ضرور اچھی جگہ ہو جائیگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الَّذِیْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِیْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ فَاتَّقِیْبُوا بِنِعْمَةِ مَنْ اللّٰهُ وَفَضْلٍ لِّمَنْ یَمْسَسُهُمْ بِسُوءٍ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیْمٍ

۱۹۹۳۵	۱۹۹۳۸	۱۹۹۳۱	۱۹۹۲۷
۱۹۹۳۰	۱۹۹۲۸	۱۹۹۳۳	۱۹۹۳۹
۱۹۹۲۹	۱۹۹۳۳	۱۹۹۳۶	۱۹۹۳۳
۱۹۹۳۷	۱۹۹۳۲	۱۹۹۳۰	۱۹۹۳۲

گھر کے کونوں میں چھڑکنے والا نقش

۱۳۶۵۱	۱۳۶۵۳	۱۳۶۵۸	۱۳۶۳۳
۱۳۶۵۷	۱۳۶۳۵	۱۳۶۵۰	۱۳۶۵۵
۱۳۶۳۶	۱۳۶۶۰	۱۳۶۵۲	۱۳۶۹۳
۱۳۶۵۳	۱۳۶۳۸	۱۳۶۳۷	۱۳۶۵۹

روزگار کو بڑھانے کیلئے

اس مقصد میں کامیاب ہونے اور اپنے روزگار کو جا دوڑونے سے بچانے کیلئے ان آیات کو کثرت سے ورد کیا کریں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے کاروباری مقام پر کسی اونچی جگہ

پر لکائیں۔ ان کا کاروبار زیادہ سے زیادہ چلے گا۔ اور کوئی بھی جادو وغیرہ اثر نہیں کریگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وبحق اللهم انت انت انقطع الرجاء الا منك وخابت الامال الا فيك يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة الي غيرك اجعل لي من امري فرجا مخرجا وارزقني من حيث احتسب ومن خيث لا احتسب بحق يا مغيث اجعل لي رزقا من فضلك يا الله يا الله يا الله

۲۵۷۳۱	۲۵۷۳۳	۲۵۷۳۷	۲۵۷۳۳
۲۵۷۳۶	۲۵۷۳۳	۲۵۷۳۰	۲۵۷۳۵
۲۵۷۳۵	۲۵۷۳۹	۲۵۷۳۲	۲۵۷۳۹
۲۵۷۳۳	۲۵۷۳۸	۲۵۷۳۶	۲۵۷۳۸

### ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کو صحیح کرنے میں ڈاکٹر اور حکیم حضرات بھی قاصر ہوں تو اس کو روحانی علاج کے طور پر کرنے اور سو فیصدی شفاء حاصل کرنے کیلئے ان آیات کو چینی کی پاک اور صاف پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر گلاب کا عرق ڈال کر روزانہ صبح نہار منہ اکیس دنوں تک استعمال کریں وقت صبح کا ضرور ہو اور عورت ناپاک حالت میں نہ ہو پھر پہلے ہی دن اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو میں باندھ لیں اللہ کے فضل سے شفاء ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذين سبقتم لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فیها اشتہت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفرع الا کبر وتلقهم الملائکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون ۔





و کرم سے یہ ہمیشہ ہی اپنے ہر کام کو پورا کریں گی۔ اوزان کی اپنے دشمنوں اور حاسدوں پر ہمیشہ ہی فتح رہے گی۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الذي لا اله الا هو  
الرحمن الرحيم الحي القيوم بديع السموات والارض من جميع جرمي  
او ظلمي و اسرافى على نفسى واتوب اليه و يحق لا اله الا الله محمد  
رسول الله

۱۶۸۱۳	۱۶۸۱۶	۱۶۸۱۹	۱۶۸۰۵
۱۶۸۱۸	۱۶۸۰۶	۱۶۸۱۲	۱۶۸۱۷
۱۶۸۰۷	۱۶۸۲۱	۱۶۸۱۳	۱۶۸۱۱
۱۶۸۱۵	۱۶۸۱۰	۱۶۸۰۸	۱۶۸۲۰

### زبان ہندی کرنے کیلئے

ان خواتین کے متعلق کوئی بد زبانی کرتا ہو یا کرتی ہو تو یہ اس کی زبان ہند کرنے کیلئے یہ اس عمل کو کالے بجرے کے خون سے لکھ کر اور جس کی زبان ہند کرنی ہو اس کا نام لکھ کر کالے رنگ کا کپڑا لیکر اس میں ہند کر کے ایک عدد لوہے کا ٹکڑا ڈال کر قبرستان میں دفن کر دے۔ اللہ کے حکم سے ان کے تمام یا اس مخصوص فریق کی ضرور زبان ہند ہوگی جو ناجائز ان کے خلاف زبان چلاتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو اس صورت میں کیا جائے جب کسی بھی طرح اصلاح کرنے سے بھی کوئی باز نہ آئے۔

وعقدت لسان كل متكلم من البشر من انثى و ذكر من بنى  
آدم و بنات حوا عن حامل هذه الاسماء فهم لا يتكلمون بحق سوسم  
سوسم حوسم دوسم براسم تكهوب غسك يتحمل برکات عقدت  
عنه كل لسان بحق قول الله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذ  
رون و بحق قوله لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواباه  
و بقوله صم بكم عمى فهم لا ينطقون بسم الله اسكنت بسم الله

اخرسنا بسم الله اعمتنا بسم الله عقدنا السنة  
السوء فلان بن فلان فلان بن فلان کی فلان بن فلان کے حق میں زبان بندی ہو۔

اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

اس مقصد کی خاطر زیادہ سے زیادہ پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ اور اللہ سے اپنے مطلب کی خاطر زیادہ دعا کیا کریں اللہ کے فضل سے اللہ ان کے ہر کام کو بخوبی کر دیا کرے گا۔

قوت ذہن اور حافظہ کیلئے

اس عدد سے تعلق رکھنے والی خواتین میں سے اگر کسی کا دماغ زیادہ تیز نہ ہو۔ خواہ ان کو نسیان کا مرض ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نقش کو روزانہ گیارہ دنوں تک چھٹی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر مصری کے شربت سے دھو کر پیئیں اور اس نقش کو اپنا مقصد اور اپنا نام لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں اور ان آیات کو کثرت سے پانی پر دم کر کے پیئیں یا اپنے بچوں کو پلائیں اللہ کے فضل سے ان کا حافظہ تیز ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو يجمعنكم الي يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ذلكم الله خالق كل شيء لا اله الا هو فاعبدوه وهو على كل شيء قدير وبحق رب زدني علما

۱۷۶۵۸	۱۷۶۶۱	۱۷۶۶۳	۱۷۶۵۱
۱۷۶۶۳	۱۷۶۵۲	۱۷۶۵۷	۱۷۶۶۲
۱۷۶۵۳	۱۷۶۶۶	۱۷۶۵۹	۱۷۶۵۶
۱۷۶۶۰	۱۷۶۵۵	۱۷۶۵۳	۱۷۶۶۵

دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانے کیلئے

اگر ان خواتین کی زیادہ کوشش اور لگن اس بات پر ہو کہ یہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور ان کا ذہن پاک اور صاف رہے۔ تو جدول میں درج اپنے نام کے مطابق اسم الہی کو

کثرت سے پڑھیں اور اس میں زیادہ طاقت پیدا کرنے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھیں اللہ کے فضل سے اس عمل سے ان کا دل اور دماغ زیادہ اللہ کی عبادت میں کرے گا۔ اور ان کا ذہن صاف رہیگا۔

۱۸۵۷۸	۱۸۵۸۱	۱۸۵۸۳	۱۸۵۷۱
۱۸۵۸۳	۱۸۵۷۲	۱۸۵۷۷	۱۸۵۸۲
۱۸۵۷۳	۱۸۵۸۶	۱۸۵۷۹	۱۸۵۷۶
۱۸۵۸۰	۱۸۵۷۵	۱۸۵۷۳	۱۸۵۸۵

### تبادلے کی منسوخی کیلئے

اپنے تبادلے کو منسوخ کرنے کی خاطر اس عمل کو کریں کہ جو افراد ان کے تبادلے میں زیادہ زور لگا رہے ہوں ان کے نام کا ایک کالے رنگ کا مرغ لاکر اس کے خون سے اس نقش کو لکھیں اور اس کے ارد گرد ان تمام کے نام بھی لکھیں اور اسے چلتے پانی جیسے دریا یا نہر کے کنارے دفن کر دیں کوئی بھی ان کا تبادلہ نہیں کر سکے گا۔ اور سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھیں۔ انا اعطیک الکوثر فصل لربک وانحر انا شائیک هو الابر فلان بن فلان بتر فلان بن فلان بتر فلان بن فلان بتر فلان بن فلان بتر یہ تمام اپنے فضل قبیح اور اپنی شرارتوں سے باز رہیں گے۔

۱۹۸	۲۰۹	۲۱۰	۱۹۵
۲۰۳	۲۰۱	۲۰۰	۲۰۷
۱۹۹	۲۰۶	۲۰۵	۲۰۲
۲۱۱	۱۹۶	۱۹۷	۲۰۸

### تبادلہ کروانے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی نے اپنا تبادلہ کسی اچھی جگہ کروانا ہو تو یہ اس عمل کی بدولت اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔ سب سے پہلے حیض و نفاس والے دنوں سے پاک ہو کر ان

کیات کو بھرت اس شخص یا عورت کا مکمل تصور باندھ کر پڑھیں جو ان کا تبادلہ کروا سکتا ہے۔ اور اس نقش کو بھی کالی سیاہی سے لکھ کر کسی طریقے سے اس کے گھر کے باہر والے دروازے یا اس کے بیٹھنے والی جگہ پر دبانے اگر اللہ نے چاہا تو وہ فرد ان کا تبادلہ ضرور کرے گا یا ان کا اس عمل کی بدولت تبادلہ ہو جائیگا۔

پڑنے والی آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم لكيلا يعلم من بعد علم  
شيئا ان الله عليم قدير فسيكفيكم الله وهو السميع العليم اياك  
نعبدو واياك نستعين بسم الله ارقيك يشفيك من كل داء يوذيك  
دبانے والا نقش

۳۸۴۳	۳۸۴۴	۳۸۸۱	۳۸۶۲
۳۸۸۰	۳۸۶۸	۳۸۴۳	۳۸۴۸
۳۸۶۶	۳۸۵۳	۳۸۴۵	۳۸۴۲
۳۸۴۶	۳۸۴۱	۳۸۴۰	۳۸۸۲

### دین پر استقامت کیلئے

یہ خواتین ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہنے کیلئے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ ورسول ﷺ کے احکامات کی زیادہ سے زیادہ جاگوری کیا کریں اس دعا کے ذریعے یہ ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہیں گی۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا لا اله الا انت يا  
حنان يا منان يا بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام اسئلك  
تحي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله

### سووظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

یہ تمام خواتین دین و دنیا کی تمام برکات اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کیلئے صاحب کرامت بننے کیلئے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل کرنے کیلئے اس دعا کو سورجہ نماز فجر کے بعد

اور سورتہ عشاء کی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کریں گے اور خاص فضل کریں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَ دِیْنِیْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی  
اَهْلِیْ وَ مَالِیْ وَ وَلَدِیْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مَا اَعْطٰنِیْ اللّٰهُ رَبِّیْ لَا اَشْرُکَ بِهِ  
شَیْئًا اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ وَ اَعِزُّ وَاَجَلُّ وَ اَعْظَمُ مِمَّا  
اِخَافُ وَ اَحْذَرُ عِزَّ جَدِّکَ وَ جَلَّ ثَنَاءُکَ وَ لَا اِلٰهَ غَیْرُکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ  
مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبّٰرٍ عَنِیْدٍ فَاِنْ  
تَوَلّٰوْا فَقُلِّ حَسْبِیْ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِیْمِ اِنْ وَلِیَّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَلَ الْکِتٰبَ وَ هُوَ یَتَوَلّٰی الصّٰلِحِیْنَ

### عذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کیلئے

یہ خواتین عذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کیلئے اس درود شریف کو بھرت درود  
کریں اور نماز اور روزہ کو زیادہ اہمیت دیں جھوٹ نہ بولیں صدقہ اور خیرات زیادہ کریں۔ اللہ کے  
حکم اور حضور نبی کریم ﷺ کی شفاعت سے ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو  
ضرور بخشے گا۔ انشاء اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ  
الْمُرْسَلِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی  
مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُتَّقِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الشّٰهِدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ  
عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الزّٰهِدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الرَّاکِعِیْنَ اَللّٰهُمَّ  
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الصّٰلِحِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ  
السّٰجِدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْوَارِثِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی  
مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الرَّاشِدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْعَابِدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ  
عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الطّٰلِبِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْوَاصِلِیْنَ  
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْعٰلَمِیْنَ

### ڈراؤنے خوابوں کے خاتمے کیلئے

اگر ان خواتین کو خلاف توقع ڈراؤنے خواب آتے ہوں۔ اور ان کا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا

ہو۔ تو اس کے خاتے کیلئے اس نقش کو بوقت صبح بدھ کے روز طلوع آفتاب کے وقت زعفران سے لکھیں۔ اور اسے اپنے گلے میں باندھیں یا اپنی الٹی بازو میں باندھیں یا اپنے نکلے کے نیچے رکھیں۔ ان کو ڈراؤنے خواب آنے سے روکے اور صرف وہی خواب آئینگے جن کی پوری تعبیر ہوگی۔

۱۵۲۸۱	۱۵۲۸۳	۱۵۲۸۷	۱۵۲۷۳
۱۵۲۸۶	۱۵۲۷۳	۱۵۲۸۰	۱۵۲۸۵
۱۵۲۷۵	۱۵۲۸۹	۱۵۲۸۲	۱۵۲۷۶
۱۵۲۸۲	۱۵۲۷۸	۱۵۲۷۶	۱۵۲۸۸

### زیارت رسول کریم ﷺ کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی خاتون کو حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت کرنے کی لگن ہو تو اپنے دل کو محبت رسول سے بھر پور کیجئے اور احادیث رسول ﷺ کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجئے اور ان باتوں کو زیادہ ماننے کی کوشش کریں جو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ اور ان باتوں سے کنارہ کریں جن باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سے آپ کو حضور نبی ﷺ کا فیض بھی جاری ہو سکتا ہے۔ جگہ کو پاک اور صاف رکھیں۔ اور خوشبو سے اس جگہ کو معطر رکھیں پھر اس کو (۱۱۱) مرتبہ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ لیس پڑھ کر پھر پڑھیں اور (۱۱۱) مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ لیس کے بعد پڑھیں جتنی زیادہ لگن ہوگی۔ اتنی ہی جلدی زیارت ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔

### وساوس شیطانی کو دور کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کو شیطانی وساوس نے گھیرا ہو اور کوئی تدبیر بھی وساوس کا خاتمہ نہ کر سکے تو ان آیات کو پڑھ کر اپنے لو پر دم کریں اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں شیطان ان سے ہمیشہ دور رہے گا۔ اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔

لا اله الا الله الكريم لا اله الا الله العظيم والحليم لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم سبحان الله القديم الذي

لم يزل سبحانه الله العظيم الذي لم يجهل سبحانه الجواد الذي لم  
يخجل سبحانه الحكيم الذي لم يعجل برحمتك يا ارحم الراحمين -

۲۸۵۹۳	۲۸۵۹۶	۲۸۵۹۹	۲۸۵۸۶
۲۸۵۹۸	۲۸۵۸۷	۲۸۵۹۲	۲۸۵۹۷
۲۸۵۸۸	۲۸۵۰۱	۲۸۵۹۳	۲۸۵۹۱
۲۸۵۹۵	۲۸۵۹۰	۲۸۵۸۹	۲۸۵۰۰

## عدد (۳) کی دوست خواتین

### عدد (۱) ستارہ شمس برج اسد

کبدار، آبرہ، اجیبہ، ارجمند، اروئی، افریثم، امالی، امید، انورہ، باصرہ، برکت، بروودہ، بصیرہ، بلبل، بہار، پارہ،  
پاکستان، پریمال، تابہ، تحریم، تماضر، حکمت، تمذیب، ثقیہ، جونہ، چاندنی، حاجبہ، حامیہ، حدیقہ،  
حسن، حنان، خالدہ، خدیجہ، خلود، خمیلہ، خیری، ربیظہ، رحیلہ، رعونہ، رکان، رمازہ، ریسماں، زیادہ،  
زیدہ، زریز، زرنکار، زرین، زری، زہرہ، زیب، زیتونہ، ساجدہ، سالہ، سحرش، سیکندہ، سلامہ، سلیمہ،  
سملہ، شائستہ، شبہ، شہزاد، شریفہ، شطبہ، شعیلہ، صابرہ، صائمہ، صمیم، ضمیرہ، ضعیفہ،  
طروب، طریبہ، طنازیہ، عابدہ، عاکلہ، عاقلہ، عازمہ، عامرہ، عبیدہ، عدوسہ، عصفورہ، عفت، عمارہ،  
عمیرہ، عنایہ، غدن، غیسانہ، قادیہ، قاطنہ، قتیہ، فدوی، فرزانہ، فہیمہ، قاریہ، قدہ، کاشفہ، لاجورد، لائقہ،  
لعد، لغات، لثیقہ، لیما، ماہ، حیدہ، محنت، منزلہ، مصیبتون، منی، مہتاب، مہدیہ، نازیہ، ناصرہ، ناقہ، نداء،  
ندیدہ، ندیمہ، نذاکت، نسرین، نسیم، نظیفہ، نواز، نوارہ، نیلماں، نیلی، واجدہ، وارثہ، واشدہ، وشرہ،  
وجدان، وصفہ، ولیدہ، ہما، ہندہ، یسری، یمن۔

### عدد (۴) ستارہ شمس برج اسد

آرا، آسیہ، اختر، ادیبہ، اریدہ، ارزش، افشا، املہ، امیرہ، انجم، ایاس، انیقہ، بازرہ، بلبل، بدرہ، برشکال،

بشیرہ، بلخیس، ہتان، بھیرہ، پرزیا، تبال، تبیان، تجیہ، تصویر، حکریم، شبیہ، جمیرہ، جمان، چاند، حاذقہ، حارسہ، حافظہ، حامدہ، حباب، حریر، حسیدہ، حفیظہ، حمیدہ، حوریہ، خاشعہ، خفیرہ، دل افروز، ذبال، رامین، راسم، رمانی، ریاء، ریحانہ، زابدہ، زریاب، زلیخہ، زین، ساجدہ، ساحرہ، سائرہ، سفیرہ، سینہ، سدیدہ، سمیر، شادان، شاکرہ، شیبوب، شرارہ، شریکہ، شکبہ، شگفتہ، شہودہ، صیدہ، صحبہ، صقرا، صلوت، صولت، صنایع، ضوفشال، طاہرہ، طابند، طاسیہ، طاہرہ، طراف، طراز، طہیرہ، طیب، حطیفورہ، ظہارہ، ظاہرہ، ظہیرہ، عازرہ، عابدہ، عدینہ، عروبہ، عطیہ، عزیزس، عجزہ، عندلیب، عمادہ، عین، غرات، غمیرہ، قارہ، قائدہ، فخریہ، فرحت، فرزہ، فریکہ، فصیحہ، فلک، قادرہ، قدیرہ، کشور، گلنار، گلشن، ماریہ، مجاہدہ، محسنہ، محمودہ، مدیک، مسلمہ، مشرفہ، معشیطہ، مشیرہ، مضیرہ، مکارم، منال، منورہ، منیزہ، میسون، نایہ، ناظرہ، ناعمہ، ناقلہ، نیبہ، نیبہ، نجاہ، نژادہ، نصیبہ، نصیرہ، نقرہ، نکلیں، نور، نیرہ، نیلم، وزیلہ، وسامہ، وسمہ، وشم، ووفیرہ، ہامزہ۔

### عدد (۲) ستارہ قمر برج سرطان

آتیہ، اریبہ، ازدار، ازل، افروزہ، امروز، انوشہ، ایمن، بارقہ، بیتولہ، برکات، برکہ، بنت، بینظیر، پشینہ، تادارہ، تنسیم، ثمر، ثناء، ثمنہ، شین، جبین، جلاب، حریرہ، حسی، حمیرہ، خوبال، خولہ، خیلا، درخشندہ، دلآرا، رایہ، رادفہ، رافتہ، راندہ، راقبہ، رحیمہ، رضا، رفرق، رفیدہ، رقلہ، رولی، زبانہ، زرقا، زریںہ، زعفرہ، زنیرہ، زیبا، بزیرہ، سل، سدیمہ، سراب، سریسہ، سلطانہ، سامہ، سمیتہ، سیدہ، سخیلہ، سیلہ، شاداب، شاطبہ، شاپینہ، شبو، شہید، شریطہ، شقرہ، شقیقہ، شیرانہ، صادقہ، صادیہ، صباح، صدیقہ، صفرا، صوفیہ، ضامرہ، ضراط، عائلہ، عدیلہ، عرزم، عرینہ، عطفہ، عقیقہ، علمہ، عمدہ، عوسا، غادہ، عاشیہ، عالیہ، غزل، فرحانہ، فریدہ، فواز، قاصدہ، قاتہ، کادہ، کسودہ، کلثوم، گلاندام، لٹقی، ماہنہ، محمدومہ، مدار، مرام، مروارید، مرہ، مریم، مرشدہ، مصاحبہ، مصنوعہ، معطرہ، مقدسہ، مقصودہ، مہ جبین، مجہ، مینا، تاجیہ، نبال، نندہ، لیلہ، نساء، نسلی، حمیدہ، ذلیلہ، وفیہ، وہاجہ، یحیٰ، ہتا، ہمناء، یحییٰ۔

### عدد (۷) ستارہ قمر برج سرطان

آرزو، آزلہ، اہتمام، اذکیہ، ارم، ازہار، اسدہ، اطردیہ، امروزہ، بازنہ، بشینہ، بداء، برزن،



پارینہ، پروین، تبسم، تحفہ، تمکین، تیز، تزیلہ، ثمرہ، حید، جلا، جمیلہ، حینہ، حلیفہ، خازر، خانم،  
 خمیرہ، خطامہ، خلیقہ، ذاکیرہ، راسہ، رباب، رخسانہ، رخشہ، روا، رصیفہ، رضیہ، رغد،  
 رفاقت، رمضہ، روشن، ریشمال، ریسان، ریم، زرتار، زغلہ، زمیث، ساجیہ، سارہ، سہلہ، سہیحہ، ستودہ،  
 بحر، سرادہ، سطوت، سفانہ، سفینہ، سلوکی، سلیقہ، سنبل، سوریا، سهام، شازہ، شبانہ، شامکہ، شمشاد،  
 شیا، صباح، صبیحہ، صریحہ، صفیرہ، صنوہ، صنو، ضاہر، طالعہ، طرازیہ، طرویہ، طرہ، طراقہ، عائشہ،  
 عربہ، عشرت، علیہ، عزیز، عہد غیدا، فاضلہ، فاقیہ، فاکہ، فیصلہ، فکرت، فینانہ، قمر، کبریٰ، کنول،  
 لہند، لجنہ، مامونہ، مایین، مبارکہ، مر سال، مطرہ، متاب، میونہ، نادیہ، نازش، نامیہ، ناپید، نبالہ،  
 نبیلہ، نجیہ، نسیم، نضار، نفیسہ، نکت، نگت، نلیقہ، واداد، وافر، ولیقہ، ہاجرہ، ہادیہ، بیہ، سمینہ۔

### عدد (۹) ستارہ مریخ بروج حمل و عقرب

ایقام، اسوہ، افزینہ، انشال، انشیں، الواز، المال، امثلہ، انیسہ، باور، باسمہ، خندان، بروذت، بزمہ،  
 بصیرت، پاکیزہ، تابانہ، تسکین، تسلیم، ثور، ثریا، جمانہ، جویریہ، چاہ، حبذا، حبیبہ، حرمت، حکمت، حسہ،  
 حنیفہ، خانہ، حریدہ، خساء، ذمنہ، ذبالہ، ذہین، رانی، ربیطہ، رخا، رضوانہ، رقیہ، رومان، رویدہ،  
 زائتہ، زبیدہ، زرافشان، زفر، سیادہ، سامرہ، سیا، ستارہ، سترہ، بحیلہ، سرود، سلمہ، سارہ، سماع، سمیرہ،  
 شادی، شاعرہ، شافیہ، شاما، شاہدہ، شذیبہ، شفیقہ، شکورہ، شمسہ، شمامہ، شیما، صابیہ، صدیقہ،  
 صفیرہ، صفا، صقرہ، صنم، صننیعہ، صیابہ، طابہ، طالبہ، طاووسہ، طاقادہ، طفیرہ، طولی، طویسہ،  
 طہورہ، طاقرہ، طعیہ، عائشہ، عائدہ، عتیقہ، عجلہ، عجبیہ، عذارا، عرشہ، عروج، نزہ، عزیزہ، عشویہ،  
 عطبول، عفرا، عنان، عنایت، عنبرینہ، عقبہ، غسانہ، غوثیہ، فاقن، فاطمہ، فاکرہ، فرح، فرزا، فوزیہ،  
 فمیدہ، قیصرہ، کرن، گلغام، لمیاء، لولو، ماہ رخ، محبوبہ، مرمریں، مستورہ، مشوودہ، معروضہ، مہوش،  
 بیاض، میسونہ، نازندہ، نثارہ، نجدہ، ناردین، نزاہدہ، نزو، نزمینہ، نشاط، نگینہ، مہملہ، نیسی، واثقہ،  
 ونورہ، یاسمین۔

یہ عدد (۳) سے منسوب خواتین کی دوست خواتین کے نام ہیں۔ اب ان میں سے عدد تین رکھنے  
 والی خاتون اپنے جاننے والی کا نام دیکھ کر خود اس کے مطابق چلیں کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا  
 کہ ان ناموں میں سے خواتین ان سے اچھا سلوک کرتی ہوں اور یہ ان کی قدر اور اہمیت کو نہ جانیں  
 تو ایسی صورت میں یہ خود دیکھ لیں کہ ان کا مزاج ان کی عادات عدد تین سے تعلق رکھنے والی

خواتین سے ضرور ملے گا۔ اس لئے ان پر بھروسہ کیا جائے اور ان سے پیار کیا جائے۔ اب اس سے آگے عدد (۳) سے متعلق ان کے مخالف خواتین کے نام درج ہونگے اس میں سے بھی یہ خود دیکھ کر ان سے اسی طرح چلیں جس طرح ان کا مزاج اور عادت ہے۔ کیونکہ خلاف خواتین ہر صورت میں ان کے خلاف ہی رہیں گی۔

### عدد (3) کی مخالف خواتین

#### عدد (5) ستارہ عطار و برج سنبلہ اور جوزا

آصفہ، کہلہ، اذین، ارفحہ، اشہ، اصغری، الہام، امتہ، امثال، انور، بارہ، بانو، بدریہ، برہیس، بینقہ، بومیہ، بخت، پالیز، پری، تابدار، تسکینہ، تشمیر، تمنا، توقیر، جنان، جمال، چاندی، چکوری، حجاب، جنا، خاطبہ، خسند، خفیلہ، خطیبہ، خطیرہ، درشوار، رانیہ، زفیہ، روقہ، رومانہ، ربیعہ، زائین، زرقم، زرکار، زرکش، زفرہ، زلفہ، زونہ، زیتون، سارہ، سیمہ، سعدیہ، سللی، سوسن، سوہنی، سیما، شاداں، شادیہ، شاکلہ، شبنم، شرفا، شکیلہ، شمع، شہادہ، صاعقہ، صائم، صعبہ، صفیہ، صمیمہ، صومیہ، طاہرہ، طلعت، عارفہ، عاصیہ، علقہ، عثوہ، عدوس، عدیہ، عصفیرہ، عطار، عطیوس، عنہ، عزیزہ، عینی، عاسقہ، غنچہ، فائزہ، قارزہ، قاطن، قحہ، نقاحہ، فلذہ، فلزہ، فیروزہ، کریمہ، گل، گلگونہ، گلالہ، لامینہ، لیس، نورا، مائدہ، مسعودہ، مشتری، مصادہ، معروفہ، ملکہ، منیفہ، نابغہ، ناعدہ، نائیرہ، نائلہ، نسیب، واجدہ، وشام، وشم، وقایہ، ہالہ، ہرشم۔

#### عدد (۶) ستارہ ہرہ، برج ثور اور میزان

آمنہ، او، اروا، ازلقہ، افروز، البالہ، الماس، المادہ، امنہ، امیہ، انوار، انوش، بادریہ، بقول، بسم اللہ، بھیرہ، پریا، تحسین، ترنم، تلاب، تمینہ، ثامن، ثمن، جائیہ، جلیلہ، حاضرہ، حبیبہ، حریم، حسہ، حوا، بختہ، خزینہ، خشمہ، خلودہ، خیریہ، دلآرام، دلشاد، ذکیہ، ذہیب، ذینب، راحت، راجیل، راشدہ، رلوہ، رجاہ، رزان، رشا، رشادہ، رشیدہ، ربوبہ، رعنا، ریش، ریلہ، روہنہ، زارہ، زارہ، زاریہ، زراجر، زرینہ، زریں، زعمہ، زکیہ، زہراء، زینب، ساریہ، سینا، سلسالہ، سلیطہ، سمن، سمحہ، سننیغہ، سیما، شاب، شافہ، شہقہ، شاہین، شہرہ، شحاذہ، شفیقہ، شمیرہ، صباحت، صراحت، صحیحہ، صنوبر، صمیمہ، صوفاء، صیاح، ضاحبہ، ضافرہ، ضفور، ضفیرہ، طافیہ، طرازہ، طرفہ، طروبہ، عاطرہ، عانسہ، عازہ،

عبرد، عبید، عصمت، عظمت، عفاف، عمران، عوانہ، غازیہ، غمامہ، قارو، فاکتہ، فاکتہ، فخرہ، فرازیہ، فریال، فریحہ، فضیلت، فلاخت، کاملہ، کشوڑ، کلیمہ، کنیر، کوثر، گلزار، گوہر، لینہ، مجیدہ، مر جان، مشیرہ، مصباح، مضئنونہ، مومنہ، مہماہ، میادہ، ناجیہ، نازنین، ناشیہ، ناظمہ، نبلہ، نیجلی، نجیہ، زرگس، نغمہ، نوال، وجیہہ، وحیدہ، وفا، ولید، ہانم، ہدیہ، ہریرہ، یاسرہ، سمند۔

یہ عدد (۳) سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مخالف خواتین کے نام ہیں۔ یہ زندگی میں کبھی بھی ان سے وہ سلوک کر سکتی ہیں جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لئے اس میں سے اپنے جاننے والی خاتون کے نام کو دیکھ کر اچھی طرح سے کوئی بھی فیصلہ کریں۔

## عدد (5) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف اجد	اسم الہی
<b>آ</b>				
آصفہ	ASIFA	عقلمند	176	المتکبر
آبلہ	AHLA	چاند	41	الوہاب
<b>ا</b>				
ازین	AZIN	حسین	761	الخافض
ارفعہ	ARFAA	بلند مرتبہ	356	المنزل
اشنہ	USHNA	خوشبو	356	البصیر
اصغری	ASGHARI	کسن	1301	الحکم
الہام	ILHAM	وحی	77	العدل
امتہ	AMTA	خادمہ	446	المتین
امثال	AMSAL	کہانیاں	572	الواجد
انور	ANWAR	منور	257	مالک الملک
<b>ب</b>				
بادرہ	BADRA	پوراچاند	212	البدیع
بانو	BANO	معزز خاتون	59	الباقی
بادریہ	BADARYA	خوبصورت	221	الوارث
بارجیس	BARJEES	ستارہ	275	المتکبر
بنیقہ	BANIQA	مصنوعی کلی	167	الوہاب

نام	انگریزی	منظب	حروف ابجد	اسم الہی
لاصیہ	BASIYA	نرم و نازک	113	الخافض
بہت	BAHIAT	خوشی	410	المذل
		پ		
پالیز	PALEEZ	سبزہ زار	50	البصیر
پری	PARI	خوبصورت	212	الحکم
		ت		
تابدار	TABDAR	گبار	608	العدل
تسکینہ	TASKINA	ہمدرد	545	المتین
تشمیر	TASHMEER	خوش انداز	950	الواجد
تمنا	TAMANNA	آرزو	491	مالک الملک
توقیر	TAOQIR	وقار	716	البدیع
		ج		
جانان	JANAN	دل	104	الباقی
جمال	JAHAN	عالم	59	الوارث
		چ		
چاندی	CHANDI	سفید	68	المتکبر
چکوری	CHAKORI	چکارہ پرندہ	239	الوہاب
		ح		
حجاب	HIJAB	لوٹ	14	الخافض

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
حنا	HINA	ہندی	59	المدل
		خ		
خاطبہ	KHATIBA	مکتبہ	617	البصیر
خوسند	KHARSAND	خوش	914	الحکم
خزلیہ	KHAZILA	سبزکھیت	1445	العدل
خطیبہ	KHATEEBA	مقرر	626	المتین
خطیرہ	KHATIRA	باعظمت	824	الواجد
		د		
در شہوار	DURRE-SHAHWAR	بے مثال	716	مالک الملک
		ر		
رائیہ	RANIYA	پرارکاز	266	البديع
رفیعہ	RAFEEA	بلند	365	الباقي
رقعہ	RUQA	پرکشش	311	الوارث
رومانہ	ROMANA	مثالی	302	المتکبر
رائیسہ	RAIESA	سر دار عورت	275	الوهاب
		ز		
زائین	ZAIEN	سنوری ہوتی	68	الخافض
زر قم	ZARQAM	خوبصورت	347	المدل
زرکار	ZARKAR	پیش قیمتی	428	البصیر

اسم الہی	حروف واجد	مطلبت	انگریزی	نام
الحکم	527	سونے کی تار سے بنا ہوا	ZARKASH	ذرکش
العدل	257	نادرشے	ZARGUL	زرگل
المتین	302	سیٹی کی آواز	ZAFEERA	زفیرہ
الواجد	122	رجبہ	ZULFA	زلفہ
مالک الملک	68	زینت	ZONA	زونہ
البديع	473	اکسیرشے	ZAITOONA	زیتونہ

## س

الباقي	266	شہزادی	SARA	سارہ
الوارث	86	اندازہ	SABIHA	سیحہ
المتکبر	149	خوش	SADIYA	سعدیہ
الوهاب	131	امن و سکون	SALMA	سلمیٰ
الخافض	176	وردی کا پھول	SOSAN	سوسن
المذل	131	خوبصورت	SOHNI	سوہنی
البصير	113	بے چین	SIMAB	سیماب

## ش

الحکم	356	خوش و خرم	SHADAN	شادان
العدل	320	گانے والی	SHADIA	شادیہ
المتین	356	راستہ	SHAKILA	شاکلہ
الواجد	392	اوس	SHABNAM	شبنم

اسم الی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
مالک الملک	581	نیک دل	JHURafa	شرفا
البدیع	365	خوبصورت	SHAKILA	شکیلہ
الباقی	410	موم بنتی	SHAMA	شع
الوارث	365	چنچل	SHAHdANA	شہانہ
<b>ص</b>				
المتکبر	266	مخلی	SAIQA	صاعقہ
الوہاب	131	روزہ دار	SAIM	صائم
الخافض	167	ہوشیار	SAABA	صعبہ
المذل	185	برگزیدہ	SAFIA	صفیہ
النبصیر	185	خالص	SAMIMA	صمیمہ
الحکم	113	ہمد	SOBIA	صویہ
<b>ط</b>				
العدل	95	تازک اندام	TAFa	طافہ
المتین	509	نظارہ	TALAT	طلعت
<b>ع</b>				
الواجد	356	نیک	AARIFA	عارفہ
مالک الملک	176	عاصی	AASIA	عاصیہ
البدیع	176	گوشہ نشین	AKIFA	عکامہ
الباقی	581	دراز زلف	ASWA	عشویہ



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الوارث	140	بیمادر عورت	ADOS	عدوس
المتکبر	149	شیر دل	ADISA	عدیسہ
الوہاب	455	خوش باش	ASFIRA	عصفیرہ
الخافض	284	سیارہ	ATARAD	عطارد
المذل	185	برگزیدہ	ATBOS	عطوس
البصیر	185	شاہینہ	ANSA	عسہ
الحکم	293	ہوشیار	AEZARA	عیزارہ
العدل	140	مانوس	AENI	عینی
<b>غ</b>				
المتین	1166	زوشنی	GHASIQA	عاسقہ
الواجد	1058	پھول	GHUNCHA	غنجیہ
<b>ف</b>				
مالک الملک	536	گمراہ کرنے والی	FATNA	فاتنہ
البدیع	293	ہوشیار	FARIZA	فارزہ
الباقی	140	عقلمند	FATIN	فاتن
الوارث	1085	انگوشی	FATHA	فاتھ
المتکبر	194	پھول	FAQAHA	فاتحہ
الوہاب	815	لخت جگر	FILZA	فلزہ
الخافض	122	قیمتی شے	FELZZA	فلزہ

اسم الی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المذل	302	نیلگون	FEERZA	فیرزہ
		ک		
البصیر	275	حئی	KAREEMA	کریمہ
		گ		
الحکم	50	پھول	GUL	گل
العدل	131	سرخاب	GULGOONA	گل گونہ
المتین	86	گیسوؤں والی	GULALA	گلالہ
		ل		
الواجد	86	حسین و جمیل	LAMIA	لامیہ
مالک الملک	140	نرم و نازک	LAMES	لیس
		م		
البدیع	248	غیر مرئی	MAWRA	ماورا
الباقی	50	خوان نعت	MAIDA	ماندہ
الوارث	185	نیک	MASOODA	مسعودہ
المتکبر	950	دلہن نما	MUSHTARI	مشتری
الوہاب	140	لوچی	MSADA	مصادہ
الخافض	401	مشہور	MAROOFA	معروفہ
المذل	95	سلطانہ	MALIKA	ملکہ
البصیر	185	بزرگ	MUNIFA	منیفہ

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		ن		
ناغہ	NABIGHA	زہین	1058	الحکم
ناحدہ	NAHDA	باوصلہ	68	العدل
نائیرہ	NAIERA	شغلہ	266	المتین
نسیب	NASEEB	کامیاب و کامران	122	الواجد
		و		
واجفہ	WAIJFA	بے قرار	95	مالک الملک
وشام	WISHAM	نقوش	347	الباقی
وشیم	WASHIM	نقوش والی	356	الوارث
وقایہ	WAQAYA	دوپٹہ	122	المتکبر
		ہ		
ہالہ	HALA	رنگ دو	41	الوہاب
ہرشم	HARSHAM	نرم پتھر	545	الخافض

## عدد (5) ستارہ عطار و برج سنبلہ اور جوزا

### ان خواتین کا خاکہ

یہ خواتین قوت عمل کو تحریک دینے والی ہوتی ہیں اس لئے کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی سے نہیں گھبراتیں کیونکہ ان کو خوبی معلوم ہے۔ کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ ان کا ذہن مشکل کاموں کیلئے موزوں ہے۔ یہ سوچتی ہیں کہ کس طریقے سے کام کو سرانجام دیا جاسکے ہر کام کیلئے یہ عمدہ سے اس کی تکمیل کی خاطر منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ یہ زندگی کے کسی بھی مسئلے یا کسی بھی بات کو زیادہ طول دینا پسند نہیں کرتیں یہ ہر کام سے متعلق بہت جلد فیصلہ سننے اور اس پر کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی شادی ایسے فرد سے ہو جائے جو ان کے مزاج کے الٹ ہو تو ان کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے صرف ایک ہی بہت بڑی چھلانگ لگا کر سب مشکلات پر عبور پانے کی خواہش رکھتی ہیں۔ اور آگے بڑھنے کی خواہش میں اپنے آپ کو پیچھے بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ اور کسی وقت غیر متوقع کام بھی کر سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک مستقبل اگر یقینی نہیں ہے۔ تو زندگی کو خوشگوار اور دلچسپوں سے آمیز کرنا چاہئے کبھی کبھی اپنے ملنے والوں سے یہ طنز یہ زنداز میں گفتگو بھی کرنے لگتی ہیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ان کا دل دکھائیں جن سے ایسی کلام کی جارہی ہے۔ بلکہ اپنی اس چیز کی خوبی بیان کرتی ہیں جو کسی دوسرے کے پاس بھی ہوتی ہے۔ لیکن ان کا مقصد صرف اپنی چیز کی بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ سچائی کو تلخ اور شیریں انداز میں ظاہر کرنے کا موجب بن سکتی ہیں۔ چونکہ یہ اپنی معلومات کا اظہار سب سے کر سکتی ہیں۔ اس لئے کسی بھی خفیہ کام کو نہ کریں یہ اپنی طرافت کا اظہار اس وقت بھی کرنے لگتی ہیں جبکہ دوسرے سنجیدہ ہوں۔

## ان خواتین کا روحانی فال نامہ

ان خواتین کے حاسد اور دشمن بے شمار ہیں۔ لیکن یہ اپنے دوست اور دشمن میں واضح فرق معلوم نہیں کر سکتی اس لئے ان کے دشمن اور ان کے حاسد ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن ان کو پہچاننے میں غلطی ہے۔ اور روز بروز نقصان اور گھائے میں جانا انہی کی بدولت ہے۔ ان کے سینے میں ایک موٹا تل ہے جو ان کیلئے خوش بختی کی علامت ہے۔ اگر یہ روحانی طور پر اپنی امراض کے متعلق معلوم کرنا چاہیں تو ان کے اپنوں نے ان پر سفلی علم کا وار چلایا ہے جس سے یہ دن بدن پریشان اور ان کی صحت حراب رہتی ہے۔ اگر یہ ان تمام نکالیف میں ابھی تک پورا نہیں لہریں تو اس کا راز ان کے ساتھ ایک بزرگ کا سایہ ہوتا ہے۔ جس کو یا تو یہ جانتی ہیں۔ یا ان کو بالکل معلوم نہیں ہے۔ اس لئے تمام نکالیف سے محفوظ رہنے کیلئے ان آیات کو زعفران سے لکھ کر اپنی الٹی بازو میں باندھیں اور دوسرے نقش کو پانی میں گھول کر اس کا صبح نماز منہ روزانہ گیارہ دنوں تک پانی پینے اللہ کے فضل سے ان پر کیا ہوا ہر جادو ٹوٹنا باطل ہو گا۔ اور یہ ان تمام قیامت سے کھل محفوظ رہیں گی۔ انشاء اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نور فوق کل نور یا نور السموات  
والارض یا مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات انک علی کل شیء  
قدیر و یحق یا عطوف یحق آدم صفی اللہ و یحق ابراہیم خلیل اللہ  
وموسی کلیم اللہ و یحق عیسی روح اللہ و یحق محمد رسول اللہ  
و یحق هذه الاسماء الحسنی و یحقک یا علام الغیوب یا ارحم  
الراحمین فلان بنت فلان۔

۵۲۳۵	۵۲۳۸	۵۲۳۱	۵۲۳۷
۵۲۳۰	۵۲۳۸	۵۲۳۳	۵۲۳۹
۵۲۳۶	۵۲۳۳	۵۲۳۶	۵۲۳۳
۵۲۳۷	۵۲۳۲	۵۲۳۰	۵۲۳۲

## رشتے کے حصول کیلئے

اگر ان خواتین کے رشتے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو اور اس کی چاہے کوئی بھی وجہ ہو تو اس عمل کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ان کا رشتہ اچھی جگہ پر ہوگا۔ اور ان کا نصیب کھلے گا۔ یہ اس عمل کو اس صورت میں بھی کر سکتی ہیں۔ جبکہ یہ کسی کو پسند کرتی ہوں۔ ان آیات کو روزانہ بعد نماز عشاء اپنے نام کے مطابق یا اپنے محبوب کے نام کے مطابق یا اس فرد کے نام کے مطابق پڑھیں جو ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہوں۔ اور اس نقش کو اپنے رشتے کی غرض سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السموات والارض قل الله قل افا اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔

۲۵۹۱۷	۲۵۹۲۰	۲۵۹۲۳	۲۵۹۱۰
۲۵۹۲۲	۲۵۹۱۱	۲۵۹۱۶	۲۵۹۲۱
۲۵۹۱۲	۲۵۹۲۵	۲۵۹۱۸	۲۵۹۱۵
۲۵۹۱۹	۲۵۹۱۳	۲۵۹۱۳	۲۵۹۲۳

## ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

یہ خواتین اپنے ہر مرض سے متعلق شفاء حاصل کرنے کیلئے ان آیات کو زعفران سے لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیئیں اور اس نقش کو اسی غرض سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فلان بنت فلان

۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۶
۱۳۲۹	۱۳۱۷	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۲۳	۱۳۲۵	۱۳۲۱
۱۳۲۶	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۳۱

### نظر بد سے مکمل نجات کیلئے

اس مقصد کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنی الٹی بازو میں باندھیں اللہ کے فضل سے یہ نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ اور آئندہ کیلئے بھی اس سے محفوظ رہیں گی۔

۱۳۳۰۷	۱۳۳۱۱	۱۳۳۱۳	۱۳۳۰۰
۱۳۳۱۳	۱۳۳۰۱	۱۳۳۰۶	۱۳۳۱۲
۱۳۳۰۲	۱۳۳۱۶	۱۳۳۰۹	۱۳۳۰۵
۱۳۳۱۰	۱۳۳۰۳	۱۳۳۰۳	۱۳۳۱۵

### تبادلے کی منسوخی کیلئے

اگر ان خواتین نے اپنا تبادلہ منسوخ کر دانا ہو تو اس نقش کو تیل اور نوشادر ملا کر سیاہی بنا کر اس سیاہی سے اپنے متعلقہ فرد کا نام اور اس کا تصور بنا کر اس نقش کو لکھیں اور اس کے گھر میں دبا دیں وہ تبادلہ نہیں کر سکے گا۔ اور ان خواتین کے زیر ہوگا۔ اگر ان کا افسر یا حاکم شریک بھی ہوگا۔ تو اپنی شرارتوں سے باز رہے گا۔

۸۳	۹۳	۹۵	۸۰
۸۸	۸۷	۸۵	۹۱
۸۳	۹۰	۸۹	۸۸
۹۶	۸۱	۸۲	۹۲

## دفع نفسانی خواہشات کیلئے

یہ خواتین اللہ اور رسول ﷺ کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہونے اور اپنی دنیاوی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کیلئے۔ اس آیت کو بھرت اپنی نیت کا مکمل تصور باندھ کر پڑھیں۔ اور اللہ کے حضور اپنی اس عادت کو ترک کرنے کیلئے زیادہ دعا کیا کریں۔ ان کی خواہشات کا خاتمہ ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم۔

### سو وظيفوں کا ایک ہی وظیفہ

یہ خواتین اگر اپنے کسی بھی مقصد کے حصول کیلئے اس دعا کو اپنے مقصد کی مکمل نیت باندھ کر پڑھیں اللہ کے حکم سے اس دعا کے اثرات سے ان کے دشمن ان کے زیر ہو گئے۔ اور ان کا ہر مقصد حل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو بھی مقصد ہو یہ تصور باندھ کر اس کو پڑھیں کامیاب ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسئلك بكلماتك ومعاهد  
عرشك وسكان سمواتك وارضك وانبيائك ورسلك ان  
تستجيب لي فقدر هقني من امري عسرا واسئلك ان تصلي علي  
محمد و آل محمد وان تجعل لي من امري يسرا

### زیارت نبی کریم ﷺ کیلئے

ان خواتین میں سے اگر کسی کی خواہش زیارت نبی کریم ﷺ کی ہو تو اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک و صاف کر کے اپنے دل کی میل کو دور کریں اور پھر اس عمل کو کرنے کا ارٹکاب کریں۔ اللہ کے فضل سے زیارت ضرور ہوگی۔ بشرطیکہ کہ اگر نیت، شوق، اور لگن سچی ہوگی۔ اپنے گھر میں کسی پاک و صاف جگہ کا انتخاب کر کے سورۃ مزمل شریف کو روزانہ (۱۱۱) مرتبہ روزانہ تا حصول مقصد تک جاری رکھیں۔ اور چراغ اس عمل کی نیت کا ضرور جلا لیں اور عمل ختم کرنے کے بعد بھی چراغ کو نہ بجھائیں وہ خود بخود بجھ جائے گا۔ اور ڈر کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیں۔ کامیابی ضرور اور اثر لازمی ہے۔ انشاء اللہ



## اپنے شوہر کا دل جیتنے کیلئے

اگر ان میں سے کسی کا شوہر ان سے بد سلوکی اور بد زبانی کرتا ہو تو اس مقصد میں کامیاب ہونے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے شوہر کا نام لکھیں اور اپنا مقصد بھی نقش کے اندر تحریر کریں اور پھر اسے اپنے گلے میں پھینیں ان کا شوہر ان حرکات سے باز آئے گا۔ جس سے دل دکھتا ہے۔

۱۱	۲۱	۲۲	۸
۱۶	۱۳	۱۴	۱۹
۱۲	۱۸	۱۷	۱۵
۲۳	۹	۱۰	۲۰

## شیطانی وسوسوں کے خاتمے کیلئے

اگر ان میں کسی خاتون کو اس مرض کی شکایت ہو تو وہ اپنے دل پر اللہ اللہ لکھنے کی مشق کیا کرے۔ اور اس عمل کو دن میں کم از کم گیارہ مرتبہ کرے اور اللہ دل پر لکھنے کی تعداد (۶۶) رکھے شیطان خود ان سے پناہ مانگے گا۔ اور ان کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔ انشاء اللہ

## جادو ٹونہ، مسان آسب کا مکمل خاتمہ

یہ خواتین ان تمام مقاصد کی نیت سے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی بازو میں باندھیں۔

۱۸۴۸۱	۱۸۴۸۲	۱۸۴۸۷	۱۸۴۷۳
۱۸۴۸۶	۱۸۴۷۴	۱۸۴۸۰	۱۸۴۸۵
۱۸۴۷۵	۱۸۴۸۹	۱۸۴۸۲	۱۸۴۷۹
۱۸۴۸۳	۱۸۴۷۸	۱۸۴۷۶	۱۸۴۸۸

## عدد (5) خواتین کی دوست خواتین

### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

گبار، گمہ، اجیہ، ارجند، اروئی، افریشم، المالی، امید، انورہ، باصرہ، برکت، برودہ، بصیرہ، بلبل، بھار، پارہ، پاستان، پریمال، تاجہ، تحریم، تماضر، تمکنت، تمذیب، ثویہ، جونہ، چاندنی، حاجیہ، حامیہ، حدیقہ، حسن، حنان، خالدہ، خدیجہ، خلود، خمیلہ، خیزی، ربیظہ، رحیلہ، روفہ، رکان، رمازہ، ریشمان، زیادہ، زبیدہ، زوریز، زونگار، زرین، زری، زہرہ، زیب، زینونہ، ساجدہ، سالمہ، سحرش، سیکنہ، سلامہ، سلیمہ، سہلہ، شائستہ، شبہ، شہزاد، شریفہ، شہلیہ، شعیلہ، صابرہ، صائمہ، صبرہ، صہم، ضمیرہ، ضعیفہ، طروب، طریبہ، طنازیہ، علیہ، عائکہ، عاجلہ، عازمہ، عامرہ، عبیدہ، عجلہ، عدوسہ، عصفورہ، عفت، عمارہ، عمیرہ، عنانیہ، عنان، غیسانہ، فادیہ، فاطمہ، فقیہ، فدوی، فرزانہ، فہیمہ، فیوضہ، قاریہ، قدہ، کاشفہ، لاچورد، لائقہ، لہ، لمعات، لثیقہ، لیما، مہ، مینہ، محنت، منزلہ، مضمٹون، منی، ہتما، مہدیہ، نازیہ، ناصرہ، ناقہ، نداء، ندیدہ، ندیمہ، نراکت، نسرین، نسیم، نطیقہ، نواز، نوارہ، نیلما، نیلی، واجدہ، وارثہ، واشدہ، وشرہ، وجدان، وصفہ، ولیدہ، ہما، ہندہ، لیرٹی، لیکن۔

### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آرا، آسہ، اختر، ادیبہ، اریبہ، ارزش، افشا، املہ، امیرہ، انجم، ایناس، انیقہ، بازہ، باطنہ، بدرہ، برشکال، بصیرہ، بقیس، بنان، بہیہ، پرزاد، تاباں، تیاں، تجیہ، تصویر، ٹکریم، ثیبہ، جمیرہ، جمان، چاند، حاذقہ، حارمہ، حارسہ، حافظہ، حامدہ، حباب، حریر، حسیہ، حفیظہ، حمیدہ، حوریہ، خاشعہ، خفیرہ، دل افروز، ذبال، رائین، رسم، رمانی، ریا، ریحانہ، زاہدہ، زریاب، زلیخہ، زہیدہ، زین، ساجدہ، سارہ، سارم، سفیرہ، سینہ، سدیدہ، سمیر، شادان، شاکرہ، شیبوب، شرارہ، شریکہ، شکیبہ، شگفتہ، شہودہ، صیدہ، صحیحہ، صغریٰ، صقرا، صلوت، صولت، صصنع، ضوفشال، طاہرہ، طابنہ، طاسیہ، طاہرہ، ظفر، طناز، ظہیرہ، طیب، طیفورہ، تہارہ، ظاہرہ، ظہیرہ، عاززہ، عابدہ، عدینہ، عروبہ، عطیہ، عزیزیں، عجزہ، عندلیب، عبادہ، عین، غراتہ، عمیرہ، فاحرہ، فائقہ، فخریہ، فرحت، فرزہ، فریحہ، فیصحہ، فلک، قادورہ، قدیرہ، کشور، گلزار، گلشن، ماریہ، مجاہدہ، محضہ، محمودہ، مدیحہ، مسلمہ، مشرفہ، مشیطہ، مشیرہ، مقیرہ، مکارم، منال، منورہ، میزہ، میسون، نایہ، ناظرہ، ناعمہ، ناقلہ، نبیہ، نیبہ، نجاہ،

زادہ، نصیبہ، نصیرہ، نقرہ، نکلین، زریہ، نیرہ، نیکم، وزیلہ، وسامہ، وسیمہ، وشم، وفیہ، ہامزہ۔

### عدد (6) ستارہ زہرہ برج ثور اور میزان

آمنہ، ادا، ارونا، ازلفہ، افروزہ، البالہ، الماس، لامہ، امنہ، امیہ، انوار، انوش، بادریہ، بقول، بسم، اللہ، بھیرہ، پریا، تھمین، ترنم، تشابہ، تمینہ، ٹامن، ٹشین، جاشیہ، جلیلہ، حاضجیہ، حریم، حسہ، حوا، جگرہ، خزینہ، ڈھیمہ، ظلود، خیریہ، دلآرام، دلشاد، ذکیہ، ذہیب، ذینب، راحت، راشدہ، راویہ، رجاہ، رزان، رشا، رشیدہ، رعوبہ، رعنا، ریشہ، ریمیلہ، روہینہ، زارہ، زارہ، زارہ، زریہ، زراہر، زریہ، زریں، زریں، زعمہ، زکیہ، زہراء، زینب، ساریہ، سینا، سلمہ، سنلیطہ، سمن، سبک، سننیعہ، سیالی، شاپ، شافہ، شاہقہ، شاپن، شرہ، شخاڑہ، شفیقہ، شمیرہ، صباحت، صراحت، صحیح، صنوبر، صلبہ، صوفاء، صیاح، ضاحبہ، ضافرہ، ضفور، ضفیرہ، طافیہ، طرازہ، طرفہ، طروبہ، عاطرہ، عائشہ، عاڑہ، عبود، عبید، عصمت، عظمت، عفاف، عمرانہ، عوانہ، عازیہ، غمامہ، قارہ، قائدہ، فائقہ، فخریہ، فریال، فریحہ، فضیلت، فلاحت، کاملہ، کشود، کلیمہ، کینز، کوثر، گلزار، گوہر، لبنہ، مجیدہ، مرجان، میڑہ، مصباح، مضنونہ ہونہ، مہا، میادہ، ناجیہ، نازنین، ناشیہ، ناظمہ، نبلہ، نجوی، نجیہ، نرگس، نغمہ، نوال، وجیہہ، وحیدہ، وفا، ولید، ہانم، ہدیہ، ہریرہ، یاسرہ، سمن

اوپر لکھے گئے یہ تمام نام عدد (5) ستارہ عطارد رکھنے والی خواتین کی دوست خواتین خواتین کے نام ہیں۔ یہ اپنے کسی بھی معاملے یا کسی بھی نظریہ سے ان پر پورا اعتبار کر سکتی ہیں۔ اور جو نام ان خواتین کے مخالف خواتین کے ہونگے یہ ہر صورت ان سے محتاط رہیں۔ اور ان کو اپنے کسی بھی راز والی بات میں ہمارا نہ ہائیں۔ کیونکہ موقع ہاتھ آنے پر یہ کسی حد تک ان سے کچھ بھی کرنے کا ذہن رکھتی ہوگی۔

### عدد (5) کی مخالف خواتین

#### عدد (2) ستارہ قمر برج سرطان

آتیہ، اریہ، ازدہار، ازل، افروزہ، امروز، انوش، ایمن، بارقہ، بقولہ، برکات، برکہ، بنت، بینظیر، پشین، تارہ، تنیم، شمر، شفاء، شینہ، شین، جین، جلباب، حریمہ، حسنی، حمیرہ، حویا، خولہ، خلیا، درخشندہ، دلآرا، رلیہ، رادفہ، راعیہ، رافتہ، رائدہ، راقبہ، رحیمہ، رضا، رفرف، رفیدہ، رقلہ، رولی،

زبان، ذرقا، زرینه، زعفران، زنبق، سبز، سبل، سدیم، سراب، سریره، سلطانه، سانه، سیت، سمیده،  
 سیله، شاداب، شاطبه، شاهین، شیو، شریطه، شقره، شقیقه، شمران، صادق، صادق، صباح، صدیقیه،  
 صفرا، صوفیه، ضامره، ضراط، عامله، عدلیه، عرزوم، عرینه، عطقه، عقیقه، عطنه، عمد، عوسا، غاده، غاشیه،  
 غالیه، غزل، فرحانه، فریده، فنوا، قاصده، قاتمه، کابره، کسوده، کلثوم، گلاندام، لیلی، ماهانه، مخدومه، مدرا،  
 مرام، مروارید، مره، مریم، مرده، مصاحبه، مصون، معطره، مقدسه، مقصوده، مخمیل، مجید، مینا، نایه  
 نبال، ندوه، نسیم، نساء، نسیم، جمیده، وکیل، ووفیه، و بساجه، یحیه، یهنا، سماء، یحیی

### عدد (7) ستاره قمر برج سرطان

آرزو، آزله، اتهام، اذکیه، ارم، ازهار، اسده، اطروبه، امروزه، باغنه، بشینه، بد، برزن، پارینه، پروین،  
 تبسم، تحفه، تمکین، تمیز، تنزیله، ثمره، شیخ، جلا، جمیله، حسینه، حلیفه، خازر، خانم، خبیره، خطامه،  
 خلیفه، ذاکیه، راسه، رباب، رخسانه، رخشده، ردا، رصیفه، رضیه، رعد، رفاقت، رمه، روشن،  
 ریشمان، ریان، ریم، زرتار، زغله، زمیت، ساجیه، ساریه، سبله، سیمه، ستوده، سحر، سراره، سلوت،  
 سفانه، سفینه، سلوی، سلیقه، سنبل، سور، سهام، شانزه، شبانه، شاکله، شمشاد، شمیره، شیباه، صباح، صبیحه،  
 صراحه، صریح، صغیره، صنوه، صونه، ضاهر، طالعه، طرازیه، طرویبه، طره، ظرافه، عاتقه، عربه،  
 عشرت، علیه، عنبر، عمد، غمید، فاضله، فاعیه، فاکنه، فضیله، فکرت، فیثانه، قمر، کبری، کنول، لینه، لینه،  
 مامون، ماہین، مبارکه، مرسال، مطهره، متاب، میونه، نادیه، نازش، نامیه، ناهید، نبال، نبیله، نجیه،  
 نسیم، انصار، نسیم، کفایت، کفایت، نسیم، واداد، وافر، ولیقه، ہاجرہ، ہادیہ، ہجیرہ، ہجیرہ۔

## عدد (6) سے تعلق رکھنے والی خواتین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		آ		
آمنہ	AMNA	باعث امن	96	الرحیم
		ا		
ادا	ADA	روش	6	السلام
ارونا	ARONA	جلوہ نما	258	الباری
ازلفہ	AZLFA	رہنما	123	العلیم
افروز	AFROZA	بڑھانے والی	294	الرقیب
البالہ	ALBALA	مخزون عطر	69	الحکیم
الماس	ALMAS	ہیرا	132	الباعث
امامہ	AMAMA	رہنما	87	المقتدر
امنہ	AMNA	اقبال مند	96	المقسط
امیہ	AMINA	پر شباب	96	الجامع
انوار	ANWAR	روشنیاں	258	الرحیم
انوش	ANOSH	شاداں	357	السلام
		ب		
بادریہ	BADARYA	روشن دان	222	الباری
بتول	BATOL	پاکدامن	438	العلیم
بسم اللہ	BISMILLAH	آغاز	168	الرقیب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحکیم	222	چکدار	BAHIRA	بھیرہ
		پ		
الباعث	213	خوبصورت	PARYA	پریا
		ت		
المقتدر	528	تعریف	TAHSEEN	تھسین
المقسط	690	راگ	TARANNUM	ترنم
الجامع	708	ہمسری	TASHABA	تشابہ
الرحیم	510	نڈر	TAHMINA	تھمینہ
		ث		
السلام	591	آٹھواں	SAMAN	ٹامن
الباری	600	بیش قیمت	SAMEEN	ٹھین
		ج		
العظیم	519	قرآن کی سورۃ	JASIYA	جاشیہ
الرقیب	78	اعلیٰ	JALILA	جلیلہ
		ح		
الحکیم	1014	خوش اطوار	HAZIRA	حاضرہ
الباعث	15	الفت	HABBA	حبہ
المقتدر	258	مکان	HARIM	حریم
المقسط	123	خوبصورت	HUSNA	حسنہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الجامع	15	پری جمال	HAWWA	حوا
		خ		
الرحیم	1068	مبارک	KHUJASTA	خجستہ
السلام	672	دولت	KHAZINA	خزینہ
الباری	1455	سر سبز زمین	KHAZIMA	خضمیرہ
العلیم	645	مستقل	KHALOODA	خلود
الرقیب	825	اچھی	KHAIRIYA	خیر یہ
		د		
الحکیم	276	باعث سکون	DIL ARAM	دل آرام
الباعث	339	مسرور کرنے والی	DILSHAD	دلشاد
		ذ		
المقتدر	735	عقل مند	ZAKIYA	ذکیہ
المقسط	717	تہذیب یافتہ	ZAHEB	ذہیب
الجامع	762	معصوم	ZAINAB	ذینب
		ر		
الرحیم	609	سکون	RAHAT	راحت
السلام	249	باعث سکون	RAHEEL	راہیل
الباری	510	ہدایت یافتہ	RASHIDA	راشدہ
العلیم	222	بتائے والی	RAWIYA	راویہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرقیب	204	امید	RIJA	رجاء
الحکیم	258	باوقار	RAZAN	رزان
الباعث	501	ہوشیار	RASHA	رشا
المقتدر	510	ہدایت	RASHADA	رشادہ
المقسط	519	ہدایت یافتہ	RASHEEDA	رشیدہ
الجامع	285	خوبصورت	RABOBA	رعوبہ
الرحیم	321	خود آرا	RANA	رعنا
السلام	555	مکمل دستہ	RAMISA	ریشہ
الباری	285	سجائے والی	ROMELA	رملہ
العلیم	276	سخت جان	ROHINA	روہینہ
		ز		
الرقیب	213	عاجزی کرنا	ZARA	زارہ
الحکیم	213	دیکھنے والی	ZAIRA	زارہ
الباعث	24	باوقار	ZABIYA	ذبیہ
المقتدر	456	بیش قیمت سونا	ZARAHMAR	زاراحمر
المقسط	312	خوش سخت	ZARMINA	زارمینہ
الجامع	267	سوئے کا	ZARREEN	زارین
الرحیم	132	پیشوا	ZAEEMA	زعیمہ
السلام	42	نیک	ZAKIYA	زکیہ



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباری	213	سفید لہ	ZUHRA	زہراء
العلیم	69	خوبصورتی	ZAINAB	زینب
<b>س</b>				
الرقیب	276	ستون	SARIYA	ساریہ
الحکیم	123	کناری	SABINA	سینا
الباعث	186	خوش گوار	SILSALA	سلسالہ
المقتدر	114	حاضر جواب	SALITA	سلیطہ
المقسط	150	چنبیلی	SAMAN	سمن
الجامع	123	شریف	SAMIHA	سمیحہ
الرحیم	195	نیک عورت	SANIA	سنیچہ
السلام	123	بے قرار	SEEMABI	سیرابی
<b>ش</b>				
الباری	303	شاب	SHAB	شاب
العلیم	456	شغامت کرنے والی	SHAFIA	شافعہ
الرقیب	411	لوچی	SHAHQA	شاہقہ
الحکیم	366	باز	SHAHEEN	شاہین
الباعث	510	شہرت	SHUHRA	شہرہ
المقتدر	1014	عقند	SHSHAZA	شہازہ
المقسط	645	شعبہ کی حقدار	SHAFIA	شعبہ

نام	انگریزی	مطلب	حروف اجد	اسم الہی
شمیرہ	SHAMIRA	تیز رو	555	التجامع
<b>ص</b>				
صاحت	SABAHAT	خوبصورت	501	الرحیم
صراحت	SARAHAT	واضح	699	السلام
صحیح	SAMKHA	نازک اندام	735	الباری
صنوبر	SANOBAR	شاہ بلوط	348	العلیم
صمیمہ	SANIMA	خوبصورت	195	الرقیب
صوقاء	SOFA	نرم و نازک	177	الحکیم
صیاح	SIYAHA	عمدہ خوشبو	114	الباعث
<b>ض</b>				
ضاحیہ	ZAHIBA	بے مثل	816	المقتدر
ضافرہ	ZAFRA	مددگار	1086	المقسط
ضفور	ZAFOR	زلقوں والی	1086	الجامع
ضفیرہ	ZAFIRA	زلقوں والی	1095	الرحیم
<b>ط</b>				
طافیہ	TAFIA	نرم و نازک	105	السلام
طرازہ	TARAZA	نقیص	222	الباری
طرفہ	TARFA	حیران کن	294	العلیم
طروبیہ	TROOBA	فرحان	222	الرقیب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
----------	-----------	------	---------	-----

## ع

الحکیم	285	عطروالی	ATIRA	عاطرہ
الباعث	186	صحت مند	ANISA	غانہ
المقتدر	276	پروقتار	AIRA	عائزہ
المقسط	276	نازک اندام	ABARAD	عبود
الجامع	87	فخر	ABED	عبید
الرحیم	600	پاک دامنی	ASMAT	عصمت
السلام	1410	بلندی	AZMAT	عظمت
البازی	231	پاک دامنی	AFAF	عفاف
العلیم	366	مہذب	IMRANA	عمرانہ
الرقیب	132	کھجور نما	AWANA	عوانہ

## غ

الحکیم	1023	بہادر	GHAZIA	غازیہ
الباعث	1086	بارد، ابر	GHAMAMA	غمامہ

## ف

المقتدر	285	تہا	FARID	فارد
المقسط	1086	اعلیٰ ممتاز	FAIZA	فائزہ
الجامع	186	فائق	FAIQA	فائقہ
الرحیم	303	سر بلند	FAKHIRA	فخیرہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
السلام	303	بلندی والی	FARAZIA	فرازید
الباری	321	بھادر	FARYAL	فریال
العلیم	303	خوش بنی خوش	FARIHA	فریحہ
الرقیب	1320	بزرگی، بڑائی	FAZEELAT	فضیلت
الحکیم	519	تکلی، بھلائی	FALAHAT	فلاحت
<b>ک</b>				
الباعث	96	کھل	KAMILA	کاملہ
المقدر	330	کھانا	KASHOOD	کشود
المقسط	105	بات کرنے والی	KALIMA	کلمہ
الجامع	87	ملازمہ	KANIZ	کنیز
الرحیم	726	جنت کی نسر	KOASAR	کوثر
<b>ک</b>				
السلام	258	باغ	GULZAR	گلزار
الباری	231	مروارید	GOHAR	گوہر
<b>ل</b>				
العلیم	87	سفید	LUBNA	لبنہ
<b>م</b>				
الرقیب	60	قبول کرنے والی	MUJIBA	مجیبہ
الحکیم	294	موتگا	MARIAN	مرجان

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
مشیرہ	MASIRA	مصاحبہ	555	الباعث
مصباح	MISBAH	روشن چراغ	141	المقتدر
مضنونہ	MAZNOONA	معطر بخوف	951	المقسط
مومنہ	MAOMINA	ایماندار	141	الجامع
مہام	MHAH	نرمی	51	الرحیم
میادہ	MIYADA	مخاطرو	60	السلام
<b>ن</b>				
ناجیہ	NAJIYA	بے فکر	69	الباری
نازنین	NAZNEEN	دلربا	168	العلیم
ناشیہ	NASHIYA	پر شباب	366	الرقیب
ناظمہ	NAZIMA	انتظام کرنے والی	996	الحکیم
نابلہ	NABLA	ذہین	87	الباعث
ناجوی	NAIWA	راز	60	المقتدر
نجیہ	NAJBA	سر بلند	60	المقسط
نرگس	NARGIS	خوبصورت	330	الجامع
نغمہ	NAGHMA	ہوا کی رانی	1095	الرحیم
نوال	NAWAL	برکت	87	السلام
<b>و</b>				
وجیہ	WAJEEH	زیبا	24	الباری

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
العلیم	33	لاٹانی	WAHEEDA	وحیدہ
الرقیب	87	ایقائے عمد	WAFIA	وفا
الحکیم	51	پاکیزہ	WALEED	ولید
		ہ		
الباعث	96	خاتون	HANIM	ہانم
المقتدر	24	تختہ	HADEED	ہدیہ
المقسط	420	بیاری	HUREERA	ہریہ
		ی		
الجامع	276	ذولتمند	YASIRA	یاسرہ
الرحیم	105	راہ راست پر	YAMNA	یمنہ

## ان خواتین کا روحانی فال نامہ

زیادہ غصہ کرنا ان خواتین کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اور اس غصہ کی وجہ ان پر آسیب کا سایہ ہے۔ اور یہ سایہ مرد ہے۔ اس لئے یہ اس کا روحانی علاج اس طرح کریں کہ دریا میں درمیان سے کافی مقدار میں پانی لا کر ان نقوش کو دونوں کی ترتیب سے روزانہ سات دنوں تک اس پانی میں ڈال کر اس سے غسل کیا کریں۔ اور پھر بعد میں گلے میں پہننے والا نقش زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھ لیں۔ یہ سایہ ان سے دور ہو گا اور اپنے آئندہ دنوں میں یہ کافی افاقہ محسوس کریں گی۔ یہ ان کا روحانی علاج ہے۔

ہفتہ

۲۰۸۵	۲۰۸۸	۲۰۹۱	۲۰۷۷
۲۰۹۰	۲۰۷۸	۲۰۸۳	۲۰۸۹
۲۰۷۹	۲۰۹۳	۲۰۸۶	۲۰۸۳
۲۰۸۷	۲۰۸۲	۲۰۸۰	۲۰۹۲

اتوار

۹۵۷۳	۹۵۷۷	۹۵۸۱	۹۵۶۷
۹۵۸۰	۹۵۶۸	۹۵۷۳	۹۵۷۸
۹۵۶۹	۹۵۸۳	۹۵۷۵	۹۵۷۲
۹۵۷۶	۹۵۷۱	۹۵۷۰	۹۵۸۲

پنج

۲۱۶۹	۲۱۷۲	۲۱۷۵	۲۱۶۱
۲۱۷۳	۲۱۶۲	۲۱۶۸	۲۱۷۳
۲۱۶۳	۲۱۷۷	۲۱۷۰	۲۱۶۷
۲۱۷۱	۲۱۶۶	۲۱۶۳	۲۱۷۶

شکل

۳۰	۱	۳۰	۶۰
۳۰	۶۰	۳۰	۱
۶۰	۳۰	۱	۳۰
۱	۳۰	۶۰	۳۰

۵۴

۱۹	۲۹	۳۰	۱۶
۲۲	۲۲	۲۱	۲۷
۳۰	۲۶	۲۵	۲۳
۳۱	۱۷	۱۸	۲۸

بهرات

۲۹	۳۰	۳۱	۲۶
۳۵	۳۲	۳۱	۳۸
۳۰	۳۷	۳۶	۳۳
۳۲	۳۷	۳۸	۳۹

۵۵

۳۸	۳۸	۳۹	۳۵
۳۳	۳۱	۳۰	۳۶
۳۹	۳۵	۳۳	۳۲
۵۰	۳۶	۳۷	۳۷



اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے میں ڈالیں۔ شفاء ہوگی۔

۹۳۶۳	۹۳۳۶	۹۳۷۰	۹۳۵۱
۹۳۶۹	۹۳۵۷	۹۳۶۳	۹۳۶۸
۹۳۵۸	۹۳۷۲	۹۳۶۵	۹۳۶۲
۹۳۶۶	۹۳۶۱	۹۳۵۹	۹۳۷۱

## ان خواتین کا خاکہ

یہ خواتین ثابت قدم لیکن دھرم ہوتی ہیں۔ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں شکایت پسندی کے جذبات ہیں۔ یہ اپنی ہر بات کو سچ اور صحیح سمجھتی ہیں۔ یہ خواتین مادی وسائل پر قابو پا کر عیش اور آرام سے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں۔ دوسرے افراد اور تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کرنے کا بھی ان میں فن ہے۔ یہ مادی نقطہ نظر سے اقتدار کی تشکیل نو چاہتی ہیں۔ اور ایسے بے چلک اصول ان کے پسندیدہ ہیں۔ جو حقائق سے متعلق ہونے کی بجائے خود غرضی پر منطبق ہوں۔ انہیں قدرت سے ایسی گہری محبت ہے جو مادہ پرستی سے علیحدہ ہو۔ اور تمام زندہ مخلوق سے ہم آہنگی رکھتی ہو۔ ان کی زندگی سادہ لیکن الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دوسری خواتین سے زیادہ الجھی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کے بہت سے پہلو خفیہ ہوتے ہیں۔ یہ ملکیت پسندی کو اپنے ہر پہلو سے اجاگر کرتی ہیں۔ اور جانتی ہیں۔ کہ ان کی چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بے حد سمجھدار اور سوجھ بوجھ والی ہوتی ہیں۔ اور صاحب تدبیر خیال کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کے تمام وسائل کو اپنے طریقے پر استعمال میں لانا جانتی ہیں۔ یہ خداداد صلاحیتوں کی مدد سے ایسا کرتی ہیں۔ یہ اپنی ملکیتی اشیاء سے بھی کافی کام لیتی ہیں۔ یہ پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی شدت بھی رکھتی ہیں۔ بظاہر یہ ٹھنڈی طبیعت کی نظر آتی ہیں۔ مگر یہ اندر ہی اندر اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کے طریقے سوچتی رہتی ہیں۔ اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں۔ یہ جسمانی کشش اور خوبصورتی کے علاوہ اپنی آواز میں جادو رکھتی ہیں۔ جب کبھی یہ اپنی آواز کا جادو جگاتی ہیں۔ یہ اپنے تمام چاہنے والوں سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ اور ان کیلئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں۔

## اپنے نکاح کو کھولنے کیلئے

اگر ان خواتین کے رشتہ داروں نے ان کی نکاح بندی کر دی ہو اور ان کی شادی میں بے شمار رکاوٹیں ہوں یا ان کو صحیح رشتہ نہ ملتا ہو یا یہ کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس عمل کی بدولت اللہ کے فضل سے ان کا رشتہ اچھی سے اچھی جگہ پر ہوگا۔ اور یہ اس سلسلے میں جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن اس نیت پر جب کہ ایسا سب کچھ جائز ہو اور اس میں گھر کے تمام افراد متفق ہوں۔ یہ اپنے مقصد اور نیت کا پورا تصور باندھ کر اس کو اپنے نام کی تعداد کے مطابق پڑھیں اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے میں پہنیں اور اسی نقش کو فریم کروا کر اپنے گھر میں لگائیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم يا نور كل شيء انت الذي خلق الظلمات نور

۸۵۵۹	۸۵۶۲	۸۵۶۵	۸۵۵۱
۸۵۶۳	۸۵۵۳	۸۵۵۸	۸۵۶۳
۸۵۵۳	۸۵۶۷	۸۵۶۰	۸۵۵۷
۸۵۶۱	۸۵۵۶	۸۵۵۳	۸۵۶۶

## سفلی علم کا مکمل خاتمہ

اگر ان خواتین پر جادو کا بہت زور رہتا ہو اور ان کو کسی طریقے سے بھی شفاء نہ ملتی ہو تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے میں باندھیں اور ان آیات کو بخیرت پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں اور اسی نقش کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی بھی پیا کریں۔ اللہ کے حکم سے سفلی علم کا جڑے خاتمہ ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا رقيب  
يا وكيل يا الله اكبر يا الله اكبر يا الله اكبر يا الله اكبر وبحق لا اله الا  
الله محمد رسول الله فلان بنت فلان

۳۹۹۱	۳۹۹۳	۳۹۹۷	۳۹۸۳
۳۹۹۶	۳۹۷۵	۳۹۹۰	۳۹۹۵
۳۹۸۶	۳۹۹۰	۳۹۹۲	۳۹۸۹
۳۹۹۳	۳۹۸۸	۳۹۸۷	۳۹۹۸

### اپنے روزگار کو بڑھانے کیلئے

اگر ان خواتین کا کسی نے ان کا کاروبار بند کرنے کی خاطر کوئی علم وغیرہ کروادیا ہو تو اس کے مکمل توڑ کیلئے۔ ان آیات کو دریا کے پانی پر پڑھ کر اس پانی کو اپنے کاروباری مقام پر چھینٹوں کی طرح لگائیں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو بھی اپنے کاروباری مقام پر لگائیں ہر طرح کے سفلی علم کا خاتمہ ہو گا۔ اور ان کا کاروبار زیادہ چلے گا۔ اور ان کی ہر رکاوٹ دور ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انى اسئلك يا لا اله الا انت  
سبحانك بحق لا اله الا انت ان ترحمنى بلا اله الا انت اللهم انى  
اسئلك يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان ترضى عنى بلا اله الا انت  
اللهم انى اسئلك يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان تغفر لى بلا  
اله الا انت

۱۵۷۵	۱۵۷۹	۱۵۸۲	۱۵۶۸
۱۵۸۱	۱۵۶۹	۱۵۷۳	۱۵۸۰
۱۵۷۰	۱۵۸۳	۱۵۷۷	۱۵۷۳
۱۵۷۸	۱۵۷۳	۱۵۷۲	۱۵۸۳

### ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

اگر یہ خواتین کسی بیماری میں مبتلا ہوں جو لا علاج بن چکا ہو تو یہ اس عمل سے شفاء ضرور حاصل کریں گی۔ اور ان کی ہر بیماری ختم ہوگی۔ اس مقصد کے حصول کیلئے ان آیات کو (۱۱۱) مرتبہ پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیئیں اور پھر اسی تعداد میں دریا کے پانی پر ان ہی آیات کو پڑھ کر

اس سے غسل کریں اور مرض کے مکمل خاتمے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے میں باندھیں۔ شفاء ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا فمن كان مريضا او به اذى من زاسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

گلے میں پہننے والا نقش

۲۵۶۱	۲۵۶۲	۲۵۶۸	۲۵۵۶
۲۵۶۷	۲۵۵۵	۲۵۶۰	۲۵۶۵
۲۵۵۶	۲۵۷۰	۲۵۶۲	۲۵۵۹
۲۵۶۳	۲۵۵۸	۲۵۵۷	۲۵۶۹

نظر بد سے مکمل نجات کیلئے

یہ خواتین بد نظری کے ہمیشہ خاتمے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے میں باندھیں۔

۴۰	۵۱	۵۲	۴۷
۴۶	۴۳	۴۲	۴۹
۴۱	۴۸	۴۷	۴۴
۵۳	۴۸	۴۹	۵۰

ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے کیلئے

یہ خواتین اپنے ہر مقصد کو حاصل کرنے کیلئے ان آیات کو اپنے مقصد کا مکمل تصور باندھ کر پڑھیں اللہ کے فضل سے ان کا ہر مقصد ضرور حل ہوگا۔ اور یہ اس نقش کو بھی اسی غرض سے لکھ

کراپی الٹی بازو میں باند ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا اله الا هو  
الرحمن الرحیم الحی القيوم بديع السموات والارض من جميع جرمی  
او ظلمی واسرافى على نفسى واتوب اليه  
گلے میں پہننے والا نقش

۲۰	۰	۱	۵
۶۵	۲۲	۲۲	۱۸
۶۱	۰	۶۶	۶۳
۰۲	۵۸	۵۹	۶۹

### اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

یہ اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل کرنے کیلئے اس درود شریف کو  
اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں کفیل ہوگا۔ اور اپنی رحمت  
برسائے گا۔ انشاء اللہ درود کا نام درود الہی ہے۔

### تبادلے کی منسوخی کیلئے

اگر یہ خواتین اپنے تبادلے کو منسوخ کروانا چاہتی ہوں۔ تو ایک عدد قفل پر اس کو اتنی  
تعداد میں پڑھیں جتنی تعداد اس فرد کے نام کی ہے۔ جو ان کا تبادلہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی حروف  
ایحد کی تعداد کے مطابق پھر اس قفل کو کھول کر اس میں پھونک مار کر اس کو بند کر کے آگ کی جگہ  
میں دفن کر دیں۔ ان کا تبادلہ منسوخ ہوگا۔ اور وہ فرد اپنی شرارتوں سے باز رہیگا۔

یا علیقا ملیقا خالقا مخلوقا علیقن ملیقن علیقا ملیقا وبحق  
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین۔

### دین پر استقامت کیلئے

یہ خواتین ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہنے کیلئے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں اور

درود شریف کو کثرت سے پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہیں گی۔

## شیطانی وسوسوں کے خاتمے کیلئے

یہ خواتین اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے پاک کرنے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو میں باندھیں۔ شیطان ان پر غالب نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ

۷۲	۸۲	۸۳	۶۹
۷۷	۷۵	۷۴	۸۰
۷۳	۷۹	۷۸	۷۶
۸۴	۷۰	۷۱	۸۱

## سوو ظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

یہ خواتین اپنے ہر مقصد کیلئے جدول میں تحریر اپنے نام کے مطابق اسم الہی کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں ان کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس عمل سے ایک تو ان کا اسم الہی سے متعلق ہر محضی پہلو سے شناخت ہوگی۔ اور یہ اس میں کمال درجہ پیدا کرنے کیلئے اسم الہی کو پرہیز جلالی و جمالی کرتے ہوئے پھر اس کا ورد کیا کریں یہ اسم الہی کی عامل بنیں گی اور اس کی تمام تر قوتوں سے روشناس ہوگی۔ اور ویسے یہ اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو یہ بھی ان کے کیلئے بہت فائدہ مند ہے۔

## عدد (6) کی دوست خواتین

### عدد (5) ستارہ عطار درج سنبلہ اور جوزا

آصفہ، آبلہ، اذین، ارفحہ، اشہ، اصغری، الہام، امہ، امثال، انور، بادرہ، بانو، بدریہ، برنجیس، بذیقہ، بوسویہ، بخت، پالیز، پری، تابدار، تسکینہ، تشمیر، تمنا، توقیر، جنان، جمال، چاندی، چکوری، حجاب، حنا، خاطرہ، حر سند، خصلیہ، خطیبہ، خطیرہ، در شوار، رانیہ، رفیعہ، روقہ، رومانہ، ربیعہ، زائین، زرقم، زرکار، زرش، زرگل، زفرہ، زلفہ، زونہ، ہزرتونہ، سارہ، سیمہ، سہدیہ، سلکی، سوسن، سوہنی، سیما، شادان، شادیہ، شاکلہ، شبنم، شرفاء، حکیلہ، شمع، شہادہ، صاعقہ، صائم، صعبہ، صفیہ، صمیمہ، صویہ، طافہ

طلاحت، عارفہ، عاصیہ، عاکفہ، عثوہ، عدوس، عدیہ، صفیرہ، عطارد، عطبوس، عنسہ، عزیزہ، یعنی، غاسقہ، غنچہ، فاجیہ، فارزہ، فاطن، قحہ، فقاہہ، فلذہ، فلزہ، فیرزہ، کریمہ، گل، گل گونہ، گلالہ، لائیکلیس، ماوراء ماگدہ، مسعودہ، مشتہ، مصادہ، معروفہ، ملکہ صنیفہ، نائفہ، ناحدہ، نائیرہ، ناکلہ، نسیب واجبہ، وشام، ووشیم، وقایہ، ہالہ، ہرشم۔

### عدد (8) ستارہ زحل برج جدی اور دلو

آفرین، آلفہ، آنسہ، احلام، ارسلا، اسیدہ، افزا، اکبری، البانہ، امرزیہ، اہل، اسمانی، امیر، انعام، بادامہ، باسلہ، بدر، بذلہ، بسکہ، لعراء، بہام، بہنام، پریرا، تاج، تزین، تشنہ، تمثیل، ثانیہ، ثراء، ثروت، ثمرین، جلوہ، جواہر، جویریہ، چندان، چندہ، حلیہ، خدرہ، حردہ، خضر، حمرہ، دیبا، ذاکرہ، ذریہ، رابعہ، راضیہ، ربیعہ، رخشال، رسیلہ، رمین، رضوی، رقیقہ، رکبانہ، رکیزہ، رباع، روزینہ، روشان، روانہ، روحی، زرناب، زریہ، زمر، زینت، سابلہ، سامیہ، سبدہ، مبرینا، سیلہ، سدرہ، سروری، سمرن، سنیہ، سودا، سیمین، شاد، شازیہ، شذوہ، شامہ، شامکہ، شمیمہ، صاعدہ، صالحہ، صائبہ، صبیہ، صدقہ، صفورا، صلحہ، صہبا، ضعی، طابہ، طارہ، طریہ، طفرہ، طیبہ، ظلیہ، ظلہ، غامدہ، عاصمہ، عاقلہ، عالیہ، عاکدہ، عبقرہ، عبلہ، عمیرہ، عسرت، عذرا، عرب، عروس، عظمیہ، عقوہ، عقیلہ، عکسہ، عاقرہ، غرہ، غزالہ، غضارہ، غصیرہ، غزہ، گلشنکار، گیتی، گیندہ، لطیفہ، لطفیہ، لی، لیلی، ماجدہ، ماویہ، مانسہ، مینہ، مجیدہ، مظاہرہ، معصومہ، منور، منیبہ، منیرہ، مونسہ، مہرخ، ناب، نادرہ، نازلی، نافعہ، نباۃ، نجاح، نجمہ، زردین، زہدہ، نظیر، نیر، وردہ، ونیہ، ہانیہ، ہویدا، یاسمہ، یوسلہ۔

### عدد (6) کی مخالف خواتین

#### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

آبدار، آکرہ، اجیہ، ارجمند، ارومی، افریشیم، امالی، امید، انورہ، باصرہ، بدکت، بدودہ، بصیرہ، بلبل، بہار، پارہ، پاستان، پریمال، تابعہ، تحریم، تماضر، تمکنت، تہذیب، توبیہ، جونہ، چاندنی، حاجیہ، حامیہ، حدیقہ، حسن، حنان، خالدہ، خدیجہ، خلود، خمیلہ، خیری، ربیطہ، رحیلہ، روفہ، رکان، رامازہ، ریسمان، زیادہ، زیدہ، زریز، زرنکار، زرین، زری، زہرہ، زیب، زینتوہ، ساجدہ، سالہ، سحرش، سیکنہ، سلامہ، سلیمہ، سہلہ، شائستہ، شبہ، شزا، شریفہ، شطبہ، شعیلہ، صابرہ، صائمہ، صیرہ، صمیم، ضمیرہ، ضعیفہ، طروب،

طریہ، طنازیہ، عابدہ، عاتکہ، عاجلہ، عامرہ، عامرہ، عبیدہ، عجیلہ، عدوسہ، عصفورہ، عفت، عمارہ، عمیرہ، عناسیہ، عدنان، غسانہ، قادیہ، قاطنہ، قتیہ، فدوی، فرزانه، فہیمہ، فہوضہ، قاریہ، قدہ، کاشفہ، لاجورد، لائقہ، لعد، لغات، لذیقہ، لیانا، مہ، محبت، منزلہ، مصطفون، مٹی، ہتھما، مہدیہ، نازیہ، ناصحہ، ناقہ، نداء، ندیدہ، ندیمہ، نزاکت، نسرین، نسیم، نطیقہ، نواز، نوارہ، نیلماں، نیلی، واجدہ، وارثہ، وارشہ، و شیرہ، وجدان، وصفہ، ولیدہ، ہما، ہندہ، یسری، یمن۔

### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آرا، آسیہ، اختر، ادیبہ، اریدہ، ارزش، افشا، املہ، امیرہ، انجم، ایاس، انیقہ، بازہ، بلطنہ، بدرہ، برشکال، بشرہ، بقیس، بکان، بہیہ، پریرا، تاباں، تبیان، تجیہ، تصویر، نکریم، شیبہ، جبیرہ، حمان، چاند، حاذقہ، حارسہ، حافظہ، حامدہ، حباب، حریر، حسبیہ، حفیظہ، حمیدہ، حوریہ، خاشعہ، خضیرہ، دل افروز، ذبال، رامین، رسیم، رمانی، ریا، ریخانہ، زابدہ، زریاب، زلیخہ، زہیدہ، زین، ساجدہ، ساحرہ، سارم، سفیرہ، سینہ، سویدہ، سمیر، شادون، شاکرہ، شہوب، شرارہ، شریکہ، شکیبہ، شگفتہ، شموہ، صینہ، صحبہ، صفری، صقرا، صلوت، صولت، صنایع، ضوفشان، طاہرہ، طابنہ، طاسیہ، طاہرہ، طغراء، طاز، طہیرہ، طبیب، طیفورہ، ظہارہ، ظاہرہ، ظہیرہ، عازرہ، عابدہ، عدینہ، عروبہ، عطیہ، غمبیس، عجزہ، عندلیب، عمادہ، عین، غراتہ، غمیرہ، قارحہ، قانقہ، فخریہ، فرحت، فرزہ، فریکہ، فیصہ، فلک، قادرہ، قدیرہ، کشور، گلنار، گلشن، ماریہ، مجاہدہ، محبتہ، محمودہ، مدیحہ، مسلمہ، مشرفہ، منشیطہ، مشینہ، مفرہ، مکارم، منال، منورہ، منیزہ، میسون، تابہ، ناظرہ، ناعمہ، نائلہ، نبیہ، نیبہ، نجاۃ، نژادہ، نصیبہ، نصیرہ، نقرہ، نکلیں، نور، نیرہ، نیلم، وزیلہ، وسامہ، وسیمہ، وشم، و زیرہ، ہاجرہ۔

### عدد (2) ستارہ قمر برج سرطان

آسیہ، اریبہ، ازہار، ازل، افروزہ، امروز، انوشہ، ایمن، بارقہ، بتولہ، برکات، برکہ، بنت، بینظیر، پشیدہ، تاورہ، تسنیم، ثمر، ثناء، شینہ، شین، جبین، جلاب، جریمہ، حنی، حمیرہ، خوبال، خولہ، خیلا، درخندہ، دلآرا، زابیہ، رادفہ، راعتہ، رافتہ، رانفہ، راقبہ، رحیمہ، رضا، رفا، رفر، رفیدہ، رقلہ، رومی، زبانہ، زرقا، زینہ، زعفرہ، زنیرہ، زریا، ہنرہ، سل، سدیمہ، مراب، سریرہ، سلطانہ، سامہ، سمیتہ، سمیدہ، سہلہ، سہیلہ، شاداب، شاطبہ، شاہینہ، شہو، شیبہ، شریطہ، شقرہ، شقیقہ، شرانہ، صادقہ، صادیہ، صباح، صدیقہ، صفراء، صوفیہ، ضامرہ، ضطاع، عالمہ، عدلیہ، عرز، عرینہ، عطفہ، عقیقہ، طہیرہ،





## عدد (8) سے تعلق رکھنے والی خواتین

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		آ		
القدوس	341	مبارک	AAFREEN	آفرین
الجبار	116	الفت والی	AALIFA	آلفہ
الغفور	116	باکرہ	AANISA	آنسہ
		ا		
الحفیظ	80	تصور	AHLAM	اطلام
الحسیب	296	روانہ کرتا	ARSILA	ارسلہ
القوی	80	دلربا	USIDA	اسیدہ
الحمید	89	اضافہ کنندہ	AFZA	افزا
الصدیق	233	عقلمند	AKBARI	اکبری
القادر	89	رنگدار	ALBANA	البانہ
الطاہر	269	جدید	AMROZIA	امروزیہ
الباطن	71	آرزو	AMAL	امل
المانع	107	شاداں	AMHANI	امہانی
القدوس	251	سرزادنی	AMIR	امیر
الجبار	162	نعمت	INAM	انعام
		ب		
الغفور	53	ریٹھی کپڑا	BADAMA	بادامہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحفیظ	98	بہادر	BASILA	باسلہ
الحسیب	206	پوراچاند	BADAR	بدر
القوی	737	عنات	BAZLA	بزلہ
الحمید	107	مسکراہٹ	BISMA	بسمرہ
الصمد	503	مکھڑا	BUSHRA	بھرا
القادر	8	انمول	BAHA	بہاء
الطاہر	98	اچھے نام والی	BEHNAM	بہنام
		پ		
الباطن	224	شہزادی	PARIZAD	پری زاد
		ت		
المانع	404	حکمرانی	TAAI	تاج
القدوس	467	زیبائش	TAZEEN	تازین
الجبار	755	آرزومند	TASHNA	تشنہ
الغفور	980	مثالی دنیا	TAMSEEL	تمثیل
		ث		
الحفیظ	908	مکمل	SABITA	ثابتہ
الحسیب	701	دولت	SARA	ثرا
القوی	1106	مال و زر	SARWAT	ثروت
الحمید	800	پھلدار	SAMREEN	ثمرین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		ج		
طلوہ	JALWA	منظر	44	الصمد
جواہر	JAWAHAR	زمرہ	215	القادر
جویرہ	JAVEERA	گلدستہ	224	الطاہر
		چ		
چندن	CHANDAN	صندل	107	الباطن
چندہ	CHANDA	چاند جیسی	62	المانع
		ح		
حلیہ	HILYA	زیور	53	القدوس
		خ		
خدرہ	KHIDRA	پریشاب	809	الجبار
خوردہ	KHIRDA	ذہن	809	الغفور
خضرا	KHAZRA	سبز	1601	الحفیظ
خمرہ	KHAMRA	پردہ دار	845	الحسیب
		د		
دیبا	DIBA	حسین عورت	17	القوی
		ذ		
ذاکرہ	ZAKIRA	وقادار	926	الحمید
ذریعہ	ZAREERA	خوشبو	1115	الصمد

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		ر		
ربیعہ	RABIA	پارسا	278	القادر
راضیہ	RAZIA	خوش	1016	الطاہر
ربیعہ	RABEEA	گلستان	287	الباطن
رخشاں	RAKHSAN	منور	1151	المانع
رسیلہ	RASILA	رحمت	305	القدوس
رہمن	RAMIN	مہربان	350	الجبار
رضوی	RIZWA	امتیازی نشان	1007	الغفور
رفیقہ	RAFIQA	دوست	395	الحفیظ
رکبانہ	RAKBANA	شہ سوار	278	الحسیب
رکیزہ	RAKIZA	خزانہ	242	القوی
رہاء	RANA	بازوق	251	الحمید
روزینہ	ROZEENA	عوضانہ	278	الصمد
روشمان	ROSHAN	چمکیلی	557	القادر
رمانہ	RUMANA	دلکش	296	الطاہر
روحی	ROHI	پہاری	224	الباطن
		ز		
زرتاب	ZARNAB	خالص سونا	260	المانع
زریرہ	ZAREERA	تیز فہم	422	القدوس

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الجبار	251	موتی	ZAMURRAD	زمرہ
الغفور	467	خوبصورت	ZEENAT	زینت
<b>س</b>				
الحفیظ	98	رسم	SABLA	سابلہ
الحسیب	116	بلند مرتبہ	SAMIYA	سامیہ
القوی	71	خوشبوؤں والی	SABDA	سیدہ
الحمید	323	ملکہ	SABRENA	سبرینا
الصمد	107	روشن راستہ	SABILA	سابلہ
القادر	269	بیری کادرخت	SIDRA	سدرہ
الطاہر	476	سرمداری	SARWARI	سروری
الباطن	350	یاد خدا	SIMRAN	سمرن
المانع	125	بلند	SANYA	سینہ
القدوس	71	سرمداری	SOODA	سودا
الجبار	161	وجیہ	SIMAN	سیمال
الغفور	170	گوری	SIMEEN	سیمین
<b>ش</b>				
الحفیظ	305	خوش	SHAD	شاد
الحسیب	1016	بے مثال	SHAZIA	شازیہ
القوی	1205	منفرد	SHAZRA	شذرہ

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الحمید	386	خوشبودار	SHAMAMA	شامہ
الصمد	386	معطر	SHMAIMA	شامائہ
القادر	395	خوشبو	SHAMEEMA	شمیہ
<b>ص</b>				
الطاہر	170	ترقی پسند	SAIDA	صاعده
الباطن	134	پاکیزہ	SALIHA	صالحہ
المانع	98	درست	SAIBA	صابئہ
القدوس	107	خوبصورت	SABIYA	صبیہ
الجبار	179	باہیا	SADFA	صدفہ
الغفور	377	پارسا	SAFOORA	صفورا
الحفیظ	143	نیک سیرت	SALEEHA	صلیہ
الحسیب	98	احمریں مشروب	SAHBA	صبا
<b>ض</b>				
القوی	809	نصف النہار	ZUHA	ضحیٰ
<b>ط</b>				
الحمید	17	معطر	TABA	طاہہ
الصمد	215	نازال	TAIRA	طارہ
القادر	224	شاندار	TURYA	طریہ
الطاہر	1214	اچھانا	TUGHRA	طغرہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباطن	26	مہک	TYEBA	طیبہ
		ظ		
المانع	917	چاودز مزم	ZABYA	ظیبہ
القدوس	935	چھتری	ZULLA	ظلا
		ع		
الجبار	278	راستہ چلنے والی	ABIRA	عابرہ
الغفور	206	محافظہ	ASIM	عاصمہ
الحفیظ	206	عقلمند	AQILA	عاقلا
الحسیب	116	اعلیٰ درجہ	ALIYA	عالیہ
القوی	80	باضابطہ	AIEDA	عائدہ
الحمید	377	حسین و جمیل	ABQARA	عجقترہ
الصمد	107	خوبصورت	ABLA	عبلہ
القادر	287	نفاست پسند	ABEERA	عبیرہ
الطاهر	1070	عزیز	ITRAT	عترت
الباطن	971	پاکیزہ	AZRA	عذرا
المانع	278	بہادر	AROOB	عروب
القدوس	341	حسین و جمیل	AROOSA	عروسہ
الجبار	1025	یواہر والی	AZEEMA	عظیمیہ
الغفور	161	بااخلاق	AFWA	عفوہ



نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
عقیلہ	AQEELA	عقلمند	215	الحفیظ
عکسہ	AKSHA	نرم و نازک	395	الحسیب
<b>خ</b>				
غانفرہ	GHAFFIRA	رحم دل	1286	القوی
غمرہ	GHARRA	غرور	1205	الحمید
غزالہ	GHAZALA	خوبصورت	1043	الصمد
غضارہ	GHAZARA	خوش حال	2006	القادر
غضیرہ	GHAZEERA	نرم و نازک	1015	الطاہر
غزہ	GHAMZA	ناز و ادا	1052	الباطن
<b>ف</b>				
فارقہ	FARIQA	ممتاز	386	المانع
فاریہ	FARIYA	خوبصورت	296	القدوس
فاغرہ	FAGHIRA	نیلو فر	1286	الجبار
فردوس	FARDOS	اعلیٰ جنت	350	الغفور
فرز	FARZ	بورگ	287	الحفیظ
<b>ق</b>				
قاسمہ	QASIMA	تقسیم کرنے والی	206	الحسیب
قدسیہ	QUDSIYA	پاکیزہ	179	القوی
قرہ	QURAH	روشنی	305	الحمید

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الصمد	341	چاندنی	QAMRA	قمر
القادر	161	قائم	QAWEMA	قویہ
الطاہر	161	مستحکم	QAYOMA	قیومہ
<b>ک</b>				
الباطن	116	اوصاف والی	KAMINA	کامنہ
<b>گ</b>				
المانع	53	پھول	GULAB	گلاب
القدوس	602	حسن و جمال	GULSHANARA	گلشن آرا
الجبار	440	کائنات	GEETI	گیتی
<b>ل</b>				
الغفور	98	بے مثال	LAIINA	لحینہ
الحفیظ	134	مہربانی	LUTFIA	لطیفہ
الحسیب	80	گندمی	LAMI	لمی
القوی	71	باوفا	LAILA	لیلی
<b>م</b>				
الحمید	53	واجب تقدس	MAIIDA	ماجده
الصمد	62	حسین و جمیل	MAWIYA	ماویہ
القادر	116	مہمور کن	MAIESA	مائیسہ
الطاہر	107	واضح	MUBEENA	مبینہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباطن	62	برگزیدہ	MAJEEDA	مجیدہ
المانع	260	پاک دامن	MUTAHRA	مطاہرہ
القدوس	251	باعصمت	MASOOMA	معصومہ
الجبار	296	چمکدار	MUNAWAR	منور
الغفور	305	چمکدار	MUNEERA	منیرہ
الحفیظ	161	گرام دینے والی	MOONSA	مونسہ
الحسیب	845	خوش شکل	MAH RUKH	مدرخ
<b>ن</b>				
القوی	53	پاک و صاف	NAB	ناب
الحمید	260	بے مثال	NADIRA	نادرہ
الصمد	98	نزاکت والی	NAZLI	نازلی
القادر	206	فائدہ مند	NAFIA	نافعہ
الطاہر	458	سر سبز و شاداب	NABATAH	نباتہ
الباطن	62	کامیابی	NAJAH	نجاح
المانع	98	ستارے جیسی	NAJMA	نجمہ
القدوس	314	سنبیل	NARDIN	نردین
الجبار	62	پاکیزگی	NUZHA	نزہہ
الحسیب	1160	دہم سر	NAZIR	نظیر
القوی	260	روشن	NAYYAR	نیر

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		و		
وردہ	WIRDA	پھولوں جیسی	215	الحمید
ونیہ	WANYA	موتی	71	الصمد
		ہ		
ہانیہ	HANIA	خوش	71	القادر
ہویدا	HUWAIDA	ظاہرا	26	الطاہر
		ی		
یاسمہ	YASIMA	پھول	116	الباطن
یرسلہ	YARSILA	اتاری ہوئی	305	المانع

## ان خواتین کا روحانی فال نامہ

ان خواتین کے بہت سے دشمن ہیں جو گاہے بگاہے ان کا نقصان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور ان کو تمام قسم کی جسمانی اور روحانی تکالیف میں اضافے کا سبب بھی یہی ہیں۔ اور ان کے شوہر کا کاروبار اکثر ان حرکات سے متاثر رہتا ہے۔ اور گھریلو پریشانیوں میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ان خواتین کو اپنے شوہر سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے گھر میں اپنے بچن اور بھائیوں سے ان کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ بھی النان کے خلاف رہتے ہیں۔ اس لئے اپنے دشمنوں کے ہر وار سے بچنے کیلئے اپنے گھر میں سوا لاکھ کی تعداد میں سورۃ یس شریف کا ختم دلوائیں اور اس ختم کے بعد ان آیات کو زعفران سے لکھ کر اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر لگائیں اور انہی آیات کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں بھی پہنیں اللہ کے فضل سے ان کے راستے میں ہر رکاوٹ کا خاتمہ ہوگا۔ اور وہی کچھ ملے گا جو ان کے نصیب میں ہے

بسم الله الرحمن الرحيم يا نور تحت النور يا نور السموات والارض يا مغيث يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا طهطم طنونا اذوني اصادث اكرسدى يا اله العالمين

۱۹۸۱ ۱۱۸۱

حنان یا منان یا برہمان یا سلطان یا غفران یا غیاث المستغثین اھیا

شراھیا وبراہیا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

۱۱۸۸۱۱۱۱۲۳۳۱۱۱۱

## ان خواتین کا خاکہ

یہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اور اپنی زندگی کے بحرانی طوفانوں سے کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی روایات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ خاموش پر سکون اور مطمئن زندگی گزارنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک طرف اگر یہ سیدھی سادھی عورت ہیں تو دوسری طرف

یہ انقلابی خاتون ہیں۔ انہیں بے چینی اور اضطراب فطرت میں ملنا ہے۔ یہ گھریلو خاتون بھی ہیں۔ اور انقلاب بھی لاسکتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ انتہا پسند بن جاتی ہیں۔ اگر یہ کسی مشن پر اپنی کمر باندھ لیں تو تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گی جب تک اس پورا نہ کر لیں۔ اگر دوسرے افراد نے ان کے ساتھ اچھا اور بہتر وقت گزارنا ہو تو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یعنی یہ جو چاہیں ان کو کرنے دیا جائے انہیں کسی بھی کام سے نہ روکا جائے اور نہ ٹوکے جائے اگر ایسے فرد ان کی زندگی میں موجود ہوں تو ان کی زندگی ان سے خوب اچھی گزرے گی۔ لیکن اگر یہ کسی دوسرے کو اپنی تنہائی کا احساس دلوائیں تو پھر ان کی مرضی کے مطابق ان کو سمجھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان کی صلاحیتیں صفات اور خوبیاں ابھر کر سامنے آسکتی ہیں۔ اور ان سے مفاد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان کی فطرت میں بے چینی اور تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ یہ گھڑی میں تو لہ اور گھڑی میں ماشہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ کسی سے بھی ایک روز اچھے طریقے سے پیش آئیگی تو دوسرے روز ان سے خشک سلوک کرنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ کسی وقت حاضر دماغ ہوتی ہیں۔ اور کسی وقت غیر حاضر دماغ ہوتی ہیں۔ جب یہ خوشگوار موڈ میں ہوتی ہیں۔ تو کسی سکار کی طرح ذہانت آمیز باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ غرض کہ یہ دوسری خواتین سے کافی مختلف قسم کے خیالات رکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ لکیر کی فقیر کبھی نہیں بہتیں بلکہ کسی بھی بات کا فیصلہ کرنے کیلئے اپنے ذہن سے زیادہ کام لیتی ہیں اور اپنے من میں جو آتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لباس پہننے کے معاملے میں یہ جدت پسند اور وسیع الخیال ہوتی ہیں۔ ڈیمیلے ڈھالے لباس پہننا انہیں پسند ہے۔ اور اس قسم کے لباس پہن کر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ سادے لباس سے زیادہ ان کو بہت شوق اور چیخل قسم کے لباس پہننے کا شوق ہوتا ہے۔ اور یہ اس شوق کو ضرور پورا کرتی ہیں۔

### اچھے رشتے کے حصول کیلئے

اگر ان خواتین میں سے اگر کسی کا رشتہ کسی اچھی جگہ نہ ہوتا ہو یا رشتہ ملتانہ ہو تو یہ خواتین اپنے اس مقصد کے حل کیلئے سورۃ انعام کو روزانہ رات کو اکیس دنوں تک عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور اس نقش کو سبز کپڑے پر سرخ دھاگے سے لکھ کر اپنے پاس رکھیں اللہ کے حکم سے ان کا رشتہ اچھی جگہ طے ہو جائیگا۔

۱۳	۲۳	۲۵	۱۰
۱۹	۱۶	۱۵	۲۲
۱۳	۲۱	۲۰	۱۷
۲۶	۱۱	۱۲	۲۳

### روزگار کو بڑھانے کیلئے

یہ خواتین اپنے یا اپنے شوہر کے روزگار کو بڑھانے کیلئے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ مزمل شریف کو چالیس مرتبہ پڑھیں اور اس نقش کو زعفران سے لکھ اپنے کاروباری مقام پر لگائیں اللہ رحمت کرے گا۔

۲۳	۲۳	۲۳	۳۰
۲۸	۲۶	۳۵	۳۱
۲۳	۳۰	۳۹	۳۷
۳۵	۳۱	۳۲	۳۲

### ہر مرض سے شفاء حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین پر کسی نے سفلی جادو کرو لیا ہو اور ان پر کوئی دوائی بھی اثر نہ کر رہی ہو تو یہ اس نقش کو زعفران سے اتوار والے دن سورج طلوع ہونے کے وقت لکھیں اور اس کو حقے کے پانی میں ڈال کر اس سے غسل کریں اور اس بیماری سے ہمیشہ کیلئے محفوظ رہنے کیلئے اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو میں ہمیشہ کیلئے باندھ دیں اللہ کے حکم سے ان پر کیا ہوا ہر علم باطل ہوگا۔

۷۸۰۵	۷۸۰۸	۷۸۱۲	۷۷۹۸
۷۸۱۱	۷۷۹۹	۷۸۰۳	۷۸۰۹
۷۸۰۰	۷۸۱۳	۷۸۰۶	۷۸۰۳
۷۸۰۷	۷۸۰۲	۷۸۰۱	۷۸۱۳

## نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے

یہ خواتین بد نظری کے ہمیشہ خاتے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنی الٹی بازو پر باندھیں اللہ کے فضل سے ان پر کسی بھی بد نظر کا اثر نہیں ہوگا۔

۶۳	۷۳	۷۳	۶۰
۶۸	۶۶	۶۵	۷۱
۶۳	۷۰	۶۹	۶۷
۷۵	۶۱	۶۲	۷۲

## ہر طرح کی فتح حاصل کرنے کیلئے

یہ خواتین دنیاوی کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کیلئے اس نقش کو روزانہ کسی بھی وقت ایکس عدد تعداد میں زعفران سے لکھیں اور روزانہ نقوش کو چلتے پانی کے کنارے دفن کیا کریں اور آخری روزانہ ایکس نقوش میں سے بیس نقوش کو دفن کریں اور اس میں سے ایک نقش کو اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو پر باندھیں یہ اللہ کے فضل سے دنیا کے ہر کام میں اول رہیں گی۔ اور ان کو شکست کبھی نہیں ہوگی۔

۲۵۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۳۷
۲۵۶	۲۵۳	۲۵۲	۲۵۹
۲۵۱	۲۵۸	۲۵۷	۲۵۳
۲۶۳	۲۴۸	۲۴۹	۲۶۰

## اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

یہ خواتین اپنے ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کیلئے اس درود شریف کو بجزرت ورد کیا کریں اللہ کے فضل سے اللہ ان کی ہر جائز حاجت پوری فرمادے گا۔ لیکن اپنے ہر کام میں اپنا تصور کامل رکھا کریں اللہ اپنی رحمت سے اس کام کو پورا کرے گا۔ انشاء اللہ

اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد



## قوت ذہن کے حصول کیلئے

اگر ان خواتین کا کام تیزی ذہن سے متعلق ہو لیکن ان کا ذہن تیز نہ ہو اور ان کا اس مسئلہ سے درپیش نقصان ہو رہا ہو تو یہ اس نقش کو روزانہ گیارہ دنوں تک چینی کی پلیٹ پر لکھ کر گلاب کے عرق سے مٹا کر پی لیا کریں اور نقش کو زعفران سے لکھیں اللہ کے حکم سے ان کا ذہن بہت تیز چلے گا۔

۲	۱	۵	۶
۵	۶	۲	۱
۶	۵	۱	۲
۱	۲	۶	۵

## تبادلے کی منسوخی کیلئے

اگر ان خواتین کا کوئی تبادلہ کر دانا چاہتا ہو لیکن یہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا چاہتی ہوں تو اس فرد کی پاؤں کی مٹی لا کر اس پر ستر مرتبہ سورۃ فیل کو پڑھیں اور اس مٹی کو آگ جلنے والی جگہ پڑھ کر کریں اور اس شخص کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے اس نقش کو اس فرد کا نام لکھ کر اپنے بازو پر

۲۷	۳۸	۳۰	۲۳
۳۳	۳۱	۲۹	۳۶
۲۸	۳۵	۳۲	۳۲
۳۱	۲۵	۲۹	۳۷

باند ہیں تبادلہ منسوخ ہو گا۔

## نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کو نفسانی خواہشات بہت تنگ کرتی ہوں اور یہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہو تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر (۱۰۲) کو روزانہ اپنے اس مقصد کی خاطر پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں ان کی نفسانی خواہشات ختم ہو گی اور ان کا دل کسی بھی خواہش کو نہیں چاہے گا جو ناجائز ہو گی۔

## حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کسی کو نبی کریم ﷺ کی زیارت کا عشق ہو تو یہ روزانہ رات کو نماز عشاء کے بعد پاک و صاف جگہ پر مصلے پر بیٹھ کر سورۃ مزل شریف (۲۱) مرتبہ حضور نبی کریم ﷺ کا مکمل تصور باندھ کر پڑھیں اور ان تمام باتوں سے محفوظ رہیں جو سرکار نے منع فرمائی ہیں اور ان کاموں کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں جن پر آپ ﷺ کو خوشی ہوتی ہے اور جن کاموں کے کرنے کا سرکار نے حکم فرمایا ہے۔ اس عمل کو حیض و نفاس والے دنوں سے پاک ہو کر کریں عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت نہ ہو جائے اگر نیت سچی ہوگی تو پہلے ہی دن زیارت ہوگی۔

## عذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین نے عذاب قبر سے نجات حاصل کرنی ہو تو نماز روزہ کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں اور تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھیں اللہ کے فضل سے عذاب قبر سے نجات ہوگی۔

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

## سو وظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

یہ خواتین اس وظیفے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز حاجت پوری فرمادیا کرے گا۔ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو یا کثرت سے پڑھیں ویسے خاص الخاص وظیفے کے طور پر جدول میں اسم الہی ان کے مزاج اور نام سے مناسبت رکھنے والے ہی درج کئے ہیں اگر یہ اپنے نام سے مناسبت رکھنے والے اسم الہی کو اپنا درود اور وظیفہ بنا لیں تو بھی یہ ان کی ہر جائز حاجت کیلئے بہت ہے۔ اور اگر اسی وظیفے کو کرنا ہو تو (ذالجلال والاكرام) کو اپنے خاص وظیفے کے طور پر پڑھیں۔

## چلہ کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کی خواہش چلہ کرنے کی ہو تو یہ حیض و نفاس والے دنوں سے پاک ہو کر

اپنے گھر میں کسی پاک اور صاف جگہ کا انتخاب کریں اور جدول میں درج اپنے نام کے مطابق اسم الہی کو سو لاکھ کی تعداد میں پڑھیں اس اسم کا موکل ان سے رابطہ کرے گا۔ اور ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے گا۔ لیکن یہ ناجائز طور پر موکل سے اپنے اس رابطہ کا غلط استعمال نہ کریں ورنہ ان کا نقصان ہوگا۔ اچھے کام کریں اور اپنی دوسری خواتین بھنون کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔

### دل و دماغ کو نیک راستے پر مائل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کا ذہن اچھائی کی جائے برائی کرنے پر زیادہ آمادہ ہوتا ہو اور یہ اپنی اس عادت کو ترک کر کے اپنے ذہن کو اچھے کاموں کی طرف لگانا چاہتی ہوں۔ تو پہلے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اسکو اپنے الٹے بازو میں باندھیں اور پھر پہلے گلے کو اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ورد کیا کریں انکا ذہن اچھے کاموں کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ اور ان پر کسی شیطانی دوسوسوں کا زور نہیں چلے گا۔

۴۴۴۱	۴۴۴۳	۴۴۴۷	۴۴۴۳
۴۴۴۶	۴۴۴۴	۴۴۴۰	۴۴۴۵
۴۴۳۵	۴۴۳۹	۴۴۳۲	۴۴۳۹
۴۴۳۳	۴۴۳۸	۴۴۳۶	۴۴۳۸

### عدد (8) کی دوست خواتین

#### عدد (5) ستارہ عطارد برج جدی اور دلو

آصفہ، ابلہ، اذین، ارفقہ، اشہ، اصغری، الہام، امشہ، امثال، انور، بادرہ، بانو، بدریہ، برجمیں، بنیقہ، بو صیہ، بخت، پالیز، پری، تابدار، تسکینہ، تسمیر، تمنا، توقیر، جنان، جمال، چاندی، چکوری، حجاب، حنا، حاطبہ، حربند، خضیلہ، خطیبہ، خطیرہ، در شہوار، رائیہ، رفیعہ، روقہ، رومانہ، رنیکہ، زائین، زرقم، زرکار، زرخش، زرخل، زفرہ، زلوانہ، زونہ، زیتونہ، سارہ، سیمہ، سعیدیہ، سللی، سوسن، سوہتی، سیما، شادواں، شادیہ، شاکلہ، شبنم، شرفا، شکیلہ، شمع، شہانہ، صاعقہ، صائم، صعبہ، صفیہ، صمیمہ، صویہ، طافہ، طلعت،

مارفہ، عاصیہ، علقہ، عشوہ، عدوس، غدیرہ، صفیرہ، عطارد، عطیوس، علسہ، غمزارہ، یحییٰ، عاسقہ،  
غچیہ، فائقہ، فارزہ، فاطن، فخرہ، نقاحہ، فلذہ، فلزہ، فیرزہ، کریمہ، گل، گل گونہ، گلالہ، لانیہ، لیس، ماورا،  
ماندہ، مسعودہ، مشتری، مصادہ، معروفہ، ملکہ، منیفہ، نابغہ، ناصحہ، نائیرہ، نسیب، واجبہ، وشم،  
وشیم، وقایہ، ہالہ، ہرشم۔

### عدد (6) ستارہ زہرہ برج ثور اور میزان

آمنہ، اوا، ارونا، ازلقہ، افروز، البالہ، الماس، امامہ، امنہ، امینہ، انوار، انوش، بادریہ، بقول، بسم اللہ،  
بیرہ، پریا، تحسین، ترنم، تشبہ، تمینہ، ثامن، ثمین، جاشیہ، جلیلیہ، حاضرہ، خبیہ، حریم، حسہ، حوا،  
نختہ، خزینہ، خصمہ، خلود، خیرینہ، دل آرام، دلشاد، ذکیہ، ذہیب، ذینب، راحت، راحیل، راشدہ،  
راویہ، رجاہ، رزان، رشاد، رشادہ، رشیدہ، رعوبہ، رعنا، ریشہ، ریمیلہ، روہینہ، زارہ، زائرہ، زبیدہ، زراخرہ،  
زربینہ، زریں، زعمہ، زکیہ، زہراء، زینب، ساریہ، سینا، سلنا، سلیمانہ، سلیمان، سکنہ، سنیعہ،  
سیمائی، شاب، شافعہ، شہدہ، شاہین، شرہ، شحاذہ، شفیقہ، شمیرہ، صباح، صراحت، صبح، صنوبر،  
صمیمہ، صوفاء، صیادہ، ضاحبہ، ضامرہ، ضفور، ضفیرہ، طافیہ، طرازہ، طرفہ، طروبہ، عاظرہ، عائشہ،  
عارفہ، عمرد، عمید، عصمت، عظمت، عفاف، عمرانہ، عوانہ، غازیہ، غمامہ، فارو، فائقہ، فائقہ، فخرہ،  
فرازیہ، فریال، فریحہ، فضیلت، فلاح، کاملہ، کشود، کلیمہ، کینز، کوش، گلزار، گوہر، بلینہ، مجیدہ، مرجان،  
مشیرہ، مصباح، مضنونہ، مومنہ، مہما، میادہ، ناجیہ، نازنین، ناشیہ، ناظمہ، نبیلہ، نجوی، نجبہ، زگس،  
نغمہ، نوال، وحیہ، وحیدہ، وفا، ولید، ہانم، ہدیہ، ہریرہ، یاسرہ، یمنہ۔

### عدد (8) کی مخالف خواتین

#### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

ابدار، اکبرہ، اجیہ، ارجمند، اروئی، افریشم، امالی، امید، انورہ، باصرہ، برکت، برودہ، بصیرہ، بلبل، بہار، پارہ،  
پاستان، پریحال، تابہ، تحزیم، تماضر، تمکنت، تمذیب، ثویبہ، جوندہ، چاندنی، حاجیہ، حامیہ، حدیقہ،  
حسن، حنان، خالدہ، خلود، خلیلہ، خیری، ربینظہ، رحیلہ، روفو، رکان، رامزہ، ربسمان، زیادہ، زبیدہ،  
زورین، زرنکار، زرمین، زری، زہرہ، زیب، زیتونہ، ساجدہ، سالمہ، سحرش، سیکینہ، سلامہ، سلیمہ، سہلہ،

شائسته، شبه، شخرا، شریفه، شطبه، شعیل، صاده، صامکه، صمیره، صمیم، ضمیره، ضعیفمه، طروب، طریره، طنازیه، عابدیه، عاتکه، عاجله، عامره، عامره، عبیده، عجله، عدوسه، عصفوریه، غفت، غماره، عمیره، عنایه، عدان، غیسانه، فادیه، فاطمه، فقیه، فدوی، فرزانه، فیمید، فیوضه، قاریه، قدمه، کاشفه، لاجورد، لائقه، لبعه، لغات، لذیقه، لیامه، متینه، محنت، منزل، مضبئون، منلی، هتما، مندیه، نازیه، ناصحه، ناقصه، نداء، ندیده، ندیمه، نزاکت، نسیم، نظیفه، نواز، نواره، نیلماں، نیلی، واجده، وارثه، واشده، و شیر، وجدان، وصفه، ولیده، هماغه، مندیه، لیرئی، یمن۔

### عدد (4) ستاره شمس برج اسد

آراء، آسبه، اختر، ادبیه، اریده، ارزش، افشاء، المله، امیره، انجم، ایاس، انیقہ، بازه، باطنه، بدره، برشکال، بشیره، بقیس، بتان، بیهیه، پری زاء، تابان۔ تیان، تجیه، تصویر، تکرم، ثبیه، جبیره، حمان، چاند، حازقه، حازیه، حافظه، حامده، حباب، حریر، حسیه، حفیظہ، حمیدہ، حوریه، خاشعہ، خفیرہ، دل افروز، ذبال، رامین، رسیم، رمانی، ریا، ریحانه، زاهدہ، زریاب، زلیخہ، زهیدہ، زین، ساجده، ساحره، سائریم، سفیرہ، سینہ، سویده، سمیر، شادان، شاکره، شوب، شراره، شریکه، شکلیه، شگفته، شموده، صید، صعبه، صغری، صقرا، صلوت، صولت، صننیع، ضوقشال، طاہرہ، طابنه، طاسیہ، طغرا، طنناز، ظمیرہ، طیب، طلیفورہ، ظہارہ، ظاہرہ، ظہیرہ، عاززہ، عابدہ، عدینہ، عروبه، عطیہ، عنبریں، عجزہ، عندلیب، عبادہ، عین، غراتہ، غمیرہ، قارحہ، فائقہ، فخریہ، فرحت، فرزه، فریحہ، فصیحی، فلک، قادرہ، قدیرہ، کشور، گلنار، گلشن، ہاریہ، مجاہدہ، محضہ، محمودہ، بدیحہ، مسلمہ، مشرفہ، منشیطہ، مشیہ، مقیرہ، مکارم، منال، منورہ، منیرہ، میسون، نابہ، ناظرہ، ناعمہ، ناقلہ، نبیہ، نیشہ، نجاہ، نژادہ، نصیبہ، نصیرہ، نقرہ، نگین، نور، نیرہ، نیلم، وزیلہ، وسامہ، وسیمہ، وشم، و نیرہ، ہائزہ۔

### عدد (2) ستاره قمر برج سرطان

آتیہ، اریبہ، ازدہار، ازل، افروزہ، امروز، انوشہ، ایمن، بارتق، بقولہ، برکات، برکہ، بننت، بینظیر، پشینہ، پادورہ، تنسیم، شمر، شاء، شینہ، شین، جبین، جلاب، حریمہ، حسی، حمیرہ، خوبان۔ خول، خیلا، درخشندہ، دل آرا، رایہ، رادف، رافتہ، رائدہ، رابقہ، رحیمہ، رضا، رفا، رفرف، رفیدہ، رقلہ، روتلی، زبانہ، زرقا، زریتہ، زعفرہ، زنیرہ، زبیا، بزہ، سبل، سمدیمہ، سراب، سریرہ، سلطانہ، سامہ، سینہ، سمیدہ، سلیہ، سیلہ، شاداب، شاطبہ، شاپینہ، شبو، شبیہ، شریطہ، شقرہ، شقیقہ، شمرانہ، صادقہ، صادیہ، صباح،

صدیقہ، صفراء، صوفیہ، ضامرہ، ضرباء، عاملہ، عدیلہ، عرزوم، عربینہ، عطفہ، عقیقہ، عظیمہ، عمدہ، عوسا،  
عادہ، عاشیہ، عالیہ، غزل، فرحانہ، فریدہ، فتوا، قاصدہ، قاتمہ، کابڑہ، کثوم، لیلیٰ، ناہنہ، نجدومہ،  
مدرا، مرام، مروارید، مرہ، مریم، مرثوہ، مصاحبہ، مصوٰنہ، معظّمہ، مقدّمہ، مقصودہ، مچھلی، مچھ، مینا،  
ناجیہ، نبال، ندوہ، نیلہ، نساء، نسلی، جمیدہ، ویشیلہ، وفیہ، وہساجہ، بیجہ، ہنہ، سماء، بھین۔

### عدد (7) ستارہ قمر برج سرطان

آرزو، آزلہ، انتہاج، اذکیہ، ارم، ازہار، اسدہ، اطرویہ، امروزہ، بازغہ، بشینہ، بد، بر زن، پاریتہ، پروین،  
قبسم، تختہ، تمکین، تمیز، تزیلہ، ثمرہ، شیعہ، جلا، جلیلہ، حینہ، حلیفہ، خازر، خانم، خبیرہ، خطامہ،  
خلیقہ، ذاکیہ، رامبہ، رباب، رخسانہ، رخشندہ، روا، رصیفہ، رضیہ، رعد، رفاقت، رمہ، روشن،  
ریشتان، ربیعان، ریم، زرتار، زغلہ، زمیت، ساجیہ، ساریہ، سبلہ، سیکہ، ستودہ، سحر، سرارہ، سلوت،  
سفانہ، سفینہ، سلوی، سلیقہ، سنبل، سویرا، سهام، شارزہ، شانہ، شانکہ، شمشاد، شمیرہ، شیبہ، صباح، صیغہ،  
صراج، صریحہ، صغیرہ، صوہ، صونہ، ضاہر، طالعہ، طرازیہ، طرویہ، طرہ، ظرافتہ، عاشقہ، عربیہ،  
عشرت، علیہ، عمر، عمد، غیدا، قاضلہ، قاغیہ، فاکہ، فضیلہ، فکرت، فینانہ، قمر، کبرلی، کنول، لہینہ،  
لینہ، مامونہ، ماہین، مبارکہ، مر سال، مطرہ، مہتاب، میونہ، نادہ، نازش، نامیہ، ناہید، نبال، نیلہ، نجیہ،  
نسیم، نصار، نفیسہ، نکمت، نگمت، نمنقہ، واداد، وافر، ولیقہ، ہاجرہ، ہادیہ، ہیہ، سینہ۔

### عدد (9) ستارہ مرتج برج حمل اور عقرب

ابتمام، اسوہ، افزین، افشال، الواز، امال، امثلہ، اثیرہ، بادر، باسملہ، بخدان، برودت، بزمہ، بصیرت، پاکیزہ،  
تامنہ، تسکین، تسلیم، تویر، ثریا، جمانہ، جویریہ، چاہ، حبذا، حبیبہ، حرمت، حکمت، حنہ، حنیفہ، خانزہ،  
حریدہ، خضاع، دمنہ، ذبالہ، ذہین، رانی، ریلہ، رخا، رضوانہ، رقیہ، رومان، رویدہ، زائیدہ، زرافشال،  
زفر، سادرہ، سامرہ، سبا، ستارہ، ستیرہ، سجیلہ، سرود، سلمہ، سارہ، سماع، سمیرہ، شادی، شاعرہ، شافیہ،  
شاما، شاہدہ، شذیبہ، شفیقہ، شکورہ، شمشہ، شمامہ، شیمہ، صابہ، صدیقہ، صغیرہ، صفہ، صغیرہ، صنم،  
صدیقہ، صیابہ، طابہ، طالعہ، طائلہ، طاؤسہ، طفادہ، طفیدہ، طوطی، طویسہ، طہورہ، طاقرہ، طعنہ، عاتقہ،  
عائدہ، عتیقہ، عجلہ، عجیبہ، عذارا، عربیہ، عروج، عرنہ، عزیزہ، عشویہ، عطبول، عفران، عنان،  
عناتت، عنبرینہ، عقبہ، غسانہ، غوثیہ، فاقن، فاطمہ، فاکرہ، فرج، فرزا، فوزیہ، فمیدہ، قیصرہ، کرن،  
گلگام، لیلیا، لولو، ماہرخ، محبوبہ، مرمریں، مستورہ، مشوودہ، معروضہ، مہ، دشن، یشاع، میسونہ، نازندہ،

نثارہ، نجیدہ، ناروین، نزاہر، نزو، نزمہ، نشاط، نگینہ، نملہ، نیسی، واٹھ، و فوہ، یا سکین۔

یہ تمام نام عدد (۸) سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مخالف خواتین کے نام ہیں۔ اور یہ ہر حالت میں ان کے مخالف ہی رہیں گی۔ اس لئے ان سے کوئی بھی دنیا داری کا کام بہت سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ آخر یہ ان کو کامیابی کی بجائے آدھے زاتے میں چھوڑ سکتی ہیں۔ اس لئے نام تو بہت زیادہ درج ہیں اس میں سے اپنی جاننے والیوں کے نام دیکھ کر خود اپنی سمجھ کو بروئے کار لا کر عمل کریں۔ اس نقش کو اپنے کسی بھی مقصد کی خاطر زعفران سے لکھ کر استعمال میں لائیں۔

قل	هو	الله	احد	الله	الصد	لم	يلد
هو	الله	احد	الله	الصد	لم	يلد	ولم
الله	احد	الله	الصد	لم	يلد	ولم	يولد
احد	الله	الصد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم
الله	الصد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم	يكن
الصد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم	يكن	له
لم	يلد	ولم	يولد	ولم	يكن	له	كفوا
يلد	ولم	يولد	ولم	يكن	له	كفوا	احد

## عدد (9) سے تعلق رکھنے والی خواتین

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
القہار	504	خوش و خرم	IBTISAM	اِبتسام
الباسط	72	اوصاف	USWA	اسوہ
الرافع	153	باعث اضافہ	AFZINA	افزینہ
المعز	432	سنہری کرین	AFSHAN	افشان
السمیع	45	خوبصورت	ALWAZ	الواز
الکریم	72	توقعات	AMAL	امال
الحق	576	مثالیں	AMSA	امثلہ
الموخر	126	ہم نشیں	ANISA	انیسہ
<b>ب</b>				
الآخر	207	چاند	BADAR	بادر
المنتقم	108	مسکرانے والی	BASIM	باسمہ
القہار	657	نرم و نازک	BAKHDAN	بخدان
الباسط	612	سردی	BARDOODAT	برودت
الرافع	54	مخفل	BAZMA	بزمہ
المعز	702	دائمی	BASEERAT	بصیرت
<b>پ</b>				
السمیع	45	پاکباز	PAKEEZA	پاکیزہ



اسم اہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ت</b>		
الکریم	468	روشن کرنے والی	TABINA	تابینہ
الحق	540	راحت	TASKEEN	تسکین
الحي	540	مان لینا	TASLEEM	تسلیم
الموخر	666	روشنی	TANVEER	تنویر
		<b>ث</b>		
الآخر	711	جھرمٹ	SURAYYA	سریا
		<b>ج</b>		
المنتقم	99	موتی	JAMANA	جمانہ
القهار	234	باعث سکون	JAWAIRIYA	جویریہ
		<b>چ</b>		
الباسط	9	محبت	CHAH	چاہ
		<b>ح</b>		
الرافع	711	کلمہ تحسین	HABBAZA	حبذا
المعز	27	پیاری	HABEEBA	حبیبہ
السمیع	648	عزت	HURMAT	حرمات
الکریم	468	ذاتاتی	HIKMAT	حکمت
الحق	63	رنگین	HANA	حنہ
الحي	53	صادق	HANIFA	حنیفہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		خ		
الموخر	856	باوقا	KHANRA	خانرہ
الآخر	819	شر میلی	KHARIDA	خریدہ
المنتقم	711	ستارہ	KHANSA	خساء
		د		
القہار	99	ہریالی	DAMNA	دمنہ
		ذ		
الباسط	738	بلند مرتبہ	ZABALA	ذبالہ
الرافع	765	عظمت	ZAHEEN	ذہمن
		ر		
المعز	261	ملکہ	RANI	رانی
السمیع	216	مضبوط	RABTA	رابطہ
الکریم	801	نرمی	RUKHA	رخا
الحق	1062	راضی	RIZWANA	رضوانہ
الحی	315	عظمت	RUQAYYA	رقیہ
الموخر	297	خوبصورت	ROMAN	رومان
الآخر	225	باوقار	ROWEEDA	رویڈہ
		ز		
المنتقم	63	عجی ہوئی	ZAINA	زائنہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
القہار	18	انتیازی	ZABDAH	زبدہ
الباسط	639	چمکیلی	ZARAFSHAN	زارافشاں
الرافع	297	سیٹی کی آواز	ZAFIR	زفیر
<b>س</b>				
المعز	270	متحیر	SADIRA	سادرہ
السمیع	306	پرکشن	SAMIRA	سامرہ
الکریم	63	شہزادی	SABA	سبا
الحق	666	بلند مرتبہ	SITARA	ستارہ
الحی	675	مخفی	SATIRA	ستیرہ
الموخر	108	سنوڑی ہوئی	SAJILA	سجیلہ
الآخر	270	شادمانی	SAROOD	سرود
المنتقم	135	خدمتگار	SALMA	سلمہ
القہار	306	پر جمال	SAMARA	سامارہ
الباسط	171	سنا	SAMAA	سامع
الرافع	315	نہیں مکھ	SAMIRA	سامیرہ
<b>ش</b>				
المعز	315	خوش	SHADI	شادی
السمیع	576	شعر کہنے والی	SHAIRA	شاعرہ
الکریم	396	غم خوار	SHAFIA	شافیہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحق	342	بلبل	SHAMA	شاما
الحی	315	ناظرہ	SHAHIDA	شاہدہ
الموخر	387	مضبوط	SHABIA	شبیعہ
الآخر	495	مہربان	SHAFIQA	شفیقہ
المنتقم	531	پارنا	SHUKOORA	شکورہ
القہار	405	روشدان	SHAMSA	شمسہ
الباسط	351	باوقار	SHIHAMA	شہامہ
الرافع	351	عز و شرف والی	SHIMA	شیمہ
<b>ص</b>				
المعز	108	بادشاہ	SABIA	صابیہ
السمیع	189	پاک دامن	SADIFA	صدیفہ
الکریم	1305	چھوٹی	SAGHERA	صغیرہ
الحق	171	پاکیزگی	SAFA	صفا
الحی	405	تیز و طرار	SAQEERA	صقیرہ
الموخر	180	دلبر، بت	SANAM	صنم
الآخر	225	ہنرمند	SANEEAA	صنیعہ
المنتقم	108	خالص	SAYABA	صلیہ
<b>ط</b>				
القہار	27	خوشبوؤں بھری	TABIA	طابیہ

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
طالہ	TALA	بلند قامت	45	الباسط
طائلہ	TAILA	سحر انگیزی	45	الرافع
طاؤسہ	TAOSA	حسین	81	المعز
طفاہہ	TAFADA	محور	99	السمیع
طفیہہ	TAFIDA	بمناز	108	الکریم
طوبی	TOOBA	جنت کاد رخت	18	الحق
طویسہ	TAWEEESA	منہی منہی	90	الحی
طہورہ	TAHOORA	پاکیزہ	225	الموخر
<b>ظ</b>				
ظاقرہ	ZAQIRA	کامیاب	1206	الآخر
ظعینہ	ZAEENA	چلنے والی	1035	المنتقم
<b>ع</b>				
عائقہ	AATIQA	خوبصورت	576	القہار
عائدہ	AAQIDA	عہد کرنے والی	180	الباسط
عتیقہ	ATEEQA	برگزیدہ	585	الرافع
عجلہ	AIELA	جلدباز	108	المعز
عجیبہ	AIEEBA	نادر و نایاب	90	السمیع
عذارا	AZARA	با عصمت کنواری	972	الکریم
عرشہ	ARSHIA	معزز	585	الحق

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الحی	279	بلندی	AROOJ	عروج
الموخر	477	شان و شوکت	IZZAT	عزت
الآخر	99	محبوبہ، قریبی	AZEEZA	عزیزہ
المنتقم	441	ناز و اداوا لی	ASHWEENA	عشوینہ
القہار	117	دراز قد	ATBOOL	عطبول
الباسط	351	خوبصورت	AFRA	عفرا
الرافع	171	بلند مرتبہ	ANAN	عنان
المعز	531	مخمس	ANAYAT	عنانت
السمیع	387	خوشبودار	ANBARINA	عنبرینہ
الکریم	477	شیریں گفتار	ATBA	عتبہ
<b>غ</b>				
الحق	1116	پر شباب	GHASANA	غسانہ
الحی	1521	برگزیدہ	GHOSIA	غوشیہ
<b>ف</b>				
الموخر	531	گمراہ کن	FATAN	فاتن
الآخر	135	چانے والی	FATIMA	فاطمہ
المنتقم	306	ذہن	FAKIRA	فاکرہ
القہار	288	خوشی	FARAH	فرح
الباسط	288	دوشیزہ	FARZA	فرزا

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرافع	108	کامیاب	FAOZIA	فوزیہ
المعز	144	عقلمند	FAHMIDA	فہمیدہ
<b>ق</b>				
السمیع	405	سلطانہ	QAISRA	قیصرہ
<b>ک</b>				
الکریم	270	شعاع	KIRAN	کرن
<b>گ</b>				
الحق	171	پھولوں جیسی	GULFAM	گلکفام
<b>ل</b>				
الحي	81	سلوئی	LAMYA	لنیاہ
الموخر	72	موتی	LOLO	لولو
<b>م</b>				
الآخر	846	چاند سے چمکے والی	MAH RUKH	ماہ رخ
المنتقم	63	ممشوقہ	MAHBOOBA	محبوبہ
القهار	540	صاف و شفاف	MARMARIN	مرمریں
الباسط	711	پردہ نشین	MASTOORA	مستورہ
الرافع	360	موجود	MASH-HOODA	مشہودہ
المعز	621	جھکی ہوئی	MAROOSHA	معروضہ
السمیع	351	چاند جیسی	MAH WISH	مدوش

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الکریم	351	نازک اندام	MISA	میشاء
الحق	171	پر جمال	MAISOONA	میسونہ
الحی	117	ناز کرنے والی	NAZINDA	نازندہ
الموخر	756	مصنفہ	NASSARA	نثارہ
الآخر	72	بہادر	NAJIDA	نجیدہ
القہار	315	سنبل	NARDIN	نار دین
الباسط	63	پرہیز گاری	NAZAHA	نزاہہ
الرافع	63	ہوشیاری	NAZO	نزو
المعز	72	پاکیزہ	NAZEEH	نزامہ
السمیع	441	جوان لڑکی	NISHAS	نشاں
الکریم	360	مسرت	NISHAT	نشاط
الحق	135	جواہر	NAGINA	نگینہ
الحی	90	ایک جرعه	NAHLA	نہلہ
الموخر	90	ایماندار	NIMI	نیمی
الآخر	612	مضبوط	WASIQA	واثقہ
المنتقم	297	کثرت والی	WAFOORA	دفورہ



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
----------	-----------	------	---------	-----

ی

القہار

171

چینی کا پھول

YASMIN

یاسمین

## عدد (9) ستارہ مرتجہ بروج حمل اور عقرب

### ان خواتین کا روحانی فال نامہ

ان خواتین کی خوش بختی کی علامت ان کے سینے یا بازو پر ایک تل کی وجہ ہے۔ ان کے بھی دشمن ان کو ہر مرتبہ نقصان سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ خود جھوٹ سے ہمیشہ بچیں گی۔ کیونکہ جھوٹ بولنا بھی ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ان پر عروج ہوتا ہے۔ اور اپنے گھر میں ان کی حیثیت ایک ملکہ کی طرح ہوتی ہے۔ اس وقت ان پر جس بیماری کا غلبہ ہے اس کی وجہ ان کے دشمنوں سے بچے گئے سفلی علم کی کاروائی ہے۔ اور اس کا توڑ بھی روحانی طریقے سے ہوگا۔ یہ ڈاکٹری علاج کروا تو رہی ہیں لیکن ان کو کوئی بھی افادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے یہ اس بیماری سے نجات اور اس سے ہمیشہ کیلئے محفوظ رہنے کیلئے اس عزیمت کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں اور دوسرے نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اس کو گلاب کے عرق میں ڈال کر اس عرق کو روزانہ صبح نہار منہ پیئیں۔ اللہ کے فضل سے یہ بالکل ٹھیک رہیں گی اور ان پر کبھی بھی سفلی اور کالے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سخري اعدائي كما سخرت الريح  
لسليمان بن داود ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام  
وزللهم كما ذللت فرعون لموسى وقهرهم كما قهرت ابا جهل لمحمد  
صلى الله عليه وآله وبحق كهيعص حمعسق صم بكم عمى فهم لا  
يرجعون صم بكم عمى فهم لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يعقلون  
فسيكفيكم الله وهو السميع العليم وصلى الله على خير خلقه  
محمد وآله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص حمعسق صم بكم  
عمى فهم لا يعقلون صم بكم عمى فهم لا يبصرون صم بكم عمى  
فهم لا يعقلون صم بكم عمى فهم لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا  
يعقلون صم بكم عمى فهم لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يعقلون  
صم بكم عمى فهم لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يعقلون

۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵
۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱
۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵
۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱

## ان خواتین کا خاکہ

یہ خواتین اپنے آپ کو اپنے خاندان کا سربراہ سمجھتی ہیں۔ اور اپنے گھر میں اپنی حکومت دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ یہ اپنے گھر میں ہوں یا کسی ادارے میں ملازمت کر رہی ہوں ہر کام میں اپنی مرضی چلانا پسند کرتی ہیں۔ اور ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی زندگی میں جوش و خروش کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت، موجود ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں چاہتیں کہ یہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے رہیں۔ یہ ہر کسی کے مقابلے اور ان کے چیلنج کو پسند کرتی ہیں۔ اور جو کام یہ نہ بھی جانتی ہوں ضد بازی میں وہ کام بھی کر جاتی ہیں خواہ ان کا نقصان ہی ہو۔ لیکن غصے اور آگے بڑھنے کی لگن میں یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ان کے سوچنے اور وضع قطع کا انداز نسوانی ہونے کی بجائے مردانہ ہوتا ہے۔ یہ مشکلات اور چیلنج کا مردانہ مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ زندگی سے ہمیشہ پر امید رہتی ہیں۔ اور اپنے اندر محبت کا جوش و جذبہ رکھتی ہیں۔ لیکن بعض حالات میں یہ اپنے آپ کو اتنا سخت بنا لیتی ہیں کہ دوسروں کا ان کے ساتھ گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اپنے مزاج کے تابع ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتیں اور اپنے مزاج کو اور تیز بنانے کیلئے جدوجہد جاری رکھتی ہیں۔ اکثر اوقات ان کے مزاج کا متلون پن اور غرور اور چیلنج قبول کرنے کی عادت انہیں سخت گیر بنا دیتی ہے۔ یہ آپ اپنی دشمن بنتی ہیں لیکن ان کی قسمت میں کامرانیوں اور کامیابیوں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتی کیونکہ ان میں ثابت قدمی کی کمی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں تو ہر میدان اور ہر کامیابی ان کی اپنی ہے۔ یہ دوسروں کو توبے حد زد دست قسم کے مشورے دے سکتی ہیں۔ لیکن خود ان پر عمل کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اور کامیابی کو اندرونی اور تصوراتی تجربے کا نام دیتی ہیں اور دوسروں کو کامیاب بنانے میں ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کیلئے ان کو چاہئے کہ کبھی کبھار اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر لیا کریں اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ان عادات پر عمل کرنے سے یہ اپنی زندگی میں ایک عمدہ ہی سکون محسوس کریں گی۔ اور ان کی زندگی خوش و خرم گذرے گی۔

## اچھے رشتے کے حصول کیلئے

ان خواتین کا اگر کسی جگہ بھی رشتہ نہ ہوتا ہو۔ اور ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوں۔ یا ان کا رشتہ کسی رشتہ دار نے سفلی علم کے ذریعے باندھ دیا ہو تو اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ ان کے رشتے تو آئیں گے۔ لیکن ان کا رشتہ نہیں ہوگا۔ رشتہ دیکھنے والے پسند کریں گے لیکن بعد میں انکار کر دیں گے۔ اس کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے۔ کہ ان کی نکاح بندی کر دی جاتی ہے۔ اس لئے اپنے رشتے کے اچھے حصول کیلئے درود ابراہیمی کو کثرت سے نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ اور اس نقش کو دو عدد لکھ کر زعفران سے ایک کو اپنے تکیے کے نیچے رکھیں اور درود شریف کو ورد کرتے ہوئے اس کو اپنے مضطے کے نیچے رکھ لیا کریں اور ورد کرنے کے بعد پھر اپنے تکیے کی نیچے رکھ دیا کریں اور دوسرے نقش کو اپنے گھر میں مین دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگائیں ان کے اچھے اچھے رشتے آئینگے اور ان میں سے خود کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر کر لیں

۵۳	۶۳	۶۵	۵۰
۵۹	۵۶	۵۵	۶۲
۵۳	۶۱	۶۰	۵۷
۶۱	۵۱	۵۲	۶۳

## محبوب سے شادی کرنے کیلئے

یہ خواتین اگر کسی کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہوں لیکن ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے۔ یہ اس عمل کو کریں کہ اپنے محبوب کی ایک عدد تصویر حاصل کر کے اس پر ان اسماء الہی کو محبوب کے نام کے حروف کے مطابق پڑھ کر اس کی تصویر پر دم کریں اور اس عمل کو کرنے کیلئے ایک وقت مخصوص رکھیں اور عمل کو تا حصول مقصد جاری رکھیں ان کی اپنے محبوب سے جلد از جلد شادی ہوگی اور ان کے راستے میں ہر رکاوٹ خود خود دور ہوگی۔ پڑھنے والے اسماء الہی (یا وودود یا موجود یا وودود یا ولی یا موجود فلان بن فلان موجود)

## روزگار کو بڑھانے کیلئے

یہ خواتین اپنے یا اپنے شوہر کے روزگار کو بڑھانے کیلئے اس عمل کو کریں ان کا کاروبار بہت زیادہ چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسانے گا۔ یہ صبح اپنے کاروباری مقام پر (سورۃ الم نشرح) کو ایک سو کی تعداد میں پڑھیں اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے کاروباری مقام پر لگائیں ان کا کاروبار زیادہ سے زیادہ چلے گا۔ اور گاہکوں کی زیادہ آمدورفت ہوگی۔

۱۵	۲۶	۲۷	۱۲
۲۱	۱۸	۱۷	۲۳
۱۶	۲۳	۲۲	۱۶
۲۸	۱۳	۱۴	۲۵

## ہر مرض سے شفا حاصل کرنے کیلئے

اگر ان خواتین پر کسی نے سفلی علم کروادیا ہو اور انکی طبیعت بہت زیادہ حراب رہتی ہو اور کوئی دوائی بھی اثر نہ کر رہی ہو تو اس عمل کی بدولت یہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوگی اور ان کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ مزمل کو ایک سو کی تعداد میں پڑھیں یعنی پچاس مرتبہ سورۃ فاتحہ اور پچاس مرتبہ سورۃ مزمل اس عمل کو کم از کم چالیس دنوں تک کریں اور پڑھنے کے دوران تازہ پانی اپنے پاس رکھیں اور سورتوں کو ختم کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے اس پانی کو اسی وقت پی لیا کریں اور اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں یا اپنے اٹنے بازو میں باندھیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ہر مرض سے شفاء حاصل ہوگی اور ان پر کیا ہوا ہر عمل باطل ہوگا۔ اور اگر ہو سکے تو اسی نقش کو پھر زعفران سے لکھ کر اپنے گھر میں چوکھٹ کے اوپر لگائیں اس سے جادو ٹوٹنے انکے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

۷۹	۹۰	۹۱	۷۶
۸۵	۸۲	۸۱	۸۸
۸۰	۸۷	۸۶	۸۳
۹۲	۷۷	۷۸	۸۹

## نظر بد سے مکمل نجات کیلئے

اگر ان خواتین کو بار بار بد نظری کی شکایت رہتی ہو اور یہ دن بدن ہمارے یوں میں مبتلا رہنے لگیں تو اس نقش کو زعفران سے لکھ اپنے گلے میں باندھیں اللہ کے فضل سے یہ بد نظری سے ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔

۱۔	۲۔	۳۔	۴۔
۲۲	۲۰	۱۹	۲۵
۱۸	۲۶	۲۳	۲۱
۲۹	۱۵	۱۶	۲۴

## ہر کام میں فتح حاصل کرنے کیلئے

یہ خواتین اپنے ہر کام میں فتح حاصل کرنے کیلئے۔ روزانہ صبح کے وقت سورۃ کف پڑھیں اور اس کو ساری زندگی کا معمول بنالیں۔ اور اس مقصد میں ہمیشہ ہی کامیاب رہنے کیلئے اس نقش کو روزانہ اکیس دنوں تک زعفران سے لکھیں اور روزانہ ایک نقش چلتے پانی میں بہا دیا کریں اور آخری دن والے نقش کو اپنے پاس رکھیں اور اسے تعویذ کی طرح بند کروا کر اپنے گلے یا اپنی الٹی بازو میں باندھیں ان کی دنیا داری کے ہر کام میں فتح ہوگی اور ان کے دشمن بھی ان کے زیر پیچھے۔

## اللہ تعالیٰ ہر کام میں کفیل ہو

یہ خواتین اپنے ہر کام میں اللہ کو کفیل بنانے کیلئے سورۃ یس شریف کو کثرت سے پڑھیں اور کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں اور اچھے اچھے کام کریں صدقہ و خیرات کیا کریں اللہ تعالیٰ ضرور ان پر اپنی رحمت برساتا رہے گا۔ اور اللہ کی رحمت برسانے کو غرور اور تکبر میں شمار نہ کریں اور ہمیشہ ہی اس ذات کے سامنے عاجز بن کر رہیں۔

## دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانے کیلئے

اگر ان خواتین میں سے کوئی اپنی اصلاح کرنی چاہے اور اپنے دماغ اور دل کو نیک راستے پر لگانا چاہے تو ہر فرض نماز کے بعد (استغفر اللہ ربہ من کل ذنب و التوب الیہ) کو کثرت سے ورد کیا کریں اور

شیطان کا موم سے بچنے کیلئے اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے نگلے میں باندھیں اس سے ان کا دل اور دماغ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی طرف مائل ہوگا۔ اور یہ زیادہ اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہوگی۔

۱۰۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۹۵
۱۰۰	۱۰۵	۱۰۶	۱۹۰
۱۰۳	۱۰۹	۱۰۶	۱۰۰
۱۸۵	۱۰۰	۱۰۱	۱۸۱

### تبادلے کی منسوخی کیلئے

اگر ان خواتین کا کوئی تبادلہ کروانا چاہتا ہو اور یہ اپنا تبادلہ نہ کروانا چاہتی ہوں تو اس عمل کی بدولت ان کا تبادلہ منسوخ ہوگا۔ اور یہ ویسے ہی اپنی جگہ پر قائم رہیں گی۔ یہ اس شخص کا زمین پر تصور بنا کر جو ان کا تبادلہ کروانا چاہتا ہے بنا کر پھر ایک نیم کی چھڑی لیکر اس پر اس نقش کو لگا کر دوپہر کے وقت ٹھیک بارہ بجے اس تصور پر اس چھڑی کو زور زور سے سات مرتبہ ماریں اور اس شخص کا کامل تصور اپنے ذہن میں بنائیں وہ شخص ان کا تبادلہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی۔

۱۲۱	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۱
۱۲۲	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۵
۱۲۸	۱۳۰	۱۳۱	۱۲۵
۱۲۳	۱۲۳	۱۲۲	۱۲۶

### دین پر ثابت قدم رہنے کیلئے

اگر یہ خواتین دین پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیں تو اس آیت کو بھرت پڑھیں اور اپنے اس مقصد کی اللہ کے حضور دعا کرتی رہیں اللہ انہیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یَجْمَعُنْکُمْ اِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا

ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ذلكم الله خالق كل شيء لا اله الا هو فاعبدوه وهو على كل شيء قدير

### دفع نفسانی خواہشات کیلئے

اس عدد سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنے آپ کو خاص اللہ کی بندگی کرنے کیلئے کوئی عمل کرنا ہو جو ان کو نفسانی خواہشات سے پاک کرے تو ہر ہیز جلالی و جمالی کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں اور اس عمل میں بری نیت ہرگز مت رکھیں بلکہ کامیابی تب ہی ہوگی جب لگن اور نیت سو فیصدی سچی ہوگی۔ اور زیادہ سورۃ یس، سورۃ مزمل، اور الحمد شریف، جتنی ہو سکے اتنی پڑھیں اور ہر ہیز لازمی کریں۔

### زیارت نبی کریم ﷺ کیلئے

اس مقصد اور عشق میں کامیاب ہونے کیلئے سب سے پہلے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک کیجئے اور پھر اس عمل کو کرنے کا خیال کریں اس عمل میں چراغ جلا کر روزانہ تا حصول مقصد تک سورۃ مزمل شریف کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں عشق جتنا کامل ہو گا نبی کریم ﷺ کی زیارت اتنی ہی جلدی ہوگی۔ اور من جتنا میلا ہو گا۔ تو پھر شاید ہی زیارت ہو۔ ان باتوں کو دھیان سے پڑھ کر عمل کا اچھی طرح سے سوچ کر آغاز کریں۔

### سفلی علم کے تعویذوں کے خاتمہ کیلئے

اگر ان خواتین پر کوئی مسلسل کوئی سفلی علم کے تعویذ کروا تا ہو اور ان کو کہیں سے کوئی صحیح ہدایت نہ ملے تو اگر ان کو تعویذ مل جائیں اور ان کے اثر کو زائل کرنے کیلئے ان کو اسی وقت تازے پانی میں ڈال دیں اور اسی پانی پر سومرتبہ چاروں قل یعنی ایک قل شریف کو سومرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کریں اور اس پانی کو چلتے پانی میں بہا دیں ان تعویذوں کا خاتمہ ہو گا۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں۔ ان پر سفلی علم کا وار نہیں چلے گا۔



۷۰	۸۰	۸۱	۷۲
۷۵	۷۳	۷۴	۷۱
۷۱	۷۲	۷۳	۷۰
۸۲	۷۸	۷۹	۷۵

## چلہ کرنے کیلئے

اگر ان خواتین کو کسی چلے کے کرنے شوق ہو تو یہ پرہیز جلالی و جمالی کرتے ہوئے روزانہ اکیس دنوں تک سورۃ یس کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھنے کی تعداد (۳۱) مرتبہ ہے پرہیز جلالی و جمالی اور چلے میں تمام ہدایات کو سمجھنے کیلئے میری کتاب (شرائط چلہ) کو مطالعہ کریں۔

## شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کیلئے

یہ خواتین اپنے آپ کو لور اپنے گھر والوں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کیلئے روزانہ ہی عصر اور مغرب کے درمیان چاروں قل شریف پڑھنے کا معمول بنالیں ان کا گھر اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور شیطانی اثرات سے پاک ہو گا۔ لیکن ایسا ہی صورت میں ہو گا جب یہ بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گی۔ اس سے نیکیاں اور ثواب بھی ملے گا۔ اور کام بھی اپنا ہی ہو گا۔

## عدد (9) کی دوست خواتین

### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

کبدار، آگرہ، اجیہ، ارجمند، ارومی، افریثم، المالی، امید، انورہ، باصرہ، برکت، بروہہ، بصیرہ، بلبل، بھار، پارہ، پاکستان، پریماں، تابہ، تحریم، تماضر، تملکت، تمذیب، ثویہ، جونہ، چاندنی، حاجبہ، حامیہ، حدیقہ، حسن، حنان، خالدہ، خدیجہ، خلود، خلیلہ، خیری، ربیعہ، رحیلہ، روفہ، رکان، رمازہ، ریسمان، زیادہ، زیدہ، زررین، زرنکار، زرین، زری، زہرہ، زیب، زیتونہ، ساجدہ، سالمہ، سحرش، سیکنہ، سلامہ، سلیمہ، سہلہ، شائستہ، شبہ، شہزاد، شریفہ، شہلہ، شعیبہ، صابرہ، صائمہ، صبرہ، صمیم، ضمیرہ، ضعیفہ، طروب، طبریہ، طنازیہ، عابدہ، عاتکہ، عاجلہ، عامرہ، عامرہ، عبیدہ، عبیلہ، عدوسہ، عصفورہ، عفت، عمارہ، عمیرہ، عنایہ، غدن، غیسانہ، فادیہ، فاطمہ، فدیہ، فدوی، فرزادہ، فہیمہ، فیوضہ، قاریہ، قدہ، کاشفہ، لاجورد، لائقہ،

لمعہ، لمعات، لثیقہ، لیلا، ماہ، متینہ، محسنہ، منزلہ، مضئنون، منلی، مہتما، مہدیہ، نازیہ، ناصرہ، ناقصہ، نداء، ندیدہ، ندیمہ، نزاکت، نسرین، نسیمہ، نظیقہ، نواز، نوارہ، نیلماں، نیلی، واجدہ، وارثہ، واشدہ، وشرہ، وجدان، وصفہ، ولیدہ، وگا، وندہ، یسرئی، یمن۔

### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آرا، آسیہ، اختر، ادیبہ، اربیدہ، ارزش، افشاء، المہ، امیرہ، انجم، اجناس، انیقہ، بازعہ، بلانہ، بدزہ، برشکال، بشیرہ، بطیس، بجان، بیدہ، پری، زاء، تابال، تیان، تجیہ، تصویر، تکریم، شبیہ، جمیرہ، جمان، چاند، حاذقہ، حارسہ، حافظہ، حامدہ، حباب، حریر، حمیہ، حفیظہ، حمیدہ، حوریہ، خاشعہ، دل افروز، ذبال، رامین، رسیم، ربانی، ریا، ریحانہ، زاہدہ، زیب، زلیخہ، زہیدہ، زین، ساجدہ، ساحرہ، سائرہ، سفیرہ، سینہ، سوبہ، سمیر، شادان، شاکرہ، شایب، شرارہ، شریکہ، شکیبہ، شگفتہ، شمودہ، صید، صبحہ، صغریٰ، صقرا، صلوت، صلوت، صنیع، ضوفشال، طاہرہ، ظاہنہ، طاسیہ، طفرا، طاز، طمیرہ، طیب، طیفورہ، ظہارہ، ظاہرہ، ظہیرہ، عازرہ، عابدہ، عدینہ، عروہ، عطیہ، عزیزین، عجزہ، عندلیب، عمادہ، عین، غراتہ، غمیرہ، فاحرہ، قائمہ، فخریہ، فرحت، فرزہ، فریحہ، فیضہ، فلک، قادرہ، قدیرہ، کوز، گلزار، گلشن، ماریہ، مجاہدہ، محسنہ، محمودہ، مدیحہ، مسلمہ، مشرفہ، نمشیطہ، مشیرہ، مغیرہ، مکارم، منال، منورہ، منیرہ، میسون، نابہ، ناظرہ، ناعمہ، ناقلہ، نبیہ، نغمہ، نجات، نژادہ، نفیسہ، نصیرہ، نقرہ، نکلین، نور، نیرہ، نیلم، وزیلہ، وسامہ، وسمہ، وشم، وشرہ، ہامزہ۔

### عدد (2) ستارہ قمر برج سرطان

آتیہ، اریبہ، ازہار، ازل، افروزہ، امروز، انوشہ، ایمن، بارقہ، بقولہ، برکات، برکہ، بنت، بینظیر، پشینہ، پادشہ، تسنیم، شمر، ثناء، شیمہ، شین، جبین، جلاب، حریمہ، حسنی، خمیرہ، خیال، خولہ، خیلا، درخشندہ، دل آرا، رایہ، رادفہ، راقبہ، رحیمہ، رضا، رفرف، رفیدہ، رقلہ، رونق، زبانہ، زرقا، زرینہ، زعفرہ، زبیرہ، زیبا، مزہ، سبل، سدیمہ، سراب، سریرہ، سلطانہ، سامہ، سیتہ، سمیدہ، سیلہ، سیلہ، شاداب، شاطبہ، شاہینہ، شبو، شیبہ، شریطہ، شقرہ، شقیقہ، شرانہ، صادقہ، صادقہ، صلیقہ، صغرا، صوفیہ، ضامرہ، ضراط، عالمہ، عدیلہ، عرزہ، عرینہ، علفہ، عقیقہ، علمہ، عمدہ، عوسا، عادہ، عاشیہ، عالیہ، غزل، فرحانہ، فریدہ، فواء، قاصدہ، قاترہ، کاکرہ، کثوم، گلاندام، لیلیٰ، ماہینہ، مخدومہ، مدرہ، مرام، مروارید، مرہ، مریم، مژدہ، مصاحبہ، مصونہ، معظمہ، مقدسہ، مقصودہ، مہ، مجیب، مینا،

تاجیہ، نبال، ندوہ، نسلیہ، نہباء، نئی، نہیدہ، وٹیلہ، ووفیہ، وہاچہ، ہیجہ، ہنا، سماء، یمنین۔

### عدد (7) ستارہ قمر برج سرطان

آرزو، آزلہ، اہتمام، اذکیہ، ارم، ازہار، اسدہ، اطریویہ، امروزہ، ہمازغہ، ہشینہ، بداء، برون، پارینہ، پروین، تبسم، خفقہ، تمکین، تمیز، تنزیلہ، ثمرہ، حیحہ، جلا، جمیلہ، حینہ، حلیفہ، خازر، خانم، خبیرہ، خطامہ، خلیقہ، ذاکیہ، راسبہ، رباب، رخسانہ، رخشندہ، ردا، رصیفہ، رضیہ، رغد، رفاقت، رمش، روشن، ریشمان، ریسان، ریم، زرتار، زغلہ، زمیت، ساجیہ، ساربہ، سبلہ، سیجہ، ستودہ، سحر، سرارہ، سلطوت، سفانہ، سفینہ، سلوئی، سلیقہ، سنبل، سورہ، سهام، شانزہ، شانہ، شامکہ، شمشاد، شمیرہ، شیباء، صباح، صبیحہ، صراحہ، صریحہ، صفیرہ، صنوہ، صنوہ، صاہر، طالعہ، طرازیہ، طرویہ، طزہ، ظرافت، عائشہ، عربہ، عشرت، علیہ، عزیز، عمد، غیدا، فاضلہ، فاغیہ، فاکہ، فضیلہ، فکرت، فینانہ، قمر، کبریٰ، کنول، لہند، لجنہ، مامونہ، ماجین، مبارکہ، مرسال، مطرہ، مہتاب، میمونہ، نادیہ، نازش، نامیہ، ناہید، نبال، نبیلہ، نجیہ، نسیم، نصار، نفسیہ، نکمت، نگلت، نریقہ، واواو، وافر، ولیقہ، ہاجرہ، ہادیہ، ہیجہ، یمنین۔

### عدد (3) ستارہ مشتری برج قوس اور حوت

آزفہ، آفریدہ، احمریں، ازلی، اسماء، افزایہ، الماش، الوانہ، ایمان، مبرہ، مبلوونہ، خنت، خنطور، بلیغہ، ہنات، تاندہ، تاشقہ، تانیہ، تشبیب، تصور، جاریہ، جائشہ، ججن، جنت، جوہرہ، حارشا، حطیہ، حصہ، حلیمہ، خافیہ، خندان، درخشال، درنشین، دروانہ، درمانہ، دریہ، دلربا، دیہ، ذوقیہ، راوہ، راصدہ، راکدہ، رجونہ، رختی، رشیقہ، رفعت، روضہ، رؤفہ، رومیلہ، رچیدہ، ریاس، زلملہ، زویہ، سیاحت، سبجہ، سبذ، سحرہ، سروج، سروذ، سمر، سینہ، سناء، سکیمہ، سیما، شادم، شارقہ، شازی، شمطہ، شمیلہ، شہزادی، شہلا، شہلی، شیریں، صاورہ، صارمہ، صبا، صدق، صریحہ، صمیرہ، صندل، صومانہ، صومر، صیدیہ، ضرغامہ، ضعیفہ، طارمہ، طاسہ، طینہ، طریدہ، طلالہ، ظہرہ، عاطقہ، عمرد، عمیر، عقیدہ، عدیدہ، عدیرہ، عرش، عروس، عریسہ، عثوہ، عصما، عصیفہ، علیل، عطفوف، عظمیٰ، علیا، عممہ، غادیہ، غانیہ، غصون، غصیر، غیفاانہ، قازرہ، فرخندہ، فروہ، فرووہ، فضعہ، قابلہ، قمرہ، کانظہ، کحفہ، کبیرہ، کوبک، گلثانہ، کیتی، آرا، لالہ، لہابتہ، لطمحہ، ماجین، ماہینہ، مزنیہ، مصنعہ، مصیطرہ، مطیہ، بلجہ، منار، منزہ، میساع، تاجہ، ناضرہ، ناہیدہ، بجلا، تخم، نرماء، نساء، نسیہ، نعمات، نعمہ، نقیہ، ورائہ، ووفیقہ، ہیجہ، ہیجلیہ۔

یہ تمام نام عدد (9) سے تعلق رکھنے والی خواتین کی دوست خواتین کے نام ہیں یہ اتنے سارے ناموں

سے اپنی جاننے والیوں کے نام دیکھ کر ان کے مزاج کے مطابق ان سے برتاؤ کریں یہ ان کی دوست ہی رہیں گی۔ اور اگر ان میں سے کسی نام کی خاتون ان سے صحیح برتاؤ نہ کرے تو اس کو ذریعہ عملیات کے دشمنوں کی سازش تصور کیا جائے۔ کسی فرد کے کہنے پر ان سے بد سلوکی کر سکتی ہیں ورنہ یہ ان کے مزاج کے مطابق چلنے والی خواتین ہیں اور ان کے ہر دکھ اور سکھ میں ان کے کام آنے والی ہیں۔

## عدد (9) کی مخالف خواتین

عدد (5) ستارہ عطارد برج سنبلہ اور جوزا

آسفہ، ابلہ، ازمین، ارفدہ، اشندہ، اصغری، الہام، امہ، امثال، انور، بارہ، بانو بدریہ، برہمیس، بنیقہ، بوضیہ، بھکت، پالیز، پری، تابدار، تسمینہ، تسمیر، تمنا، توقیر، چنان، جہاں، چاندی، چکوری، حجاب، حنا، خاٹبہ، حسند، خضیلہ، خطیبہ، خظیرہ، در شہوار، رانیہ، رفیعہ، رقدہ، روقد، رومانہ، رئیسہ، زائین، زرقم، زرکار، زرکش، زرگل، زفرہ، زلفہ، زوند، زیتون، سارہ، سیحہ، سعیدیہ، سلٹی، سوسن، سوحنی، سیماہ، شاداں، شادیہ، شاکلہ، شبنم، شرفا، شکیلہ، شمع، شہانہ، صاعقہ، صائم، صعبہ، صفیہ، صمیمہ، صویبہ، طافہ، طلعت، عارفہ، عاصیہ، عاکھ، عثوہ، عدوس، عدینہ، صفیرہ، عطارد، عطابوس، عنہ، عمیرہ، عینی، غاسقہ، غنچہ، فائزہ، فارزہ، فاطن، فقہ، فقاہ، فلذہ، فلزہ، فیروزہ، کریمہ، گل، گلگونہ، گللالہ، لامیہ، لیس، ملور، ماندہ، مسعودہ، مشتری، مصادہ، معروفہ، ملکہ، منیفہ، نابغہ، ناعدہ، نائیرہ، نائلہ، نسیب، واہدہ، وشام، وشم، وقایہ، ہالہ، ہرشم۔

یہ تمام نام عدد (9) سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مخالف خواتین کے نام ہیں۔ یہ ہر صورت میں ان سے کبھی بھی تعاون نہیں کر سکتی بلکہ ان کے مخالف کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہیں۔ اس لئے ان خواتین میں سے نام کو دیکھ کر ان سے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ اب آپ کے اپنے ہاتھ ہے۔ اب اس سے آگے تمام خواتین کے روحانی اور طبی علاج درج ہوں گے۔ جو کہ پیچھے درج نہیں ہو سکے اس لئے تمام خواتین اپنی بیماری کو دیکھ کر مذکورہ علاج پر عمل کریں اللہ کے فضل سے ان کی بیماری میں افاقہ اور انہیں شفاء ضرور ہوگی۔ یہ تمام علاج کسی مخصوص خواتین کیلئے نہیں ہیں بلکہ تمام خواتین اپنی بیماری سے متعلق ان پر عمل کر کے کامیاب ہوگی اور یہ تمام خواتین کیلئے درج کئے گئے ہیں۔

## اگر حیض بند ہو جائے

اگر کسی خاتون کا کسی وجہ سے حیض بند ہو جائے تو اس طبی علاج پر عمل کریں اللہ کے فضل سے ان کا بند حیض وقت کے مطابق پھر جاری ہوگا۔ انشاء اللہ پانچ تولے قدسیہ کو توے پر رکھ کر گرم کریں پھر اس میں پانچ تولہ ہر وزہ بھی شامل کر کے ان کو ہلکا ہلکا پکائیں پھر تین ماشے مرکی، تین ماشے نوشادر، تین ماشے لونگ ان کو کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس کر اوپر والی ادویات میں شامل کریں۔ پھر ان کو خوب پکائیں ٹھنڈا ہونے پر ان کی پتیاں تیار کریں اور ان بتقیوں کو صبح اور شام ایک ایک عدد اپنے رحم میں رکھیں ان کو حیض کھل کر آئے گا اور اتنا آہلکا جتنا آنا چاہئے۔

## لیکوریہ کے خاتمے کیلئے

گل پستہ ایک تولہ، گل دھاوا ایک تولہ، گل سپاری ایک تولہ، پھہ ماشے گل ارمنی، چھ ماشے گوکھرو، چھ ماشے گوند ڈھاک، ان سب کو کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس لیں پھر اس میں ویسی چینی حسب مقدار ملا کر صبح و شام اس خوراک میں چھ ماشے کی خوراک دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے لیکوریہ جڑ سے ختم ہوگا۔

## اسقاط حمل کے خاتمے کیلئے

اگر کسی خاتون کا حمل بار بار اساقط ہو جاتا ہو تو دو ماشہ مروارید کو لیموں کے پانی میں کھل کر لیں۔ تاسفیتہ دو ماشہ، گل زیوفر دو تولہ، چوک کنڈھی دو تولہ، کو بھی کھل میں پیس کر رکھ لیں۔ اسکے بعد گل نیلوفر اور چوک کنڈھی کو باریک پیس کر اس میں حل کریں۔ اور پانی کی مدد سے ان کی کالی مرچ جتنی گولیاں بنا کر رکھ لیں اور روزانہ ایک گولی پانی کے ساتھ کھائیں لیکن اس گولی کو حیض والے دنوں میں بالکل استعمال نہ کریں۔ اور حمل کے دوران اس گولی کو باقاعدگی سے کھائیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حمل کبھی بھی اساقط نہیں ہوگا۔ اور اس عمل سے اللہ کے فضل سے صرف لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے اعتقاد کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔

## حاملہ خواتین کیلئے بے مثال چورن

اگر کوئی خواتین حمل میں ہو اور ان کو بند ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو یہ خود اس چورن کو بنا کر استعمال کریں ان کو کبھی بھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ سونف تین ماشے، چاروں نمک تین ماشے، ٹائری ایک ماشہ، کالی مرچ چھ ماشے، کوزہ مصری ایک تولہ، ان سب کو کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس کر پھر چھانسی کی مدد سے چھانسیں اور پانی کے ساتھ یا ویسے سادی پھگی کی صورت میں استعمال کریں۔

### بانجھ پن کیلئے

بانجھ پن کے خاتمے کیلئے براہ دندان فیل چار تولے، زعفران تین ماشے، طباشیر نو ماشے، سانجھ چھ ماشے الابچی خورد ایک تولہ، تخم کوچ چھ ماشے، ریش پپیل چھ ماشے، برگد چھ ماشے، کالی ہرڑ ایک تولہ، قدسیاہ دو تولہ، ان سب ادویات کو کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس کر صبح و شام چھ ماشے کی خوراک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور پھر اپنے خاندان شے بھستہ ہوں۔ حمل ٹھہرے گا۔ اور بانجھ پن ختم ہوگا۔

### ہسٹریا کے خاتمے کیلئے

یہ مرض اکثر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور احتیاط نہ کرنے پر علاج بھی درست نہیں ہو پاتا اس لئے اس علاج کو دہیان سے دیکھ کر استعمال کریں اللہ تعالیٰ ضرور شفاء دینگے۔ فلفل دراز ایک تولہ، زنجبیل ایک تولہ، نوشادر چھ ماشے، ہینگ، چھ ماشہ، ان سب کو کھل میں پیس کر گھی جوڑ کے پانی کی مدد سے پنے کے برابر گولیاں بنا کر روزانہ ان گولیوں کو تین تین مرتبہ تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہسٹریا کی بیماری ختم ہوگی۔

### دوران حمل خون آنا

بادونگ ایک تولہ، گل وھاوا ایک تولہ، مائیں ایک تولہ، مازو ایک تولہ، طباشیر ایک تولہ، کمرکس ایک تولہ، کچور ایک تولہ، سپاری ایک تولہ، لودھ پٹھانی ایک تولہ، سانجھی کے چاول ایک تولہ، کشتہ صدف ایک تولہ، کشتہ مرجان ایک تولہ، ان تمام ادویات کو کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس کر صبح و شام چھ ماشے کی خوراک آٹے کے مرے کے ساتھ استعمال کریں۔ ان

کادوران حمل خون بہتا ہوا ہوگا۔

## اندام نہانی میں خارش کے خاتمے کیلئے

اگر کسی خاتون کو اندام نہانی میں کسی بھی وجہ سے خارش ہوتی ہو اور یہ مرض شرمندگی کا باعث بن رہا ہو۔ تو اس کے خاتمے کیلئے۔ ست پودینے کو بیٹھے تیل میں حل کر کے اس میں نرم کپڑا تر کر کے اس کو اپنی اندام نہانی میں رکھیں ان کی خارش کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔

## ولادت میں آسانی پیدا کرنے کیلئے

اگر کسی خاتون کو پیدائش کے وقت تکلیف کا سامنا رہتا ہو تو یہ اس وقت اپنے ہاتھ میں سنگ مقناطیس کا ایک ٹکڑا مضبوطی سے تھام لیں۔ ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔

## خونی و بادی بو اسیر کے خاتمے کیلئے

اس مرض سے مکمل نجات کیلئے بادونگ ایک تولہ، رسونت ایک تولہ، مغز تخم ریٹھہ ایک تولہ، ان سب کو کھرل میں پیس کر خوب باریک کریں اور چنے کے برابہر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک ایک گولی تازہ پانی سے استعمال کریں۔ خونی اور بادی بو اسیر کا مکمل خاتمہ ہوگا۔

## سکتہ، مرگی، اور بے ہوشی دور کرنے کیلئے

ان تمام امراض سے نجات پانے کیلئے۔ کافور، سہاگہ، نوشادر، فلفل دراز، زعفران، پوست ریٹھہ، ان سب کو ہم وزن لیکر کھرل میں ڈال کر خوب باریک پیسیں اور بوقت ضرورت نساہ کی طرح ناک کے اندر کھینچیں۔ ان تمام امراض کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔

## سر سام سے نجات کیلئے

اگر کسی خاتون کو سر سام کا مرض لاحق ہو جائے تو دوسرا فرد ان کی اس حالت میں ناک میں نمک ملیں اور پانی کے چند قطرے ناک کے اندر پٹکائیں اس طرح چند بار دہرانے سے یہ مرض ختم ہوگا۔

## پستانوں کا ڈھیلا پن ختم کرنے کیلئے

اگر کسی خاتون کے پستان وقت سے پہلے ہی ڈھیلے ہو گئے ہوں تو ان کو پھر دوبارہ سخت کرنے کیلئے۔ کافور ایک تولہ، آم کی گٹھلی ایک عدد سفید پھنڈوی ایک تولہ، ان سب کو کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس کر پانی میں لٹی کی طرح بنا کر ان کو اپنے پستانوں پر لپ کر سیں۔ دوبارہ سخت ہو جائیں گے۔

## پٹھری گردہ اور مثانہ کے خاتمے کیلئے

اگر کسی خاتون خانہ کو گردے یا مثانے میں پٹھری ہو تو پوست ریشہ ایک تولہ، قلمی شورہ ایک تولہ، نوشادر ایک تولہ، ساگہ ایک تولہ، مغز بادام چھ ماشے، مغز حریزہ چھ ماشے، مغز تخم خیارین چھ ماشے، تخم کدو شیریں چھ ماشے، ان سب کو کھل کی مدد سے باریک پیس کر تین ماشے کی خوراک صبح و شام تازے پانی کے ساتھ کھائیں اللہ کے فضل سے پٹھری پیشاب کے راستے بہ جائے گی۔

## دے سے نجات کیلئے

دمنہ کو ختم کرنے کیلئے ملٹھی مقشر دو تولے، پھنڈوی بریان چھ تولے، ان دونوں کو باریک پیس کر آپس میں ملا کر صبح اور شام چار ماشے کی خوراک دہی کے ساتھ استعمال کریں دے سے مکمل نجات ہوگی۔

## پیشاب کے ساتھ خون آنا

اگر کسی خاتون کو اس بیماری میں کسی چیز سے بھی شفاء نہ ہو رہی ہو۔ تو پھنڈوی بریان ایک تولہ، لودھ پٹھانی ایک تولہ، ان دونوں کو آپس میں ملا کر کھل میں خوب باریک پیس کر روزانہ صبح و شام ایک ماشے کی خوراک دودھ کی لسی کے ساتھ استعمال کریں اللہ کے فضل سے ان کی یہ مرض ختم ہوگی۔



## بندش پیشاب کیلئے

اگر کسی خاتون کا پیشاب بند ہو گیا ہو تو نوشادر چھ ماشے، قلمی شورہ چھ ماشے، جو کھار چھ ماشے، سیاگہ سفید چھ ماشے، ان تمام ادویات کو کھل میں ڈال کر بارپک پیس کر اس میں دیسی چینی ملا کر سفوف کی شکل میں صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیشاب کھل کر آئیگا۔

## زیادتی پیشاب کے خاتمے کیلئے

اگر کسی کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہو جائے تو تخم جامن پانچ تولہ، چھلکا پھیل پانچ تولہ، کشتہ بیضہ، ایک تولہ، ان سب کو کھل میں پیس کر صبح و شام چار ماشے کی خوراک تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے ان کو پیشاب اتنا ہی آئیگا جتنا آنا چاہئے۔

## شوگر کے خاتمے کیلئے

شوگر کو جڑ سے ختم کرنے کیلئے سرمہ سفید تین تولہ، تین پاؤ گلاب کا عرق ان دونوں کو کھل میں ڈال کر خوب آپس میں ملائیں اور دن میں ایک مرتبہ ایک ماشے کی خوراک تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے شوگر کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔

## درد گردے کے خاتمے کیلئے

اس مرض کو ختم کرنے کیلئے نوشادر ایک تولہ، پھنڈوی ایک تولہ، اجوائن دیسی ایک تولہ، سنگ بیود ایک تولہ، خوردنی نمک ایک تولہ، قلمی شورہ ایک تولہ، جو کھار ایک تولہ، ان سب کو کھل میں پیس کر بارپک سفوف کی شکل میں صبح و شام دو ماشے کی خوراک دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔

## گردے و مثانے کی پتھری ختم کرنے کیلئے

اگر کسی خاتون کو گردوں میں پتھری کی شکایت ہو تو اللہ کا نام لیکر اس علاج کو استعمال کریں اللہ ضرور شفاء دیگا۔ مولیاں دس کلو، جنگلی کبوتروں کی بیٹ دس تولہ، مولیاں کو خشک کر کے جلائیں پھر مولیوں کی راکھ اور جنگلی کبوتروں کی بیٹ بارپک پیس کر چھ سات گنا پانی میں

بھجودیں۔ چارپانچ روز بھجوں میں رکھیں ہر روز تین چار مرتبہ ہلاتے رہیں۔ اس کے بعد اس پانی کو نتھار کر کسی صاف برتن میں آگ پر رکھیں۔ جب سارا پانی جل جائے تو سفید سا سفوف برآمد ہوگا۔ اب اس خوراک کو صبح و شام تین رتی کی خوراک تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پتھری پیشاب کے ذریعے خارج ہوگی۔

### پیٹ کی ریح ختم کرنے کیلئے

پیٹ میں ہر طرح کی ریح کو ختم کرنے کیلئے۔ کالی مرچ ایک تولہ، قلمی شورہ ایک تولہ، لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب مرچیں جل جائیں اور قلمی شورہ پکھل جائے اور مرچوں کے ساتھ یک جان ہو جائے۔ تو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پر کھل میں ڈال کر ان کو خوب باریک پیسٹیں اور روزانہ چار رتی کی خوراک تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیٹ کی ریح ختم ہوگی۔

### ہر قسم کے بخار کے خاتمے کیلئے

اس مرض کے مکمل خاتمے کیلئے۔ ست گلو ایک تولہ، زہر مرہ خطائی، چھ ماشے، طباشیر چھ ماشے، الایچی چھ ماشے، اننی فیرین کونین چھ ماشے، ان تمام ادویات کو کھل کی مدد سے خوب باریک پیس کر کیکر کے گوند کی مدد پنے کے برابہ گولیاں بنا لیں اور روزانہ صبح دوپہر شام دو دو گولیاں پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے ان کا ہر قسم کا بخار جڑ سے ختم ہوگا۔

### باری کے بخار کے خاتمے کیلئے

کالی مرچیں چھ ماشے، طباشیر تین ماشے، نمک خوردی چھ ماشے، الایچی خورد تین ماشے، ریونڈ چینی چھ ماشے، ست گلو چھ ماشے، ان تمام کو کھل میں خوب باریک پیس کر چار ماشے کی خوراک دو تولے اتار کے شربت کے ساتھ استعمال کریں۔ باری کا بخار ختم ہوگا۔

### تیجے کے بخار کے خاتمے کیلئے

کانور تین ماشے، پٹھکوی بریاں تین ماشے، کونین چھ ماشے، قلقل دراز چھ ماشے، زہر

مہرہ خطائی چھ ماشے، زیرہ سفید ایک تولہ، ان سب کو کھل میں خوب باریک پیس کر کیوں کے عرق کی مدد سے پنے کے برابر گولیاں بنائیں صبح و شام ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

### ملیر پے کے بخار کے خاتمے کیلئے

پھنجوی بریاں ایک تولہ، ریوند چینی ایک تولہ، کشتہ فولاد ایک تولہ، گوند بیبول چھ ماشے، ان سب کو کھل میں ڈال کر باریک پیس کر پنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ملیر یا بخار کے ساتھ ساتھ دوسرے موسمی بخار بھی ختم ہونگے۔

### بلغمی بخار کے خاتمے کیلئے

اس مرض سے جان چھڑوانے کیلئے۔ ریوند چینی ایک تولہ، مغز کونجہ ایک تولہ، کیکر کی گوند ایک تولہ، سنڈھ چھ ماشے، ان سب کو آپس میں ملا کر کیکر کی گوند کی مدد سے پنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

### نزلی زکام سے چھٹکارہ پانے کیلئے

افیون تین ماشے، کالی مرچ تین ماشے، ٹینک ایسڈ دو ماشے، ان سب کو کھل میں پیس کر سفوف بنا کر پانی کی مدد سے ماش کے دانے کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

### کھانسی تر کے مکمل خاتمے کیلئے

اس مرض سے نجات پانے کیلئے۔ ہلدی دو تولہ، گندم دو تولہ، ان دونوں کو آپس میں ملا کر جلادیں اور ان کی راکھ کو خالص شہد میں دورتی کی خوراک کے مطابق استعمال کریں۔

### کھانسی خشک کے خاتمے کیلئے

مغز بادام ایک تولہ، آرد ملٹھی ایک تولہ، مویر منقہ ایک تولہ، ان سب کو کھل میں ڈال کر اچھی طرح کوٹ کر پنے کے برابر گولیاں بنا کر ایک ایک گولی دن میں کئی بار منہ میں ڈال کر چوستے رہیں۔ خشک کھانسی کا خاتمہ ہوگا۔ اور آئندہ کیلئے بھی یہ محفوظ رہیں گے۔

## بلغمی کھانسی کے خاتمے کیلئے

اس مرض کے خاتمے کیلئے۔ ملٹھی ایک تولہ، اجوائن حراسانی ایک تولہ، تخم معطی ایک تولہ، سنڈھ ایک تولہ، ان سب کو کھل میں ڈال کر پیس کر ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح دوپہر اور شام دو گولیاں پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہوگا۔

## کالی کھانسی کے خاتمے کیلئے

کاگز اسٹی نو ماشے، پھسوی دو ماشے، نوشادر دو ماشے، ان کو توے کے لوپر رکھ کر ان کے اوپر کوئی برتن رکھیں اور نیچے آگ جلائیں جب سب کچھ راکھ کی شکل میں بن جائے تو اس راکھ کو خالص شہد میں ملا کر اس کو چائیں اللہ کے فضل سے کالی کھانسی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔

## یرقان کے خاتمے کیلئے

پھسوی سفید ایک تولہ، کشتہ قلعی تین ماشے، ان کو بوزن لیکر آپس میں ملا کر کھل میں ڈال کر خوب باریک پیسیں اور ایک ماشے کی خوراک صبح و شام دہی کی لسی کے ساتھ استعمال کریں۔

## خرابی جگر کے خاتمے کیلئے

قلمی شورہ ایک تولہ، نوشادر چھ ماشے، ریونڈ خطائی چھ ماشے، ان سب کو آپس میں ملا کر کھل میں ڈال کر پیس کر روزانہ چار رتی کی خوراک تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جگر کام کرے گا۔

## فالج کے خاتمے کیلئے

روغن فریفون، روغن بادام تلخ، روغن قطان کو آپس میں ہم وزن لیکر تیل کی شکل میں متاثرہ حصوں کی مالش کریں اللہ کے فضل سے فالج بہت جلد ٹھیک ہوگا۔

## لقوے کے خاتمے کیلئے

مصطکی رومی تین ماشے، دہن بلسان تین ماشے، دار چینی تین ماشے، جدوار خطائی تین

ماشے، سلجھ تین ماشے، سفید مرچ تین ماشے، زعفران ایک ماشہ، کستوری ایک ماشہ، عنبر ایک ماشہ، افیون ایک ماشہ، مرکی ایک ماشہ، ان سب کو کھرل میں ڈال کر خوب باریک پیس کر خالص شدہ کی مدد سے ان کی پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور صبح دوپہر اور شام ایک ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دوائی لقوہ، رعشہ، اور فاج کیلئے بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے۔

### خرابی خون کے دفعیہ کیلئے

بکائن کا خام پھل سایہ میں خشک کر کے باریک پیسیں خوراک چھ ماشے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے خون کی تمام حرابیاں درست ہو گئی۔

### زخموں کی لاجواب مرہم کیلئے

سواہگہ بریاں پانچ تولے، بھسکوی سرخ پانچ تولے، کوروغن کچھد میں ایک ہفتے تک کھرل کریں۔ اور پھر اپنے کسی بھی زخم پر مالش کریں بلاے سے بلا زخم بہت جلد ٹھیک ہوگا۔

تمت بالخیر

حصہ مرد

## عدد (1) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		آ		
الرحمن	541	خاکسار	AASIM	آثم
الملك	901	روشن	AAZAR	آذر
المومن	10	ہنرمند	AAZAB	آزب
المہيمن	217	رنجیدہ	AAZURDA	آزردہ
المقیت	352	دوست	AASHNA	آشنا
الجلیل	91	نڈر	AAMIN	آمن
		ا		
المجیب	532	برتری	ASSAL	آسال
الولی	541	مضبوط	ASEEL	آسئل
الواحد	505	پوشیدہ	IITANAN	آجتان
الاول	658	ساتھی	IKHWAN	آخوان
الرحمن	55	خوشبودار چیز	ADEEM	آدیم
الملك	613	بندھا ہوا	IRTABAT	آرتباط
المومن	298	نیک	ARIJUMAND	آرجمند
المہيمن	208	بزرگی	ARZ	آرز
المقیت	802	ہلکا مینہ	ARSHASH	آرشاش
الجلیل	901	عربی نام	ASHTAR	آشتر

اسم الہی	حروف انجہ	مطلب	انگریزی	نام
المجیب	181	بزرگی	ASTAFA	اصطفا
الولی	82	معجزہ	IJAZ	اعجاز
الواحد	289	بلندی	AFRAZ	افراز
الاول	262	نعمتوں والا	IKRAM	اکرام
الرحمن	91	مکمل	AKMAL	اکمل
الملك	82	پیشوا	AMAM	امام
المومن	91	پچھن	AMAN	امن
المہيمن	1054	چنا ہوا	INTIKHAB	انتخاب
المقیت	352	ایجاد	INSHA	انشا
الجلیل	10	عروج	AOJ	اوج
المجیب	19	وقادار	AYAZ	ایاز
الولی	712	قربانی	EESAR	ایشار
الواحد	19	بنایا ہوا	EEJAD	ایجاد
الاول	19	صابر	AYUB	ایوب
<b>ب</b>				
الرحمن	802	بلند	BARTAR	برتر
الملك	622	سکون	BARAKAT	برکت
المومن	163	یامین کا بیٹا	BINYAMEEN	بیامین
المہيمن	208	خوبصورت	BAHAR	بہار



اسم الہی	حروف انجید	مطلب	انگریزی	نام
الجلیل	19	اچھا	BAHZAD	بہزاد
المجیب	73	بہن کھ	BAHLOL	بہلول
		<b>ت</b>		
الولی	703	تزارت	TABISH	تابش
الواحد	712	روشن کرنا	TABREEQ	تبریق
الاول	1117	چکانا	TAZHEEB	تذہیب
الرحمن	613	خاکسار	TURABI	ترابی
الملك	694	فصح	TARJUMAN	ترجمان
المؤمن	613	چکانا	TAZAHAR	تزاہر
المہمین	505	سہل ہونا	TASHEEL	تسہیل
المقیت	604	سچائی	TASDEEQ	تصدیق
الجلیل	694	بہت جانا	TAFREED	تفرید
المجیب	1180	طالب علم	TALMEEZ	تلمیذ
الولی	496	رنگ برنگ	TALWEEN	تکلوین
الواحد	586	توصیف کرنا	TAOSEEF	توصیف
		<b>ث</b>		
الاول	550	قدیم قوم کا نام	SAMOOD	شمود
		<b>ج</b>		
الرحمن	208	دیوار	JIDAR	جدار

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الملك	217	لائق	JADEER	جدیر
المومن	64	عظمت	JALAL	جلال
المہيمن	73	اونٹ	JUMAL	جمل
المقیت	289	پر جلال	JAHANGIR	جہانگیر
<b>ح</b>				
الجلیل	19	ماہر	HAIJZ	حاجز
المجیب	1009	موجود	HAZIR	حاضر
الولی	55	احتیاط	HAZAM	حزم
الواحد	109	بہادر	HASSAM	حسام
الاول	118	جمال	HASAN	حسن
الرحمن	118	باوقار	HASEEM	حسم
الملك	748	بزرگی	HASHMAT	حشت
المومن	118	صحیح	HAQI	حقی
المہيمن	118	بہادر	HAMEES	حمیس
المقیت	109	بے حد رحمت والا	HANNAN	حنان
<b>خ</b>				
الجلیل	658	خزانے والا	KHAZIN	خازن
المجیب	721	صاف	KHALIS	خالص
الولی	721	عادت	KHISAL	خصال

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الواحد	1036	تھائی	KHALWAT	خلوت
الاول	649	افراد	KHALEET	خلیط
و				
الرحمن	694	مددگار	DASTAGIR	دستگیر
الملك	64	قاضی	DAYYAN	ویان
المومن	64	مذہب	DEEN	دین
ز				
المہيمن	721	دائمی	ZAKA	ذکاء
المقیث	730	تیز فہم	ZAKI	ذکی
ر				
الجلیل	505	ہدایت یافتہ	RASHID	راشد
المجیب	541	آرام	RAMISH	رامش
الولی	505	نیک	RASHAD	رشاد
الواحد	514	نیک	RASHEED	رشید
الاول	280	سجلیا ہوا	RAMEEL	رمیل
ز				
الرحمن	208	زیارت کرنے والا	ZAIR	زائر
الملك	307	بھوکیا	ZARAQ	زرق
المومن	127	سرور	ZAEEM	زعم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المہیمن	28	دولت مند	ZAKA	زکاء
المقیب	37	پاکیزہ	ZAKI	زکی
<b>س</b>				
الجلیل	469	میدان	SAHAT	ساحت
المجیب	100	بلند	SATAL	ساٹل
الولی	1261	جام	SAGHAR	ساغر
الواحد	262	بچاؤ	SABAR	سبر
الاول	334	بہادر	SIKANDAR	سکندر
الرحمن	181	خوشگوار	SALSAL	سلسل
الملک	181	ریزہ	SALMAN	سلمان
المومن	109	عظمت	SAMAT	سمت
المہیمن	271	سیلابی	SAYAR	سیار
المقیب	109	سچی	SAMAH	سامح
الجلیل	316	چمکیلا	SANWAR	سنور
<b>ش</b>				
المجیب	307	نادر	SHADIB	شادب
الولی	406	بلند	SHAHIQ	شاہق
الواحد	343	بہادر	SHIBLI	شبلی
الاول	703	جلدی	SHTAB	شتاب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرحمن	1009	ذہین	SHAZ	شجاز
الملك	460	سفارش کرنے والا	SHAFEE	شفیع
المومن	550	تلوار	SHAMSHEER	شمشیر
<b>ص</b>				
المہيمن	298	صاحب	SABOOR	صبور
المقیت	595	سچائی	SADAQAT	صدائت
<b>ض</b>				
الجلیل	829	خوش گفتار	ZAHIK	ضاحک
المجیب	1081	مددگار	ZAFIR	ضافر
الولی	811	روشن	ZIA	ضیاء
<b>ط</b>				
الواحد	19	تیز	TAIT	طائظ
الاول	217	زینت	TARAZ	طراز
الرحمن	217	خوش صورت	TAROOB	طروب
<b>ظ</b>				
الملك	1180	ظفر	ZAFAR	ظفر
<b>ع</b>				
المومن	118	پختہ ارادے والا	AAZIM	عازم
المہيمن	280	معطر	AATIR	عاطر

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
عائر	AAIR	کثرت	271	المقیت
عبادہ	EUBADA	عبادت گزار	82	الجلیل
عبود	ABOOD	عبادت گزار	82	المجیب
عبیدہ	EUBAIDA	ملازم	91	الولی
عروۃ	AROOH	سرفراز	676	الواحد
عزام	AIZAM	پختہ ارادے والا	118	الاول
عزہول	AAZHOL	تیز رفتار	118	الرحمن
عطار	ATAR	عطر والا	280	الملک
عفت	IFFAT	پاکیزگی	550	المومن
عقیق	AQEEQ	قیمتی پتھر	280	المہیمین
عمران	IMRAN	لباب	361	المقیت
عمرس	UMRAS	توانا	370	الجلیل
عمرو	UMRO	زندگی سے متعلق	316	المجیب
<b>غ</b>				
غازی	GHAZI	فاتح جنگ	1018	الولی
عاصف	GHASIF	خوشحال	1171	الواحد
غباشیر	GHABASHER	پر شوق	1513	الاول
خدن	GHADAN	نیکی	1054	الرحمن
غرز	GHARAZ	دودھ	1207	الملک

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ف</b>		
المومن	289	فرحت عش	FARIH	فاریح
المہیمن	1081	صحتمند	FARIZ	فاریض
المقیمت	181	بلند	FAIQ	فائق
الجلیل	298	نازاک	FAHEER	فحیر
المجیب	298	خوش	FAREEH	فریح
الولی	910	مہربانی	FAZAL	فضل
الواحد	91	دل	FUWAD	فواد
		<b>ق</b>		
الاول	271	گرجداز	QASIF	قاصف
الرحمن	154	پرانا	QADEEM	قدیم
الملک	352	امتیازی نشان	QANBAR	قنبر
		<b>ک</b>		
المومن	721	بجرت	KASIR	کاشر
المہیمن	307	پھل	KAFOR	کافور
المقیمت	91	کھل	KAMIL	کامل
الجلیل	73	مالدار	KANIB	کانب
المجیب	730	زیادہ	KASEER	کثیر
الولی	91	گفتگو	KALAM	کلام

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الواحد	100	ہم کلام	KALEEM	کلیم
الاول	91	معراج	KAMAL	کمال
<b>گ</b>				
الرحمن	253	پھول پھینکنے والا	GULBAR	گلبار
الملك	279	دولت مند	GANI	گنج
<b>ل</b>				
المومن	244	قیمتی پتھر	LAIWARD	لاجورد
المہيمن	541	روشن	LAMAAT	لمعات
المقیت	100	سرزمین	LAMEEK	لمیک
الجلیل	46	سوکھی گھاس	LAVEE	لوی
المجیب	136	سفید	LAHAQ	لہاق
الولی	541	قابلیت	LAYAQAT	لیاقت
<b>م</b>				
الواحد	91	آقا	MALIK	مالک
الاول	91	تکبر	MAN	مان
الرحمن	550	پرہیزگار	MUTQE	متقی
الملك	496	اعتماد	MUTAWAKKIL	متوکل
المومن	55	جواب دینا	MUJEEB	مجیب
المہيمن	253	پناہ دینے والا	MUJEER	مجیر



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المقیمت	505	سنجیدہ	MUHTAZAN	مخترن
الجلیل	559	نیک	MUHSTAN	مخستان
المجیب	118	چٹا ہوا	MAHSOOD	محمود
الولی	1441	رشتک و حسد کیا گیا	MURTAZA	مر تقضی
الواحد	334	راستہ	MURSAD	مرصد
الاول	811	جائے پناہ	MUAAZ	معاذ
الرحمن	820	مددگار	MUEEZ	معیز
الملک	172	دولت مند	MAQBAL	مقبیل
المومن	550	روزی رسال	MUQEET	مقیمت
المہمین	91	قدرت	MILAK	ملاک
المقیمت	496	بادشاہی	MALAKOOT	ملکوت
الجلیل	181	پناہ گاہ	MINAS	مناس
المجیب	100	مٹنے والا	MANBAH	منج
الولی	136	ایماندار	MAOMIN	مومن
المہمین	145	جائے پناہ	MUHEMAN	مہمین
<b>ن</b>				
الواحد	73	بلند مقام	NABIK	نابک
الاول	64	نجات پانے والا	NAJI	ناجی
الرحمن	361	اٹنے والا	NASHI	ناش

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الملک	991	کارکن	NAZIM	ناظم
المومن	64	قیمتی	NAYAB	نایاب
المہیمن	82	ذہین	NABAL	نیل
المقیب	478	لطافت	NAZAKAT	نزاکت
الجلیل	361	دوستارے	NASRAN	نسران
المجیب	154	خالص	NUSOOH	نصوح
الولی	370	عقلمند	NATASHI	نطاشی
الواحد	991	بیاد	NIZAM	نظام
الاول	451	نقش کرنے والا	NAQASH	نقاش
الرحمن	271	تصویر	NIGAR	نگار
الملک	100	علامت	NAMOOD	نمود
المومن	64	توجہ کرنے والا	NOOH	نوح
المہیمن	361	خوش	NAUSHAD	نوشاد
و				
الجلیل	19	یکانہ	WAHID	واحد
المجیب	127	پہنچانا	WASIL	واصل
الولی	37	پناہ دینے والا	WAIL	وائل
الواحد	415	خصوصی	WAJAHAT	وجاہت
الاول	28	یکتا	WAHEED	وحید

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرحمن	307	ممانت	WAQAR	وقار
الملک	46	دوست	WALI	ولی
المومن	10	رہنما	HAAD	ہاد
المہيمن	208	تیز رفتار	HARIB	ہارب
المقیت	262	قاصد	HAROON	ہارون
الجلیل	10	پرہیزگار	HAID	ہائد
المجیب	46	حیران	HAEEM	ہائم
الولی	208	جدائی	HIJR	ہجر
الواحد	10	سچائی	HUDA	ہدی
الاول	46	خیالی پرندہ	HUMA	ہما
		ی		
الرحمن	271	بلند نظر	YASIR	یاسر
الملک	82	خدائی	YAZDANI	یزدانی
المومن	217	مددگار	YAWAR	یادور
المہيمن	271	دولتمندی	YASAR	یسار
المقیت	280	آسان	YASEER	یسیر
الجلیل	100	برکت	YAMAN	یمین

## عدد (4) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

نام	انگریزی	مطلب	حروف اجد	اسم الہی
آزاد	AZAD	خود مختار	آ	العزیز
آغر	AGHAR	مشہور		الشکور
آل	AAL	قوم		الشہید
ابریز	IBRAIZ	سہرا	ا	المحصى
ابی	ABI	عربی نام		المحی
اجلال	ASLAL	ختم کرنا		الممیت
اجلال	IJLAL	بزرگی		الاحد
اخمر	AKHMAR	تیز رو		المقدم
احوز	AHOZ	دانا		البر
اختر	AKHTER	ستارہ		التواب
ادران	ADRAN	غلام		النور
ادباب	ADHAB	سہرا		العزیز
اردشیر	ARDSHER	شیر		الشکور
ارزش	ARZASH	دقار		الشہید
ارمان	ARMAN	آرزو		المحصى
ارہام	ARHAM	رم جہم		الممیت

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
ازاد	AZAD	بے غم	13	الاحد
اسبال	ASBAL	زیادہ توانا	94	المقدم
استحسان	ISTHSAN	پسندیدگی	580	البر
اشعر	ASHAR	ممتاز	571	التواب
اصغر	ASGHAR	اونٹنی	1291	النور
اصلاح	ISLAH	درست	130	العزیز
اطیب	ATEEB	بہت پاکیزہ	22	الشکور
افتخار	IFTIKHAR	فخر - تکبر	1282	الشہید
اقتدار	IQTIDAR	قوت	706	المحصى
انقصاد	INTISAR	مدد پانا	742	المیثیت
انجم	ANJUM	ستارہ	94	الاحد
انیس	ANEES	ہمدرد	121	المقدم
اوس	AOS	تحفہ	67	البر
ایزد	AEZAD	اضافہ	22	النور
<b>ب</b>				
بازل	BAZIL	تختی	733	العزیز
باسم	BASAM	پہننے والا	103	الشکور
بسام	BISAM	فرحال	103	الشہید
بیسیم	BASEEM	خندہ زن	112	المحصى

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
بصر	BASAR	عقلمند	292	المحصى
بقا	BAQA	زندگی	103	المحی
بہروز	BAHROZ	مبارک	220	الممیت
<b>ت</b>				
تابان	TABAN	روشن	454	المقدم
تاشیر	TASEER	اثر	1,111	البر
تاشفین	TASHFEEN	ہمدرد	841	التواب
تبرید	TABREED	نرم کرنا	616	النور
تبیان	TABYAN	ظاہر کرنا	463	العزیز
تخذیر	TAHZEER	خوف دلانا	1318	الشکور
تصویر	TASWEER	نقشہ	706	الشہید
تقسیم	TAFHEEM	سمجھانا	535	المحصى
تمیم	TAMEEM	بروبار	490	المحی
تواب	TAWWAB	اللہ کا نام	409	الممیت
<b>ث</b>				
ٹپو	TIPO	بہادر	418	الاحد
<b>ج</b>				
جادہ	JADAH	راستہ	13	المقدم
جاذب	JAZIB	دل کش	706	الجز

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
جالس	JALIS	رفیق	94	التواب
جان نثار	JANNISAR	وقادار	805	النور
جاہد	JAHID	محنت کرنے والا	13	العزیز
جران	JABRAN	معاوضہ	256	الشکور
جلیس	JALEES	دوست	103	الشہید
جمان	IUMAN	موتی	94	المحصی
جنید	IUNAI	سپاہی	67	المحی
<b>چ</b>				
چاند	CHAND	قمر	58	الممیت
چاہت	CHAHAT	محبت	409	الاحد
<b>ح</b>				
حالی	HALI	حاضر	49	المقدم
حاب	HABAB	دوستی	13	البر
حبیب	HABEEB	پیارا	22	التواب
حریر	HARER	ریشمی	418	النور
حصن	HISN	محموظ	148	العزیز
حمدان	HAMDAN	حمد و ثناء	103	الشکور
حمود	HAMOOD	بزرگ	58	الشہید
حنیف	HANEEF	سچا	148	المحصی

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		خ		
المحیی	814	بھلائی، حسن	KHADEER	خدیر
الممیت	670	سچا، دوست	KHALEEL	خلیل
الاحد	1120	سورج	KHURSHEED	خورشید
		د		
المقدم	355	عقل	DANISH	دانش
البر	211	عادل	DAWAR	داور
		ذ		
التواب	931	بہت زیادہ	ZAKARIYA	ذکریا
النور	1147	خدا پرست	ZULQARNAIN	ذوالقرنین
		ر		
العزیز	274	مڑنے والا	RAJIA	راج
الشکور	220	کشادہ	RAHEEB	رحیب
الشہید	841	ملائم	RAHAAM	رخام
المحصی	1057	خوشگوار	RIZWAN	رضوان
المحی	265	شاداب	ROHAN	روحان
		ز		
الممیت	220	دولت مند	ZARYAB	زریاب
الاحد	238	صائب	ZAKARIYYA	ذکریا



اسم الی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المقدم	22	کثرت	ZIYAD	زیاد
البر	67	بناوٹ	ZAIN	زین
<b>س</b>				
التواب	292	سردار	SALAR	سالار
النور	463	عقلمند	SABAT	سبات
العزیز	121	مقدس	SUBHAN	سبحان
الشکور	76	طاہر	SUBOH	سیوح
الشہید	103	ذره	SAJEEL	سجیل
المحصى	670	نیک دل	SAKHI	سخی
المحی	319	شیر	SURHAN	سرحان
الممیت	535	بلند مرتبہ	SAADAT	سعادت
الاحد	310	گمانی کار	SAMEER	سمیر
المقدم	85	سرفراز	SUWAIDA	سویدہ
<b>ش</b>				
البر	355	ہر نوٹہ	SHADIN	شادان
التواب	1003	نادر	SHAZAB	شازاب
النور	310	کمزور	SHAZIB	شازب
العزیز	391	باعث شفاء	SHAFI	شافی
الشکور	310	گواہ	SHAHID	شاہد

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الشہید	580	بزرگی	SHARAF	شرف
المحصى	580	بہادر	SHREE	شرح
المحی	382	راست مند	SHOEB	شعب
الممیت	580	دوست	SHAEER	شعیر
الاجد	490	مہربان	SHFIQE	شفیق
المقدم	526	شاکر	SHAKOOR	شکور
البر	850	تلوار	SHAMSHER	شمشیر
التواب	346	بہادری	SHIHAM	شہام
النور	319	گواہ	SHAHEED	شہید
<b>ص</b>				
العزیز	1291	جھکنے والا	SAGHAR	صاغر
الشکور	1300	چھوٹا	SAGHEER	صغیر
الشہید	571	نیکیاں	SIFAT	صفات
المحصى	400	چالاک	SAQEER	صقیر
المحی	526	تحسین	SALAWAT	صلوات
الممیت	220	نیکی	SANEE	صنیع
الاحد	526	شہامت	SAOLAT	صولات
<b>ض</b>				
المقدم	1201	محاسب	ZARAR	ضرار

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
البر	1237	منور	ZOFASHAN	ضوفشان
		ط		
التواب	310	صبح کا ستارہ	TARIQ	طارق
النور	40	آزادی	TAIL	طائل
العزیز	76	مور	TAOUS	طاؤس
الشکور	211	خٹک	TARAB	طرب
الشہید	319	خاموش	TAREEQ	طریق
المحصى	67	بے باک	TANNAZ	طناز
المحی	85	پر جمال	TAWEES	طولیس
الممیت	265	پاک	TAHRAN	طهران
الاحد	22	خوشبو	TAYAB	طیاب
المقدم	220	تیز	TAYYAR	طیار
		ظ		
البر	1111	اظہار	ZAHOOR	ظہور
		ع		
التواب	571	آزاد	AATIQ	عائق
النور	103	جنگلی گلاب	ABAL	عبال
العزیز	76	خادم	ABD	عبد
الشکور	382	دانا	ABQARI	عبقری

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
شقیق	ATEEQ	برگزیدہ	580	الشہید
عثمان	USMAN	حسین	661	المحصی
عدنان	ADNAN	سردار	175	المحی
عرصم	ARSAM	شیر	400	الممیت
عزیز	AZIZ	پیارا	94	الاحد
عندلیب	ANDALEEB	بلبل	166	المقدم
عین	AEN	سردار	130	البر
<b>غ</b>				
غابط	GHABIT	آرزومند	1012	التواب
غائر	GHAIR	وسیع	1201	البنور
غسان	GHUSSAN	ایک چشمہ	1111	العزیز
<b>ف</b>				
فاکر	FAKIR	سوچنے والا	301	الشکور
فائق	FALIQ	ظاہر کرنا	211	الشہید
فقی	FATA	نیک	490	المحصی
فدا	FIDA	قربان	85	المحی
فرناس	FARNAS	شیر	391	الممیت
فرحد	FARHAD	خوبصورت	292	الاحد
فصام	FISAM	مولد	211	المقدم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
البر	130	آسان	FALAK	فلک
التواب	301	زخمی	FIGAR	فگار
النور	94	کامیاب	FAWWAZ	فواز
العزیز	139	عقل	FAHMEED	فحمید
الشکور	391	سچی	FAYASH	فیاش
<b>ق</b>				
المحصی	391	عاجز	QASIR	قاصر
المحی	112	بہادر	QATIB	قاتب
المنیت	310	آرام	QRAT	قراط
الاحد	220	رنگارنگ	QASTAN	قستان
المقدم	364	مشک	QANDEER	قندیرا
البر	400	بادشاہ	QAISAR	قیصر
<b>ک</b>				
التواب	661	معجزہ	KARAMAT	کرامت
النور	238	فرشتہ	KARROBI	کروبی
العزیز	121	کھلا ہوا	KASAM	کسام
<b>گ</b>				
الشکور	850	خوبصورت	GULRUKH	گل رخ
الشہید	256	خوبصورت	GULRU	گل روا

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المحصى	400	گلزار	GULSHAN	گلشن
المحی	1021	گلزار	GULAZAR	گل عذار
الممیت	481	شع	GULFISHAN	گلشع
الاحد	301	سرخ پھول	GULNAR	گلنار
المقدم	256	پھولوں والا	GULHAR	گلہار
البر	256	ایک درخت	GUOLER	گولر
التواب	634	میتاز	GOHARTAB	گوہرتاب
<b>ل</b>				
النور	40	جڑے والا	LAZIB	لازب
العزیز	238	چوڑا	LAZAR	لازار
الشکور	139	عمدہ	LATEEFI	لطیفی
الشہید	130	رنگینہ	LAL	لعل
المحصى	211	داناہی	LIQAF	لقاف
المحی	85	بڑھنے والا	LAHEEM	لہیم
الممیت	49	رواج	LEET	لیط
<b>م</b>				
الاحد	571	مٹل	MASAL	ماسل
المقدم	49	مچو کرنا	MAAH	ماح
البر	211	مصفا	MASIF	ماصف

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
التواب	157	دوست	MANOOS	مانوس
النور	481	بہادر	MUTABATTIL	متبطل
العزیز	724	بے مثال	MUTAFARRID	متفرد
الشکور	580	بزرگ	MASEEL	شیل
الشہید	58	مشہور	MAHAT	مخاط
المحصى	58	دلدار	MAHBOOB	محبوب
المحی	688	قابل قدر	MUHTARAM	محترم
الممیت	697	خزانہ	MAKHZ	مخزن
الاحد	760	خالص	MUKHLIS	مخلص
المقدم	850	دیاض	MUKHAYYAR	مخیر
البر	85	ہمیشہ	MUDAM	مدام
التواب	58	اونچا	MADEED	مدید
النور	643	بلند جگہ	MARATIB	مراتب
العزیز	481	نازک	MARAMIR	مرامیر
الشکور	283	طاقتور	MARIAM	مرجم
الشہید	346	وطیفہ	MARSOOM	مرسوم
المحصى	247	ذہین	MAZAR	مزر
المحی	1390	فیض چاہنا	MUSTAFEEZ	مستفیض
الممیت	760	روشنی	MUSTANEER	مستنیر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الاحد	175	سچا	MUSALLIMA	مسلمہ
المقدم	112	خود مختار	MUSAYYEB	میتب
البر	319	نگہبان	MASEETAR	مسیطر
التواب	841	آرزو مند	MUSHTAQ	مشتاق
النور	580	عقلمند	MASHMIR	مشر
العزیز	355	موجود	MASH-HOOD	مشہود
الشکور	220	پسندیدہ	MUSTAFA	مصطفیٰ
الشہید	202	صابر	MUSEB	مصعب
المحصى	517	عظمت	MOETIZ	معتز
المحی	634	میانہ روی اختیار کرنا	MUQTASID	مقتصد
الممیت	184	بہادر	MUQADDIM	مقدم
الاحد	301	باسلیقہ	MIKRAM	مکرام
المقدم	193	تعریفیں	MUNAQIB	مناقب
البر	364	وقار	MU-AQQIR	موقر
التواب	301	بہت بڑا	MEERAN	میراں
<b>ن</b>				
النور	58	مددگار	NAJID	ناجد
العزیز	58	عظمت	NAZ	ناز
الشکور	157	فرشتہ	NAMOOS	ناموس



نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
نثار	NISAAR	فریفتہ	751	الشہید
نجھی	NAJMI	روشن	103	المحصى
نجید	NAJEED	بہادر	67	المحی
نزاہت	NAZHAT	پاکی	463	الممیت
نشید	NASHEED	سرور	364	الاحد
نطور	NATOOR	رہنما	265	المقدم
نعمان	NAOMAN	جوان	211	البر
نگین	NAGEEN	گلینہ	130	التواب
نوازش	NAWAZISH	مہربانی	364	النور
نور	NOOR	روشنی	256	العزیز
نوفل	NOFIL	فیاض	166	الشکور
و				
واثق	WASIQ	مضبوط	607	الشہید
واسط	WASIT	درمیانہ	76	المحصى
وحدت	WAHDAT	تہائی	418	المحی
وراد	WIRAD	بہادر	211	الممیت
وفور	WAFOOR	وافر	292	الاحد
وہب	WAHAB	تختہ	13	المقدم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
البر	346	ممتاز	HASHIM	ہاشم
التواب	346	فیاض	HISHAM	ہشام
النور	301	بہادر	HASOOR	ہسور
العزیز	112	مبارک	HAMAYON	ہمایون
		ی		
الشکور	211	دوست	YAAR	یار
الشہید	517	جوہر	YAQOOT	یاقوت
المحصى	148	یزوار	YASOOB	یسوب

## عدد (1) اور (4) رکھنے والے مرد حضرات کا فال نامہ

اگر یہ افراد کبھی بیمار ہو جائیں اور ان کا شمار ہونا ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو ان کا روحانی علاج ہو گا۔ مگر اس کیلئے صحیح تشخیص سب سے ضروری ہے۔ اور یہاں تشخیص و علاج دونوں ہی تائیں جائیں گے۔ اس کیلئے یہ ضروری نہیں کہ کسی سے اجازت لی جائے بلکہ خود ہی اس کو پڑھ کر جیسے بتایا جائے ویسے ہی کریں ہر سورت میں کامیاب ہو گئے۔ اب روحانی طور پر اس فرد پر اس کی بے خبری میں کسی پری کا سایہ پڑا ہے۔ جس سے اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کا نام لئے بغیر دریا یا نہر کے کنارے سے گذرا ہے۔ اور اس لئے یہ اب پہلے سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اس بیماری کی علامت کے طور پر اس کی آنکھیں قرمزی رنگ کی ہو گئی ہیں۔ سر میں درد کی بہت شکایت ہے۔ اور بخار میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ اب اس کے وجود میں سکون نہیں رہا یا اس کو بہت لگتی ہے۔ کہ اس پر بد نظر اور کسی کی زبان بد کا اثر ہو گیا ہے۔ اس نے کسی بزرگ کے مزار پر منت بھی مان رکھی ہے۔ اس منت کو اتارنے سے پہلے صدقہ دے اور پھر منت ادا کرنے کے بعد اس مزار پر چراغ روشن کرے انشاء اللہ اس مرض سے ہمیشہ کیلئے بچھٹکارہ ہو گا۔ اگر ان دو اعدا میں سے تعلق رکھنے والا چہ ہو۔ تو اس کی تکلیف کا باعث اس کی شریر طبع اور اس کی میٹھی باتیں ہیں۔ جسے ایک نیلی آنکھوں والے شخص کی نظر بد لگی ہے۔ اس کے علاج کے طور پر کسی بھی نیلی آنکھوں والے شخص کی تلاش کرے۔ اور اس کے لباس کا ایک ٹکڑا کسی طریقہ سے حاصل کرے۔ پھر اس میں حرم لپیٹ کر کپڑا اور حرم کو کسی پاک جگہ جلانے۔ جل جانے کے بعد اس راہ کو اس چہ کی پیشانی اور کمر پر ملے۔ انشاء اللہ بچے کو صحت ہو گی۔ اور ان آیات کو زعفران سے لکھ کر یہ افراد اپنے گلے میں پہن لیں۔ اس طرح کی تمام قباحتوں سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کسی جادو ٹونے میں بھی مبتلا ہو گئے تو اللہ کے فضل سے ہر جادو ٹونے کا جڑ سے خاتمہ ہو گا۔

ان کو لکھنے سے پہلے پاک اور با وضو حالت ضرور اختیار کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

وان يكاد الذين كفرو ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذکر و يقولون  
انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين الحمد لله الذى خلق السموات  
والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

بسم الله الرحمن الرحيم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب اليم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا ويخدعون اليم و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا

برحمتك يا ارحم الراحمين

ان آیات کوزعفران سے لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیئیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله وبالله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنا لك واتقلبوا سناغرين فلان بن فلان

## عدد (1) اور (4) رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ

یہ افراد شریف اور منذب ہوتے ہیں۔ اور ہیر پھیر کی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی ان عادات میں مبتلا افراد کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر ان سے متعلق افراد ان سے دنیاوی معاملات میں ہیر پھیری سے کام لیں تو یہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں کبھی بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے اور دوسرے افراد کو بھی ان سے ملنے پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ یہ سیدھی سادھی باتیں کرنے والے افراد ہیں۔ یہ اپنی زندگی مکمل طرح سے محبت بھری گذارنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ان کو کسی سے محبت ہو جائے تو یہ اس کی دلجوئی اور ناز و داری کیلئے دل کھول کر خوج کرتے ہیں۔ اور اس کو اپنے انداز سے زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ اپنی محبوبہ کو اپنے جسم اور روح کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ اور اگر ان کو اپنی محبوبہ سے اس قسم کا کوئی تاثر نہ ملے تو یہ اپنی محبوبہ کا نقصان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے کیونکہ یہ شروع سے ہی اپنی محبوبہ یا اپنی شریک حیات کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے ساتھ اسی صورت میں ہو گا۔ جب یہ اپنی زندگی میں بالکل کامیاب زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر یہ اپنی زندگی میں کامیاب کاروباری افراد نہیں ہوں گے۔ تو محبت کے معاملے میں ان کی زندگی میں ایسی بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ جن کا سامنا کرنا ان کیلئے بہت ہی مشکل ہو گا۔ ان کی رفاقت پھولوں کی سیج اس وقت بنے گی۔ جب یہ کامیاب کاروباری افراد یا کسی سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں گے۔ ورنہ ان کی راہ میں کانٹے آتے ہی رہیں گے۔ اور یہ افراد اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی یہ چاہتے ہوں گے اسے آسانی سے حاصل بھی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے روزگار اور محبت میں حاکمیت چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی زندگی میں محنت سے کام کریں تو رومان اور کاروبار دونوں میں کامیاب بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ افراد ضدی بھی ہوتے ہیں۔ اور جس فیصلے کو یہ اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں۔ اس پر ہمیشہ ہی قائم رہتے ہیں۔

## عدد (1) اور (4) سے منسوب مرد حضرات کے عملیات

اگر ان افراد کو کوئی لڑکی کا رشتہ نہ دیتا ہو

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ ان افراد کی یہ خواہش سچی ہے یا یہ محض اپنی ضد کو پورا کرنے کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مصنف ان جیسی تمام باتوں سے بری الذمہ ہے۔ تو اپنی اس خواہش کیلئے اس نقش کو اس وقت تحریر کریں۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ زعفران کے ساتھ اس نقش کو لکھنے کے بعد اس کو پانی کے مٹکے میں ڈال دیں۔ اور جب موقع ملے تو اس پانی سے کچھ پانی کے چھینٹے لڑکی کے باہر والے دروازے پر مارے اور ایک عدد نقش یہی لکھ کر لڑکی کے باہر والے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دبائے اور اس عمل کو کم از کم سات دنوں تک کرے۔ اگر اللہ نے چاہا تو لڑکی والے خود راضی ہو کر رشتے کی بات چلائیں گے۔ مگر اس کیلئے آپس میں برابر کا جوڑ ہونا شرط ہے۔ اس عمل کو زمین اور آسمان کا فرق دیکھ کر پھر کریں۔ ورنہ عمل کو غلط کنا صحیح نہیں ہوگا۔

نقش

ع م ع ل ا ح ا ا ا ہ ہ ح م ا ا ا ا ا ہ م

ح ح ح ح ا ح م ع ا ح ۹ ح ا a

ہ ا a

ان افراد کو سفلی علم کے ذریعے بستہ کیا ہو

اکثر سفلی علم کے ماہر اپنے علم کے زور پر چند روپوں کی خاطر ایسا عمل بھی کر دیتے ہیں۔ جس سے ان افراد کی شہوت ہندی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم بستری کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے یا ان کا اپنی شریک حیات سے مباشرت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس صورت میں یہ افراد اپنی شریک حیات سے بھی متنفر رہتے ہیں۔ اس کے علاج و حل کیلئے اس لوح کو اس وقت (سیسہ) پر کسی لوہے کی قلم سے کندہ کرے جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ پھر اس کو اپنی کمر پر باندھ لے۔ ہر طرح کا کیا ہوا عمل باطل ہوگا۔ لیکن اس کو غسل کی حالت میں اتار دے اور ہم بستری کرنے کے وقت بھی۔

سلام	قولا	من رب	رحيم
رحيم	من رب	قولا	سلام
قولا	سلام	رحيم	من رب
من رب	رحيم	سلام	قولا

### ترقی روزگار اور برکت کیلئے

یہ افراد کاروبار میں ہر طرح کی ہمدش دور کرنے کیلئے۔ اور اس میں برکت کیلئے اس نقش کو صبح سورج نکلنے کے ایک گھنٹہ بعد سفید کاغذ پر زعفران سے لکھیں۔ اور اپنی کاروباری جگہ پر ایسے مقام پر لگائے۔ جہاں ہر گاہک کی نظر پڑے اگر کاروبار خسارے میں بھی جا رہا ہوگا۔ تو انشاء اللہ اس نقش کی برکت سے عروج پکڑے گا۔ اور پہلے سے کہیں زیادہ چلے گا۔ پھر روزانہ نماز عشاء پڑھ کر اسی جگہ پر سورۃ فتح کو اکتالیس مرتبہ پڑھے اللہ کے حکم سے کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ انشاء اللہ

۲۲۲۱	۲۲۲۲	۲۲۲۳	۲۲۲۴
۲۲۲۵	۲۲۲۶	۲۲۲۷	۲۲۲۸
۲۲۲۹	۲۲۳۰	۲۲۳۱	۲۲۳۲
۲۲۳۳	۲۲۳۴	۲۲۳۵	۲۲۳۶

### ہر مرض سے شفاء کیلئے

اگر یہ افراد کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں۔ چاہے اس کا تعلق جسمانی مرض سے ہو یا روحانی سے تو یہ سورۃ فاتحہ ایک سو مرتبہ اکتالیس مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اور گیارہ مرتبہ چاروں قل شریف پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہئے۔

### رنج و غم سے نجات کیلئے

یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ اور نماز یا

جماعت ادا کیا کریں۔ اللہ کے حکم سے ان کے تمام غم اور دکھ ختم ہونگے۔ انشاء اللہ

### نظر بد سے مکمل نجات کیلئے

ان افراد میں ہر چھوٹے و بڑے کیلئے۔ یہ نقش کامل اکثر ہے۔ اس کو طلوع آفتاب کے وقت چاندی کے پترے پر کندہ کر کے اس کو موڑ کر کالی ڈوری سے اپنے گلے میں پہنیں بد نظری کا

یا اللہ ہو	۶۱۳۶۰	۶۱۳۳۷	یا اللہ ہو
۶۱۳۵۳	۶۱۳۵۸	۶۱۳۵۳	۶۱۳۵۷
۶۱۳۵۵	۶۱۳۵۲	۶۱۳۵۹	۶۱۳۳۷
۶۱۳۵۰	۶۱۳۶۱	۶۱۳۳۹	۶۱۳۶۲
یا اللہ ہو	۶۱۳۵۶	۶۱۳۵۱	یا اللہ ہو

قلان بن فلان

### ہر طرح کی فتوح حاصل کرنے کیلئے

ان کا در روزانہ دنوں کے حساب سے مقررہ تعداد کے مطابق کرے اور کسی سے اپنے ان مخفی اور ادا کا ذکر نہ کرے۔ اللہ کے حکم سے ان کی ہر میدان میں فتح ہوگی۔ اور ان کے تمام دشمن و حاسدان کے زیر اور مغلوب رہیں۔ انشاء اللہ

ہفتہ۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ

اتوار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

پیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث

منگل۔ اللہم صل علی محمد و علی آلہ محمد

بدھ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

جمعرات۔ استغفر اللہ ربہ من کل ذنب و اتوب علیہ

جمعہ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد لله



## اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں کفیل ہو

اُدھی رات کو وضو کر کر چھ رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد (حسبنا اللہ و نعم الوکیل) چار سو پچاس مرتبہ پڑھیں۔ پھر سلام پھیر کر بیٹھیں اور نو پچاس مرتبہ پھر یہی پڑھیں۔ اس عمل مبارک کی بدولت اللہ ہر کام میں حامی و ناصر رہے گا۔ یہ اکیلا ایک ہی عمل نہیں ہے۔ بلکہ آپ اسی عمل کے ذریعے اپنے حاسدوں کو فرمانبردار بنا سکتے ہیں۔ کشف غیب، اور سرداری، اللہ کا قرب اور تمام حاجات کی تکمیل، حصول بلند درجات، زمین و آسمان کے خزانے کھولنے کیلئے، اہل شہر کو مسخر کرنے کیلئے، بیمار یوں کی شفاء، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا و آخرت میں قرب الہی اور اولیاء کے درجات حاصل کرنے کیلئے، غرض کہ یہ عمل اتنے سارے کاموں کیلئے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب جائز شرائط پر عمل کرنے سے ہی ہوگا۔

### اختلاج قلب کیلئے

اس نقش کو طلوع آفتاب کے وقت زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے دل کے مقام پر باندھے۔ دل کے تمام عارضوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک عدد اور نقش تحریر کر کے پانی میں ڈال کر اس کا روزانہ نہار منہ پانی پیا کرے۔ اللہ کے فضل سے دل کے تمام عارضوں سے مکمل نجات ہوگی۔

۲۲۹۳۲	۲۳۹۳۵	۲۲۹۳۸	۲۲۹۳۵
۲۲۹۳۷	۲۲۹۳۶	۲۲۹۳۱	۲۲۹۳۶
۲۲۹۳۷	۲۲۹۵۰	۲۲۹۳۳	۲۲۹۳۰
۲۲۹۳۳	۲۲۹۳۹	۲۲۹۳۸	۲۲۹۳۹

### قوت ذہن و امتحان کیلئے

اپنے علمی کام میں غیبی مدد حاصل کرنے کیلئے۔ اور ذہنی صلاحیتوں کو قوی کرنے کیلئے۔ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں اپنے اور سات بہنتوں تک ہر بدبھ کی بدھ طلوع آفتاب کے وقت چینی کی ٹشتری پر زعفران سے لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر پئے۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ اس عمل کو وہ افراد بھی کر سکتے ہیں۔ جن کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ یعنی یہ دماغی لحاظ

سے پاگل پن کا شکار ہو گئے ہوں۔ تو اس صورت میں بھی اسی طرح اس عمل کو ان افراد پر باعث شفاء کیلئے کیا جاسکتا ہے۔ یا ان اعداد سے تعلق رکھنے والے بچوں کا پڑھائی میں ذہن نہ چلا ہو۔ اور ان کا ذہن تیز کرنے کیلئے بھی اس عمل کو کریں۔ اللہ کے حکم سے ہر دماغ کھل جائے گا۔ انشاء اللہ

۴۱۶۸۲	۴۱۶۸۵	۴۱۶۸۸	۴۱۶۹۱
۴۱۶۸۴	۴۱۶۸۷	۴۱۶۹۰	۴۱۶۹۳
۴۱۶۸۶	۴۱۶۸۹	۴۱۶۹۲	۴۱۶۹۵
۴۱۶۸۸	۴۱۶۹۱	۴۱۶۹۴	۴۱۶۹۷

### دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانا

اگر ان افراد میں سے کسی کی نیت ہو کہ ہمارا ذہن ہمیشہ نیکی کرنے میں زیادہ سوچ بوجھ رکھے تو اس عمل کی برکت سے ان کا ذہن نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل رہے گا۔ اس کیلئے ہر فرض نماز کے بعد دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر (اللہ) اور سینے پر (محمد ﷺ) بے شمار تعداد سے لکھے۔ اللہ کے حکم سے اس عمل کی بدولت دل اور دماغ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہو گئے۔

### تبادلے کی منسوخی کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی سرکاری یا غیر سرکاری نوکری کرتا ہو۔ اور ان کا افسران کا تبادلہ ایسی جگہ کرنا چاہتا ہو۔ جہاں ان کی مرضی نہ ہو۔ اور اس کا ایک ہی حل یعنی صرف تبادلہ ہو۔ تو یہ اس عمل کو کریں۔ اللہ نے چاہا تو ضرور کسی نہ کسی طریقہ سے ان کا تبادلہ منسوخ ہو جائیگا۔ اس عمل کو روزانہ بعد نماز عشاء سورۃ (تبت یدا) اس فرد کے نام کے حروف اجد کے مطابق پڑھے جو تبادلے کیلئے زیادہ کوشش کر رہا ہو۔ اور ان کو پریشان کرتا ہو۔ اللہ کے حکم سے تبادلہ منسوخ ہوگا۔

### حاسد یا دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے

اگر ان افراد سے کوئی حسد و بغض رکھتا ہو۔ اور ہمیشہ اوجھے، جھکنڈے ہی استعمال کرتا ہو۔ تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے۔ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء اس کو کثرت سے ورد کیا

کریں۔ انشاء اللہ ان کے حاسدوں کا وہی انجام ہوگا۔ جو وہ ان کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حاسد زیر اور مغلوب ہونگے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نصر من اللہ و فتح قریب

## جسم میں گرمی کے توڑ کیلئے

اگر جسم میں ایسی گرمی پیدا ہو جائے جو ڈاکٹرو حکیم حضرات کی پہنچ سے باہر ہو جائے۔ تو ایک ہی وقت میں (یا نار قہونی بردا سلام علی ابراہیم) (۱۱۰۰) مرتبہ پڑھ کر پانی کو لبال کر اس پر دم کرے اور نیم گرم ہی پی لے۔ اللہ کے حکم سے جسم میں ہر گرمی کا توڑ ہوگا۔ دین پر استقامت کیلئے یہ افراد اگر ہمیشہ ہی دین پر زندہ رہنا اور دین پر ہی اپنا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اس کی بدولت اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا میں دین ملے گا۔ اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

## شوگر کے خاتمے کیلئے

اگر شوگر خون میں ہو تو کچھ خالص گندم لائے۔ اور روزانہ ایک دانے پر سات مرتبہ پڑھ کر منہ میں ڈال کر ویسے ہی نگل جائے۔ (سورۃ البروج۔ والسماء ذات البروج سے عذاب الحریق تک) ۴۱ مرتبہ۔ اگر شوگر پیشاب میں ہو تو خالص تلہ پر حسب مقدار دم کر کے کھالے۔ ہر ایک طریقہ پر کم از کم اکیس دنوں تک عمل کرے اس کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کروائے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور فرق پڑیگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس عمل کو بار بار جاری رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا اضافہ کر لے۔ کہ خشک مکو کا سفوف صبح و شام ایک ایک تولہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرے۔

## بلڈ پریشر کا خاتمہ

لسن کا ایک جواز لے اور اسے صبح نہار منہ چھری سے اس طرح کاٹنے کہ یہ علیحدہ نہ ہو۔ پھر اس پر سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر زور سے پھونک مار کر نگل لے۔ پھر سوئف اور دھنیے کی گرمی ہم وزن لیکر دن میں تین مرتبہ کھائے۔ اس عمل کو اکتالیس دنوں تک کرے۔ اس مرض کا خاتمہ ہوگا۔

## سو وظیفوں کا ایک ہی وظیفہ

ہر مقصد ہر حاجت اور نیاداری کے ہر مقصد کیلئے۔ اس کو روزانہ ایک ہزار کی تعداد میں ورد کرنے کا معمول بنالے۔ ان افراد کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ

## امراض سینہ کے ہر مرض کیلئے

اس عمل کو کریں۔ اس نقش کو تانبے کے پترے پر دو عدد تعداد میں لکھیں۔ نقش کی تیاری میں زعفران استعمال کریں۔ ایک نقش کو اپنے سینے پر چپکے والی ٹیپ یا ڈوری کے ساتھ اس طرح باندھیں کہ نقش سینے کے اوپر رہے۔ اور دوسرے نقش کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی ہر وقت استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے سینے سے متعلق ہر مرض کا خاتمہ ہوگا۔

الم الم الم	الم الم الم	الم الم الم	الم الم الم
کھنکھن	طسم طسم	طسم طسم	طسم طسم
یس یس یس	حم حم حم	حم حم حم	حم حم حم
قق قق قق	صراط علی	صراط علی	حق نمسکہ

اب ع ع ع بحرمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

## دفع اختلام کیلئے

اس نقش کو زعفران سے لکھ کر رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے پر رکھ کر سونے اختلام نہیں ہوگا۔

هو القادر	هو القوی	هو العزیز	هو الجبار
هو العزیز	هو القوی	هو الجبار	هو القادر
هو الجبار	هو القوی	هو القادر	هو العزیز
هو القادر	هو القوی	هو العزیز	هو الجبار

## درودانت سے نجات کیلئے

ان حروف کو کالی سیاہی سے لکھ کر دانت پر مل کر چلائے اور اس کی دھونی لے۔  
 ف ر ع و ن ق ا ر و ن م ر و د ش د ا ش ه ا م ا ن ا ب ل ی س ا ب و ج  
 ه ل ف ر ع و ن ق ا ب ی ل ش د ا د ه ا م ا ن ا ب ل ی س ق ا ر و ن

## عذاب قبر سے نجات کیلئے

جو بھی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الم سجدہ اور تبارک الذی پڑھ کر سوائے تو اس  
 دور ان اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو سیدھا بہشت میں جائے گا۔ اور قیامت آنے تک قبر کے  
 عذاب سے محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ

## فحش گفتاری کی عادت سے بچنے کیلئے

ان افراد میں سے کسی کی زبان ہر وقت بجواس ہی کرتی ہو۔ تو یہ کثرت سے استغفر اللہ  
 کھل پڑھیں۔

## دفع بلیغ کیلئے

اس مرض کا اگر علاج کروا کے تھک گئے ہوں۔ تو روحانی علاج کے طور پر سفید نمک کی  
 چھوٹی چھوٹی سات کنکریاں لیکر ہر ایک کنکری پر علیحدہ سورۃ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر  
 کے نکل لیا کریں۔ یا نکلنے کے بعد پانی پی لیا کریں۔ اللہ کے حکم سے شفاء ہوگی۔

## ڈراؤنے خواب اور حصار کیلئے

ان میں سے کوئی فرد بھی اگر رات کو سونے سے پہلے سات مرتبہ (اعوذ باللہ من  
 الشیطن الرجیم) سات مرتبہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم) سات مرتبہ (لا  
 حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم) اور سات مرتبہ (آیت الکرسی) پڑھ کر  
 اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تین مرتبہ تالی جائیں تو اس عمل سے سارا گھر اللہ کی پناہ میں  
 رہے گا۔ اور کبھی بھی غیر انسانی مخلوق اگر نہیں ستائے گی۔ اور نہ ہی مزاج کے خلاف کوئی خواب  
 آئے گا۔ عمل کرنے کے بعد اگر کوئی چور بھی آئے گا۔ تو کوئی چیز نہیں چرا سکے گا۔

## تنگی معاش کے خاتمے کیلئے

ان افراد کو اگر کوئی دوسرا شخص عمل کے ذریعے پریشان کر رہا ہو۔ اور اس سے ان کے کمائی کے ذریعے میں خلل واقع ہو رہا ہو۔ تو اس عمل کی بدولت ان کو کوئی بھی کسی عمل یا دوسرے ذرائع سے پریشان نہیں کر سکے گا۔ وقت مقررہ پر روزانہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ تیسرا کلمہ پانچ سو مرتبہ پڑھے لیکن پڑھنے کا ایک ہی وقت ہو۔ دن بدن اور ترقی کے راستے ہمیں گے۔

## اضافہ علم اور کامیابی امتحان

یہ افراد اس نیت سے (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) کثرت سے ورد کریں۔ اور صبح نہار منہ اسی کو سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ ان افراد کا ذہن کھلے گا۔ اور علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو گا۔ انشاء اللہ

## دفع یواسیر

اس مرض کے کھل خاتمے کیلئے اس نقش کو لکھ کر اپنی کمر پر باندھ لے۔ اور دوسری آیت کو صبح نہار منہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ کمر والا نقش بندھا رہے اور پینے والا تا حصول مقصد جاری رکھیں اللہ کے علم سے یواسیر جیسے موذی مرض کا خاتمہ ہو گا۔ انشاء اللہ

یا رحیم کل صریخ و مکروب یا رحیم و صلی اللہ علی خیر خلقہ  
محمد و اصحابہ اجمعین۔ فلان بن فلان

طسبو	سلحج	سسس	سلحج	ملوواب
سلحج	سسس	سلحج	ملوی	سلحج
سسس	سلحج	ملوسق	سلحج	تصنو
سلحج	ملوار	سلحج	تصنو	سسس

## زیارت نبی کریم ﷺ

اگر ان افراد کو اس بات کی خواہش ہو۔ تو سب سے پہلے اس بات کا پتہ کریں کہ ہمارے نبی ﷺ کو کیا پسند تھا۔ اور کایا پسند تھا۔ کیونکہ یہ اس عمل کی سب سے پہلی اور آخری شرط

ہے۔ اگر اس عمل کو اس کے برعکس کریں گے۔ تو کامیابی کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ اس لئے اپنے آپ کو پہلے ظاہری اور باطنی طور پر شریعت کے مطابق بنائے۔ پھر اس عمل کو کرے ایک عدد چراغ جلا کر جہاں یہ عمل کرنا ہو خوشبو سے معطر کرے۔ اور رات کو سونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ (سورۃ الکوثر) پڑھے۔ اور چراغ نہ بجھائے اگر نیند غالب آئے تو وہی سو جائے۔ اس عمل کو کم از کم اکیس دنوں تک جاری رکھے۔ اگر نصیب میں ہوگا۔ تو زیارت ضرور ہوگی۔ انشاء اللہ

### وساوس شیطانی

ان افراد میں سے اگر کسی کو شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں۔ اور ان کی زندگی ان شیطانی شرارتوں کے سامنے وبال بن جائے تو روزانہ رات کو سونے سے قبل ایک تسبیح (سورۃ تاس) کی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جلیا کریں۔ اور اس عمل کو کرتے رہیں۔ دنوں کی کوئی قید نہیں۔

### حصول ملازمت کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کو ملازمت نہ مل رہی ہو اور اس بات سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ تو تہجد کے وقت دو رکعت نفل اس طریقے سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سات مرتبہ الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قل یا ایھا الکفر ون پھر دوسری میں سات مرتبہ الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور نماز ختم کر کے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ میں جا کر ۵۷ مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھے پھر دعا کرے اس عمل کو اپنے مقصد کے حصول تک جاری رکھے۔ اللہ کے حکم سے اس روحانی عمل کی بدولت ان کو بہت اچھی نوکری مل جائیگی۔ انشاء اللہ

### پہلا اور آخری چلہ

ہر طرح کے مقصد کیلئے اس چلہ کو کرے اس کیلئے دریا پر جائے اگر دریا نہ ہو تو نہر کے کنارے اس عمل کو کرے۔ چھ گز کا کپڑا لاکر تین گز کی بگڑی اور تین گز کی تہ بند بنائے۔ نوچندی جمعرات کا روزہ رکھے۔ اور صبح نماز کے بعد دریا یا نہر کے کنارے جائے۔ اور وہاں جا کر غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد جو بگڑی ہوگی اسے تہ بند بنائے اور جو تہ بند تھی اسے بگڑی بنائے پھر ان کپڑوں کو حفاظت اپنے گھر میں رکھے۔ اب جو اگلے مہینے نوچندی جمعرات آئیگی۔ پھر اسی طریقہ کو دہرائے اس طریقہ کو کم از کم سات نوچندی جمعراتوں تک جاری رکھے۔ یا اگر اس دوران

اس متعلقہ عمل کے بزرگ سے ملاقات ہو جائے۔ تو عمل کو چھوڑ دے مگر اس بزرگ سے انگوٹھی لینے کے بعد اس انگوٹھی کو سنہال کر رکھے۔ غیب سے خزانہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس تمام عمل میں صرف اسی کو بھرت پڑھنا ہوگا۔

یکیدون کیدا و اکید کیدا

عدد (1) اور (4) مرد حضرات کے دوست افراد

عدد (9) ستارہ مرتجہ برج حمل و عقرب

آبان، آتم، آثار، آدم، آزادہ، آشام، آصف، آماج، آمال، ایتسام، اشیر، اخفش، اذفر، ارتسام، اروب، ارسلان، ارفع، اسحار، اسعد، اسلوب، اظہار، اکرم، امبر، امتیاز، امعان، انصار، انعام، مباتر، باجل، باسط، برید، برستان، بسیط، بصیرت، بکیت، بلال، بنیس، بیان، بیرم، بیلسان، پرواز، پرویز، پیروز، تبصیر، تراب، ترقب، تسکین، تسلیم، تصدق، تنویر، توضیح، ثاقب، جالب، جان، جاہ، جبال، جیاد، حرمت، حق، حکمت، حمایت، حمدون، حنبل، حنی، خطاب، خطیر، دائم، ذبیر، ذافر، ذبح، ذواد، راتب، رائس، رافع، رجیل، رحمت، رفیع، روق، رئیس، ریبال، زافر، زبدہ، زر، زر خیر، زواد، زیدان، ساحل، ساعد، ساقی، سالف، سراط، سرخیل، سعاد، سعید، سلاح، سلامت، سلسل، سلسل، سج، شادی، شان، شجاعت، شجیر، شحذ، شرافت، شعاع، شعبان، شعور، شکیل، شہباز، صارخ، صامت، صفی، صمصام، صنم، صواب، صویب، صہبائی، ضامن، طوٹی، عاجز، عارض، عارف، عافر، عاکف، عقبہ، عزت، عردام، عرفی، عروج، عروسان، عریف، عزیز، عسکری، عکاشہ، عمیدر، عنایت، عون، عوید، عزیز، عاشق، غشارب، غلام، فازع، فاروق، فرجام، فہیم، فیاض، قاہر، قاتل، قتم، قرنی، قرین، کابد، کریم، کسوم، کیان، کیس، گلال، گلفام، گنجور، لاریب، لیث، ماد، مام، مبتور، مترف، مجواد، محبت، محرم، مذنب، مروان، مزلم، مستعین، مسعود، مسکین، مصدق، مطلب، معروف، معلم، ملک، منذر، منہاج، منیف، مودت، مہدی، مروز، مہوش، مہند، میسرہ، ناخ، ناشط، نائل، نہمان، نجی، نریمان، نشاط، نصیل، نطیش، نقش، نقیب، نگینہ، ودرلیج، وراثت، ہاتف، ہرماں، ہرمز، ہفات، یزداں، یلدا، یونس۔



## عدد (2) ستاره قمر برج سرطان

آبض، آوار، آریز، آفاق، بدال، اہام، اشم، اجمل، احسن، انگر، اخلاص، ارتاش، ارشاد، ارہاب،  
 ارزق، اسد، اشتیاق، اشتر، اصغر، اعماز، اعوان، افضل، اقتداء، ایان، امروز، امین، باذن، بخش،  
 برکات، بخ، بواب، پارس، تامر، تبارک، تبریک، تجلی، تجللا، تعمم، تزیل، توفیق، ثمر، ثناء،  
 شین، جادل، جزا، جعفر، جماش، جمال، جملاء، جمیل، حازم، حاسن، حاطب، حامز، حدیفہ، حزیم،  
 حسان، حسرت، حلیف، خبیب، خبیر، خلیق، داسی، دلیل، دوست، ذکاوت، رازق، ربانی، ربیس،  
 رضا، رضی، رکز، رمضان، زید، سارب، سلاست، سلیمان، سید، شاداب، شاذ، شاہر، شایان، شخر،  
 شمائل، شمل، شہاب، شہزادہ، زمیر، ضاح، صاحب، صافر، صبح، صفوان، صمیان، صنان، ضابط،  
 ضح، طارف، طالع، طریف، ظافر، ظراف، ظریف، ظفر، عاقب، عالمگیر، عاکل، عرک، عقار،  
 عقیب، عکب، عکرمہ، علی، عنیان، عوز، فاضل، فاطر، فتح، فہیل، فرمان، فروزان، فضیل،  
 فلاح، قاضی، قانت، قدرت، قدس، قربان، قرف، قریح، قزل، تقام، کیف، کیقباد، گل تر،  
 گوگا، گوہر بار، لبان، لطف، لعان، ماکت، مامون، مبارک، مبشر، متوکل، مجتہد، مجرب، محران،  
 مدار، مراد، مرام، مرتاص، مرث، مرزوق، مرصاد، فرید، مستان، مستبد، مستعان، مسرور،  
 مسج، مشاش، مطہر، مظہر، معنی، مغیث، مقسط، ممتاز، منصب، منظر، منعم، موافق، مر، میمون،  
 نابل، ناہ، نبال، نجار، نجیب، نشوان، نصرت، نفیس، نقاد، نورانی، نوشاہ، نوشیر، وال، واسح، ہادی،  
 بیکل، بجی، ایمان، یحییٰ۔

## عدد (7) ستاره قمر برج سرطان

اتک، آرت، آرزو، آشیب، آفتاب، آمر، لبد، لبر، اہیم، اریق، احمار، ارتضاء، ارسانخ، ارشق، ارکب، ار،  
 بازیذ، اختیار، بداء، بردار، بسالت، بشار، بعر، بلیغ، بیلا، تاجور، تاشف، تائب، تاجر، تبریز، تبسم،  
 تجاسر، تصعید، تعظیم، تقویم، تمجید، حکمین، تنفیذ، جہارت، جوہر، جیش، چراغ، حارث، حاشم،  
 حسین، حشام، حفص، حقانی، حلیم، حمد، خاذر، خضر، دلاور، ذخار، ذلاقت، راصد، راقم، راکب،  
 رباب، رستم، رشیق، رغد، رفاقت، روشن، ربیعان، زائل، زخار، زمیت، زوار، سادات، سحر،  
 سراج، سرتاج، سرور، سلطوت، سفینہ، سمین، سهام، سعیر، سہیم، شارق، شہر، شفقت، شہزادہ،  
 صادر، صارم، صبحان، صبوح، صرام، صلت، صلیل، صمیر، صیان، صیزم، ضاہر، ضرغام، طارم،

طالش، طین، طراد، طرفس، طلال، طلحہ، طمار، طمل، عابس، عاطف، عامد، عائل، عباس، عدان،  
 عدید، عدیم، عرووی، عریس، عشرت، عکاس، عماد، عمید، عمیم، عنبر، غادی، غالب، غنا، غنی،  
 فاز، فائز، فخر، فروتن، قابل، قابوس، قانظ، قبیل، قوم، قدر، قدوہ، قمر، کابر، کاظم، کبار، کبیر،  
 کتمان، کرار، کفایت، کلمانی، گلبدن، گل شان، گوہر ریز، لینیق، لحن، لطافت، مبرور، مبروک،  
 متقدم، مجددی، محبت، محذّر، محکم، محرب، محشود، مدران، مرتبت، مرصود، مزن، مسرت،  
 مصالح، مظیب، معاد، معراج، مقبول، معصفت، مودب، مہامت، متاب، میر، مینو، مانج، نازش،  
 ناصر، ناطق، نجیب، نخب، نسیم، نصر، نصار، نصیر، نظر، نقی، نوید، واضی، وزیر، وصی، وفتی۔

### عدد (3) ستارہ مشتری برج قوس و حوت

آشفته، آغا، آفاتی، آفریدہ، آلف، آسو، اہدا، احتشام، احری، احسان، اخلاق، ارادت، ارژنگ،  
 ازیر، اسرار، اسید، اشہل، اصباح، اظفار، اعتماد، اعظم، افضال، اقدس، الیاس، امجد، انس،  
 اندک، بارز، باسل، بخت، بخار، بدین، بزل، بھارت، تاملہ، تحفیظ، تشبیب، تصور،  
 تطہیر، تکین، تلاطم، تنصیر، تنظیر، توفیر، تیمار، ثابت، ثانی، جاہظ، جاسر، جنیس، خرم،  
 خواجہ، خوشتر، خیام، ذاب، ذاکر، ذریر، ذکیر، ذلیق، ذوالکفل، ربیع، ریل، رفعت، ریاض،  
 زبیر، زرار، زید، سالک، سہ، سہیل، سہیل، سہیل، سراج، سفیان، سر، سندس، شادم، شجان، شزر،  
 شرجیل، شعب، شفا، شفق، شمیم، صاعد، صالح، صباح، صدف، صعد، صلاح، صومر، طاب،  
 طائر، طفیل، طیب، ظل، عارہ، عارب، عاشق، عاصم، عاقل، عبقر، عبل، غیر، عتق، عجب،  
 عرش، عصام، عفان، عقیل، عوض، عید، غازل، غاضر، غصیر، غلر، غلر اف، غفیر، غمیدر،  
 غمیس، غندر، غوث، فاتح، فارق، فاتح، فہیم، فراست، فصاحت، فقیر، قاتان، فوز، فیصل،  
 قاسم، قدسی، قدیس، قرہد، قسام، قسیم، قطب، قوام، قویم، قیوم، کاردار، کاوش، کواکب،  
 کیفی، گلپاش، گلستان، گنجینہ، لاجین، لحاظ، لزینق، لصیف، لطاف، لطفی، لطیف، ماثر، ناچہ،  
 مبرم، مبین، مشرب، متور، مثاب، من، مٹیب، مجددی، مجید، محاسب، محافظ، محدث، محزون،  
 مدبر، مدرب، مدعو، مران، مرسلین، مستطہر، مستنصر، مجور، مٹیب، مطاع، مطیع، مظاہر،  
 معشوق، مفیض، مکارم، مکرّم، مکیت، مکین، منار، مناظر، منتسب، مشعب، نیب، منیر،  
 مواس، ماجل، مادر، نافع، نجد، نجم، نریم، نزہت، وامتق، وکیل، ہانی، ہلال، یامین، یورش،  
 یوسف۔

## عدد (1) اور (4) مرد حضرات کے مخالف افراد

### عدد (6) ستارہ زہرہ برج ثور و میزان

آجر، آرج، آیت، ابصار، اجواد، احسان، احمر، احکم، اذہر، ارزام، ارفغان، اریب، اسلام، اصدق، اعدل، افروز، افشار، الماس، الامت، انطام، انوار، بارق، باری، باقر، بتیاز، برفش، برہان، بریق، بسمل، بحر، بلاول، بیطار، پاشا، تاویل، تجمل، تخمین، تفہیل، تقی، توکل، ثقیف، ثنین، ثقلین، جازم، جامع، جاوید، جشید، حاکم، حجت، حدیر، حریم، حسانت، حقیقت، حلال، حمزہ، حمیر، حیدر، حیرم، خاتم، خادم، خاور، خجستہ، خلدون، خوشنود، دانیال، داؤد، دلشاد، ذوالنون، ذوقی، ذبیب، راحت، رانخ، راغب، راقب، رجاء، رزین، رعنا، رمیض، زائل، زاہر، زین، زہاب، زہار، سدید، سفیط، سلطان، سمن، سمید، سفت، سویر، سہیل، سیف، سیمائی، شاب، شاپین، شرق، شطیب، شمشاد، شوکت، شیر، صاحب، صباحت، صحاب، صدیق، سرد، صنوبر، صوفی، صیدا، ضامر، ضمضم، ضمیر، طالب، طرفہ، طلاب، ظرافت، عادل، عافرین، عارن، عالم، عامل، عدم، عدیل، عذق، عصمت، عظمت، عفاف، عفیض، عقیف، عتبہ، عترہ، عیسیٰ، غابر، عالی، غریر، غففر، فاکک، فارو، فائق، فرقت، فریال، فرہ، فرید، فضیلت، فوق، فیروز، قاصد، قائد، قائم، قدوم، قرار، قریب، قیم، کادح، کامران، کلمان، کوشر، گلہاز، گلریز، گلزار، گوہر، لازم، لامح، لائب، لبق، لسان، ماوخ، ماسد، مباح، متجلی، مشر، مجاز، مجدد، مجیر، محاصر، محسان، محتوم، مخدام، مدرہ، مذکر، مراح، مرجان، مرسال، مرغوب، مرتخ، مساحن، مضباح، مصلح، مصون، معاویہ، معد، معظم، معوذ، معیل، مفتح، مفضل، مقدر، مقدس، مقصود، مجد، منان، منتصو، منصوص، منین، مودود، موبد، موبد، مندس، نبید، نجابت، ندرت، ندس، ندین، نذیر، نسل، نضر، نوال، واصف، وجیہ، ودا، وفاق، وہاج، ہدایت، ہریرہ، ہزیر، ہمان، ہود، ہوزان، یشب۔

### عدد (8) ستارہ زحل برج جدی و دلو

آباد، آتش، آثر، آمل، ابرار، ابار، اثر، اثنان، احشام، احمد، اخدان، اخضر، اوار، اویب، ارجون، ارقم، ارید، اسامہ، اساول، اسحاق، اسحر، اصمغہ، اطہر، اظہر، اعتبار، اعتصام، افسر، افسردہ، افصح، اقبال، اقر، اکیر، الطاف، اصل، امیز، انصر، انیق، بشیر، بطن، بہاء، بہنام، بکی، پایندہ،

تاج، تائیس، تستیر، تشنہ، تفید، تیمور، ثروت، جابر، جام، جبار، جبروت، جبل، جبیر، جبروت،  
جرار، جواز، جودت، جید، حاتم، حاذق، حارس، حافظ، حامد، حدید، حسیب، حفیظ، حماد، خاشع،  
خلف، خضر، ذی شان، رحل، رذاذ، رسول، روشان، ریحان، زاہد، زرناب، زفر، زمان، زمرود،  
ساجع، ساہر، سافر، سبح، سبط، سحاب، سخار، سہرخاب، سہر فراز، سہروش، سفیر، سودا، سیمان،  
شاد، شارب، شاکر، شباب، شبل، شبیر، شکلیب، شہامت، شہوار، صعود، صمد، صنوان، صوب،  
صہبا، صہیب، ضحیٰ، طائن، طاہر، طور، طہیر، ظاہر، ظہیر، عاتق، عاذب، عاسل، عاص، عابد،  
عذار، عسکر، عصفرا، عطاء، عظامہ، عفر، علیان، علوی، عمید، عیص، عثر، غفران، غمیر،  
غواص، غیاث، فاجر، فارس، فائض، فخری، فراس، فرزند، فرغان، فرقان، فروغ، فریدول،  
فریس، فصیح، فہد، فیض، قادر، قانی، قاتلی، قدوس، قدیر، قرہ، قوی، کاجب، کاشر، کبریا،  
کرم، گلاب، گلبدین، لباب، لیبب، لطفان، مازن، بسام، متبادر، منعم، متوجہ، مجاہد، محارب،  
محروس، محصن، محفوظ، محمود، مختار، مخلد، مدیح، مرحب، مستحل، مستطاب، مسلم، مشاہد،  
مشرف، مشکور، معان، معراج، معین، مفتی، ملیوب، ملدان، مدارج، منصف، منصوب،  
منصور، منظور، منور، موسیٰ، موفور، مہران، میان، ناب، ناصب، ناصر، ناظر، نائب، نہایت،  
نصیب، نصیر، نظیر، نعیم، نوروز، نوشیر، نہیان، نیر، نیک، وسیم، وقاص، ہرمان، ہندوس،  
ہویدا، یاس، یساول، یعقوب، یقین۔ یہ تمام نام عدد (1) اور (4) سے منسوب افراد کے مخالف  
افراد کے نام ہیں۔

## عدد (2) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		آ		
آبض	AABIZ	خوش	803	الخالق
آزار	AAZAR	فصل گل	902	الرزاق
آریز	ARAIZ	سردار	218	الخبیر
آفاق	AAFAQ	عالم	182	العلی
		ا		
ابدال	ABDAL	ولی	38	الواسع
ابھام	IBSHAM	معطر	344	الودود
اشیم	ASEEM	ادنی	551	المبدی
اجمل	AIMAL	تمام	74	الوالی
احسن	AHSAN	عمدہ	119	المتعالی
اھگر	AKHGAR	جوالہ	821	ذوالجلال والاکرام
اخلاص	IKHLAS	خلوص	722	المغنی
ارتاش	ARTASH	خوش حال	902	الضار
ارشاد	IRSHAD	ہدایت یافتہ	506	الہادی
ارہاب	ARHAB	شریف	209	الخالق
ارزق	ARZAQ	نیگلوں	308	الرزاق
اسد	ASAD	شیر	65	الخبیر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
العلی	812	شوق	ISHTIYAQ	اشتیاق
الواسع	506	شہرت یافتہ	ASHHAR	اشہر
الودود	371	صفر اووی	ASFAR	اصفر
المبیدی	479	بھرا ہوا	AAMAZ	اعماز
الوالی	128	مددگار	AAWAN	اعوان
المتعالی	911	ممتاز	AFZAL	افضل
ذوالجلال والاکرام	806	ماننا	IQTIDA	اقتداء
المغنی	92	پناہ	AMAN	امان
الضار	254	جاری دن	IMROZ	امروز
الهادی	101	سچا	AMEEN	امین
		<b>ب</b>		
الخالق	803	انگور کاشیرہ	BAZAQ	بازق
الرزاق	902	تختہ	BUKSHSH	بخش
الخبیر	623	رحمت	BARAKAT	برکات
العلی	632	فاخر	BALAKH	بلخ
الواسع	11	دربان	BAWWAB	بواب
		<b>پ</b>		
الودود	263	عمدہ	PARAS	پارس

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ت</b>		
المبیدی	641	بارغ نالک	TAMAR	تامر
الوالی	623	بزرگی والا	TABARAK	تبارک
المتعالی	632	مبارک دینا	TABREEK	تبریک
ذوالجلان والا کرام	443	روشن کرنا	TAJALLI	تجلی
المغنی	434	روشن کرنا	TAJALLA	تجلا
الضار	560	عزت دینا	TAMEEM	تعمیم
الهادی	497	نازل کرنا	TANZEEL	تنزیل
الخالق	596	ہدایت	TAOFEEQ	توفیق
		<b>ث</b>		
الرزاق	740	پھل	SAMAR	ثمر
الخبیر	551	حمد	SANA	ثناء
العلی	560	خواص	SEEN	شین
		<b>ج</b>		
الواسع	38	لڑاکا	JADAL	جادل
الودود	11	صلہ	JAZA	جزا
المبیدی	353	چھوٹی نہر	JAFAAR	جعفر
الوالی	344	طاقتور	JAMASH	جماش
المتعالی	74	حسن	JAMAL	جمال

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
جملاء	JAMLA	خوبصورت	74	ذوالجلال والاکرام
جیل	JAMEEL	پر جمال	83	المغنی
<b>ح</b>				
حازم	HAZIM	ہوشیار	56	الضار
حاسن	HASIN	نیک	119	الہادی
حاطب	HATIB	صحتمند	20	الخالق
حامز	HAMIZ	خوش باش	56	الرزاق
حذیفہ	HUZAIFA	آگاہ	803	الخبیر
حزیم	HAZEEM	عقل مند	65	العلی
حسان	HASSAN	خوبصورت	119	المواسع
حسرت	HASRAT	تمنا	668	الودود
حسین	HUSSAIN	خوبصورت	128	المبدي
حلیف	HALEEF	ہمد	128	النوالی
<b>خ</b>				
خبیب	KHUBAIB	تیز رو	614	المتعالی
خبیر	KHABEER	واقف	812	ذوالجلال والاکرام
خلیق	KHALEEQ	ہمد	740	المغنی
<b>د</b>				
دانی	DAHI	بہادر	20	الضار



اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الہادی	74	ثبوت	DALEEL	دلیل
الخالق	470	ساتھی	DOST	دوست
		ذ		
الرزاق	1127	عظمدی	ZAKAWAT	ذکوات
		ر		
الخبیر	308	رزق رساں	RAZIQ	رازق
العلی	263	اللہ کا بندہ	RABBANI	ربانی
الواسع	272	بیمادر	RABEES	رہیں
الودود	1001	رضامندی	RAZA	رضا
المبدی	1010	خوش ہونا	RAZI	رضی
الوالی	227	شریف	RIKZ	رکز
المتعالی	1091	مبارک	RAMAZAN	رمضان
		ز		
ذوالجلال والاکرام	209	توانا	ZABAR	زبر
		س		
المعنی	263	چلنے والا	SARIB	سارب
الضار	551	سادگی	SALASAT	سلاست
الہادی	191	پرامن	SULEMAN	سلیمان
الخالق	74	سردار	SYED	سید

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
-----	---------	------	-----------	----------

### ش

شاداب	SHADAB	ہر ابھرا	308	الرزاق
شاز	SHAZ	انوکھا	1001	الخبیر
شاہر	SHAHIR	نامور	506	العلی
شایان	SHAYAN	لا ابق	362	الواسع
شخز	SHAHAZ	آغاز	1100	الودود
شماکل	SHUMAIL	مزاج	371	المبدی
شمیل	SHMEEL	عادت	380	الوالی
شہاب	SHAHAB	روشن	308	المتعالی
شہزاد	SHAHZAD	بادشاہ	322	ذوالجلال والاکرام
شمیر	SHAHHEER	مشہور	515	المغنی

### ص

صاح	SABIH	جدید	101	الضار
صاحب	SAHAB	ساتھی	101	الہادی
صافر	SAFAR	برگزیدہ	371	الخالق
صبیح	SABEEH	خوبصورت	110	الرزاق
صفوان	SAFWAN	چمکیلا	227	الخبیر
صفیر	SAFEER	پرندے کی صدا	380	العلی
صمیان	SAMYAN	دلاور	191	الواسع

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الودود	191	بہادر	SANAN	صنان
		ض		
المبیدی	812	مدر	ZABIT	ضابط
الوالی	848	جوان	ZALEEH	ضلع
		ط		
المتعالی	290	جدید	TARIF	طارف
والجلال والاکرام	110	دانا	TALI	طالع
المغنی	299	نادر	TAREEF	طریف
		ظ		
الضار	1181	فاح	ZAFIR	ظافر
الهادی	1181	عظمت	ZARAF	ظراف
الخالق	1190	دانا	ZAREEF	ظریف
الرزاق	1190	کامیاب	ZAFEER	ظفیر
		ع		
الخبیر	173	نائب	AQIB	عاقب
العلی	371	شہنشاہ	AALAMGEER	عالمگیر
الواسع	101	درویش	AIL	عائل
الودود	290	بہادر	ARAK	عمرک
المبیدی	371	رنگین کپڑا	AQAR	عقار

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
عقوب	AQEEB	پیچھے والا	182	الوالی
عجب	AKAB	زندہ دل	92	المتعالی
عکرمہ	EKRAMA	قاصد	335	ذوالجلال والاکرام
علی	ALI	سرفراز	110	المعنی
عبان	ANBAN	تجربہ کار	173	الضار
عوز	AOZ	نیاز مند	83	الهادی
<b>ف</b>				
فاضل	FAZIL	افضل	911	الخالق
فاطر	FATIR	بنائے والا	290	الرزاق
فتح	FATAH	کامیابی	488	الخبیر
فحیل	FAHEEL	شریف	128	العلی
فرمان	FARMAN	حکم	371	الواسع
فروزان	FAROZAN	روشن	344	الودود
فضیل	FUZAIL	صاحب فضل	920	المبدی
فلاح	FALAH	بھلائی	119	الوالی
<b>ق</b>				
قاضی	QAZI	حکم لگانے والا	911	المتعالی
قانت	QANAT	فرمانبردار	551	ذوالجلال والاکرام
قدرت	QUDRAT	طاقت	704	المعنی

اسم الہی	حروف نجد	مطلب	انگریزی	نام
الضار	164	طاہر	QUDS	قدس
الهادی	353	قربانی	QURBAN	قربان
الخالق	380	حقدار	QARF	قرف
الرزاق	380	سردار	QAREE	قریج
الخبیر	137	سرخ	QAZAL	قرن
العلی	281	آلوار	QAMQAM	تقام
<b>ک</b>				
الواسع	110	سرشار	KAIF	کیف
الودود	137	عادل	KEQBAD	کیقباد
<b>گ</b>				
المبدی	650	حسین	GULTAR	گل تر
الوالی	47	سادہ	GOGA	گوگا
المتعالی	434	خوش گفتار	GOHARBAR	گوہر بار
<b>ل</b>				
ذوالجلال والاکرام	83	صنوبر	LABAN	لبان
المغنی	119	مہربانی	LUTF	لطف
الضار	191	نورانی	LAM-AAN	لعان
<b>م</b>				
الهادی	461	محل مزاج	MAKAT	ماکت

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الخالق	137	محفوظ	MAMOON	مامون
الرزاق	263	نیک	MUBARAK	مبارک
الخبیر	542	نوید دینے والا	MUBASSHIR	مبشر
العلی	470	کھڑا ہوا	MUTWAKID	متوکل
الواسع	452	جدوجہد	MUJTAHID	مجتہد
الودود	47	بزرگی	MAJD	مجد
المبدی	245	بہادر	MUJARRIB	مجرّب
الوالی	299	بیٹھا	MAHRAN	محران
المتعالی	245	دائرہ	MADAR	مدار
ذوالجلال والاکرام	245	خواہش	MURAD	مراد
المغنی	281	مقصد	MARAM	مرام
الضار	731	علم و ہنر	MARTAS	مرتاض
الہادی	740	صار	MARAS	مرث
الخالق	353	خوش قسمت	MARZOOQ	مرزوق
الرزاق	335	طالب	MARSAD	مرصاد
الخبیر	461	نادر شے	MARWAREED	مروارید
العلی	254	شاگرد	MUREED	مرید
الواسع	551	مشاہد	MASTAN	مستان
الودود	506	آزاد	MUSTABID	مستبد

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المبیدی	621	لجاد ماوا	MUSTA-AN	مستعان
الوالی	506	فرحان	MASROOR	مسرور
المتعالی	110	تسبیح کرنے والا	MUSABBIH	مسبح
ذوالجلال والاکرام	641	اصل	MASHASH	مشاش
المغنی	254	پاک	MUTAHHIR	مطہر
الہادی	1145	اظہار	MAZHAR	مظہر
الخالق	1100	بے نیاز	MUGHANNI	مغنی
الرزاق	1550	مددگار	MUGHEES	مغیث
الخبیر	209	عادل	MUQSIT	مقسط
العلی	488	زی وقار	MUMTAZ	ممتاز
الواسع	182	عمدہ	MANAB	منصب
الودود	1190	آنکھ	MANZAR	منظر
المبیدی	200	دولتمند	MUNIM	منعم
الوالی	227	مطابق	MUWAFIQ	موافق
المتعالی	245	سورج	MEHR	مہر
الخالق	146	مبارک	MAIMOON	میمون
<b>ک</b>				
ذوالجلال والاکرام	83	تیر باز	NABAL	نابل
المغنی	56	روکنے والا	NAH	ناہ

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الضار	83	تیر انداز	NABAL	نبال
الهادی	92	شریف	NABEEL	نبیل
الخالق	254	اصل	NAJAR	نچار
الرزاق	65	بہادر	NAJEEB	نجیب
الخبیر	407	متوالا	NASHWAN	نشوان
العلی	740	فتح	NUSRAT	نصرت
الواسع	200	عمدہ	NAFEES	نفیس
الودود	155	ناقد	NAQQAD	نقاد
المنبئی	317	روشن	NOORANI	نورانی
الوالی	362	نوجوان	NOSHA	نوشاہ
المتعالی	623	بہادر	NOSHERWAN	نوشیرواں
<b>و</b>				
ذوالجلال والاکرام	137	پھیلنے والا	WASIE	واسع
المعنی	146	فراغ	WASEE	وسیع
<b>ہ</b>				
الضار	20	رہنما	HADI	ہادی
الهادی	65	دبئیہ	HAIKAL	ہیکل
<b>ی</b>				
الخالق	29	زندگی دیا گیا	YAHYA	یحییٰ



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرزاق	101	مبارک	YAMAN	یران
الخبیر	110	برکت والا	YAMEEN	یمین

## عدد (7) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
<b>آ</b>				
آتمک	AATAK	سیسہ	421	الحلیم
آرت	AARAT	فنکار	601	الکبیر
آرزو	ARZOO	خواہش	214	المعید
آشیب	ASHEB	گھنا	313	الروف
آفتاب	AFTAB	سورج	484	المغنی
آمر	AAMIR	حاکم	241	الحلیم
<b>ا</b>				
ابد	ABAD	ہمیشہ	7	الکبیر
ابراہیم	IBRAHEEM	اللہ کا دوست	259	النمید
ابریق	ABREEQ	چکدار	313	الروف
احمار	AHMAR	معطر	250	الغنی
ارتقا	IRTAZA	پسندیدہ	1402	الحلیم
ارساخ	ARSAH	پائیدار	862	الکبیر
ارشق	ARSHAQ	خوبصورت	601	المعید
ارکب	ARKAB	مضبوط	223	الروف
ارم	IRAM	بہشت	241	الغنی
ازہار	AZHAR	کلیاں	214	الحلیم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الکبیر	142	نام پیغمبر	ISMAEEL	اسماعیل
المعید	502	مان جانا	IQRAR	اقرار
الروف	223	بڑا	AKBAR	اکبر
الغنی	511	دوستی	ULFAT	الفت
الحلیم	241	حکم	AMAR	امر
الکبیر	1051	جدید	ANZAR	انصر
المعید	277	مسرت	AORANG	اورنگ
الروف	178	خوبیاں	AOSAF	اوصاف
<b>ب</b>				
الغنی	205	بہادر	BABAR	بابر
الحلیم	313	حکمران	BADSHAH	بادشاہ
الکبیر	313	سر دار	BASHI	باشی
المعید	34	باعزت	BAYAZEED	بایزید
الروف	1213	خوش نخت	BUKHTIYAR	بختیار
الغنی	7	شروع	BIDA	بداء
الحلیم	403	پورا کرنا	BARAR	برار
الکبیر	493	بہادری	BASALAT	بسات
المعید	502	خوشی	BISHAR	بشار
الروف	502	انسان	BASHAR	بشر

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الغنی	1042	کامل	BALEGH	بلغ
الحلیم	43	دو آبیہ	BELA	بیلا
<b>ت</b>				
الکبیر	610	باز شاہ	TAJWAR	تاجور
المعید	781	مہربان	TASHIF	تاشف
الروف	403	محفوظ	TAIB	تاب
الغنی	610	تاز	TABAHHUR	تاجر
الحلیم	619	مسلم شخص	TABREZ	تمریز
الکبیر	502	خوشی	TABASSUM	تبسم
المعید	664	جسارت	TAJASUR	تجاسر
الروف	574	بلند ہونا	TASEED	تصعید
الغنی	529	بزرگی	TATEEM	تعظیم
الحلیم	556	بانا	TAQWEEM	تقویم
الکبیر	457	تعظیم	TAMJEED	تمجید
المعید	520	طاقت	TAMKEEN	تمکین
الروف	1240	باند کرنا	TANFEEZ	تنفیذ
<b>ج</b>				
الغنی	664	ہمت	JASARAT	جسارت
الحلیم	214	گوہر	JOHAR	جوہر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الکبیر	313	لشکر	JAISH	جیش
		ج		
المعید	1204	دیا	CHIRAGH	چراغ
		ح		
الروف	709	زمیندار	HARIS	حارث
الغنی	349	ہوشیار	HASHAM	حاشم
الحلیم	178	نیک	HUSNAIN	حسین
الکبیر	349	مقدس	HISHAM	حشام
المعید	178	طاقتور	HAFS	حفص
الروف	169	درست	HAQQANI	حقانی
الغنی	88	نرم خو	HALEEM	حلیم
الحلیم	52	تعریف	HAMD	حمد
		خ		
الکبیر	1501	عقلمند	KHAZAR	خازر
المعید	1600	رہنما	KHIZR	خضر
		د		
الروف	241	بہادر	DILAWAR	دلاور
		ذ		
الغنی	1501	گہرا	ZAKHAR	ذخار

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحلیم	1231	تیز زبانی	ZALAQAT	ذلاقت
		ر		
الکبیر	295	شیر	RASID	راصد
المعید	341	ادیب	RAQIM	راقم
الروف	223	سوار	RAKIB	راکب
الغنی	205	سازینہ	RUBAB	ریاب
الحلیم	700	بہادر	RUSTAM	رستم
الکبیر	610	خوشنورت	RASHEEQ	رشیق
المعید	1204	خوشنما	RAGHAD	رغد
الروف	781	ہمراہی	RIFAQAT	رفاقت
الغنی	556	چمکتا ہوا	ROSHON	روشن
الحلیم	331	عمدہ	REAN	ریعان
		ز		
الکبیر	43	بہادر	ZAHIL	زائل
المعید	808	لباب	ZAKHKHAR	زخار
الروف	457	باوقار	ZAMEET	زمیت
الغنی	214	ماکل ہونا	ZAWAR	زوار
		س		
الحلیم	466	بہر دار	SADAT	سادات

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الکبیر	268	صبح	HAR	سحر
المعید	331	جلدباز	SURRAA	سراع
الروف	664	خاوند	SARTAJ	سرتاج
الغنی	466	سردار	SARWAR	سزور
الحلیم	475	دبدر	SATWAT	سطوت
الکبیر	205	ہمت	SAFEENA	سفینہ
المعید	160	خالص	SAMEEN	سمین
الروف	106	قسمت	SAHHAM	سام
الغنی	340	حسین	SAEER	سیر
الحلیم	115	حقدار	SAHEEM	سیم
<b>ش</b>				
الکبیر	601	سورج	SHARIQ	شارق
المعید	502	بڑا	SHABBAR	شبر
الروف	880	مہربانی	SHAFQAT	شفقت
الغنی	322	بادشاہ	SHAHZADA	شہزادہ
<b>ص</b>				
الحلیم	295	ممتاز	SADIR	صادر
الکبیر	331	تیز نگوار	SARIM	صارم
المعید	151	خوبصورت	SUBHAN	صمان

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الروف	106	روشنی	SABOOH	صوبح
الغنی	331	قوی	SARAM	صرام
الحلیم	520	کشاہدہ	SALAT	صلت
الکبیر	160	جھنکار	SALÉEL	صلیل
المعید	340	وقت	SAMEER	صمیر
الروف	151	محفوظ	SIYAN	سیان
الغنی	340	دوانا	SAIRAM	صیرم
<b>ض</b>				
الحلیم	1006	بلندی	ZAHAR	ضاہر
الکبیر	2041	بر شیر	ZARGHAM	ضرغام
<b>ط</b>				
المعید	250	آگنید	TARAM	طارم
الروف	340	چکانا	TALASH	طاش
الغنی	61	عقلند	TABAN	طبن
الحلیم	214	تیز رفتار	TARAD	طراوا
الکبیر	349	تیز نظر	TARFAS	طرفن
المعید	70	فرخت	TAEAL	طلال
الروف	52	تازگی	TALAHA	طلحہ
الغنی	250	بلندی	TAMAR	طمار



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحلیم	79	بے باک	TAMAL	طمل
<b>ع</b>				
الکبیر	133	بہادر	ABIS	عاس
المعید	160	مہربان	ATIF	عاطف
الروف	115	قصد والا	AMID	عامہ
الغنی	106	خاندن والی عورت	AAHIL	عائل
الحلیم	133	جوان، شیر	ABBAS	عباس
الکبیر	124	جنت کا نام	ADAN	عدن
المعید	88	شمار	ADEED	عدید
الروف	124	نادر	ADEEM	عدیم
الغنی	277	اونچائی	URWA	عروئی
الحلیم	340	دولہا	AREES	عریس
الکبیر	970	خوشی	ISHRAT	عشرت
المعید	151	مصور	AKKAS	عکاس
الروف	115	ستون	EMAD	عماد
الغنی	124	دانا	AMEED	عمید
الحلیم	160	کامل	AMEEM	عمیم
الکبیر	322	صاف	ANBAR	عنبر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		غ		
المعید	1015	شیر	GHADI	غادی
الروف	1033	فاتح	GHALIB	غالب
الغنی	1051	دولت	GHINA	غنا
الحلیم	1060	مالدار	GHANI	غنی
		ف		
الکبیر	88	کامیاب	FAZ	فاز
المعید	88	فتح	FAIZ	فائز
الروف	880	مان	FAKHR	فخر
الغنی	736	عاجز	FIROTAN	فروتن
		ق		
الحلیم	133	لائق	QABIL	قابیل
الکبیر	169	خوبصورت	QABOOS	قابوس
المعید	160	مایوس	QANIT	قانظ
الروف	142	گروہ	QABEEL	قبیل
الغنی	196	جمع کرنا	QANOOM	قنوم
الحلیم	304	حکم	QADR	قدر
الکبیر	115	مثال	QADWA	قدوہ
المعید	340	چاند	QAMAR	قمر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ک		
الروف	223	بزرگ	KABIR	کابر
الغنی	961	خاموش	KAZIM	کاظم
الحلیم	223	غصہ پی جانے والا	KABAR	کبار
الکبیر	232	بزرگ	KABEER	کبیر
المعید	511	نگران	KITMAN	کتمان
الروف	421	سپاہی	KRRAR	کرار
الغنی	511	بخت	KIFAYAT	کفایت
الحلیم	151	فصح زبان	KALIMANI	کلمانی
		گ		
الکبیر	106	خوبصورت	GULBADAN	گل بدن
المعید	601	بے مثال	GULSAN	گل تان
الروف	448	موتی برسانا	GOHARREZ	گوہر ریز
		ل		
الغنی	142	عقل مند	LABEEQ	لیق
الحلیم	88	خوش خوانی	LAHAN	لحن
الکبیر	520	عمدگی	LATAFAT	لطافت
		م		
المعید	448	پاک	MABROOR	میرور

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الروف	268	سعید	MABROOK	مبروک
الغنی	584	پرانا	MUTAQADDIM	متقدم
الحلیم	61	نیا کرنا	MUJADDA-DI	مجددی
الکبیر	448	دانا	MAHIT	محت
المعید	1348	پرہیزگار	MUKHTAZIR	مختدر
الروف	1060	تجربہ کار	MUKHTAK	مختک
الغنی	250	بہادر	MAHRAB	محراب
الحلیم	358	مقبول حاکم	MAHSHOD	ممشود
الکبیر	295	سادہ سا	MIDRAN	مدران
المعید	1042	معزز	MARTABAT	مرتبت
الروف	340	امید رکھا گیا	MARSOOD	مرصود
الغنی	97	طریقہ بادل	MAZAN	مزن
الحلیم	700	خوشی	MUSARRAT	مسرت
الکبیر	169	نیک	MASALIH	مصالح
المعید	61	اچھا	MUTEEB	مطیب
الروف	115	بازگشت	MUAD	امعاد
الغنی	160	نسخ، اعادہ کرنے والا	MAAN	معن
الحلیم	124	ساتھی	MUEED	معید
الکبیر	259	چابی	MIFTAH	مفتاح

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المعید	178	پیارا	MAQBOOL	مقبول
الروف	446	کھلا	MUKSHIF	مکشف
الغنی	52	اخلاق، ادب والا	MUADDIB	مودب
الحلیم	448	پر شکوہ	MAHABAT	مہارت
الحلیم	448	چاند	MAHTAB	مستاب
المعید	250	سردار	MEER	میر
الروف	106	فردوس	MENO	مینو
<b>ن</b>				
الغنی	124	رحمدل	NAJI	ناجیح
الحلیم	358	فخر	NAZISH	نازش
الکبیر	1051	تروتازہ	NAZIR	ناضر
المعید	160	عقلمند، بولنے والا	NATIQ	ناطق
الروف	133	منفید	NAJEE	نجیع
الغنی	952	خوجہورت	NAKSHAB	نخشب
الحلیم	160	معطر، ہوا	NASEEM	نسیم
الکبیر	340	ظفر، مدد	NASR	نصر
المعید	1051	خالص سونا	NAZAR	نضار
الروف	1060	آب وار	NAZEER	نضیر
الغنی	1150	بصارت	NAZAR	نظر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحلیم	160	پاک و صاف	NAQI	نقی
الکبیر	70	خوش خبری	NAVEED	نوید
		و		
المعید	817	مکمل	WAZI	واضحی
الزوف	223	دیوان	WAZEER	وزیر
الغنی	106	وصیت کیا گیا	WASI	وصی
الحلیم	196	کامیاب	WAFEEQ	وفیق

## عدد (2) اور (7) مرد حضرات کا فال نامہ

ان افراد پر زیادہ تر پریاں عاشق ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی بیماری کی اصل جیاد یہ ہے کہ مریض پیر والے دن اللہ کا نام لئے بغیر کسی چوراہے یا یہودیوں کے قبرستان سے گزرا ہے۔ اور اس جگہ پر رہنے والی پری نے اس پر نظر کی ہے۔ اور اسے نقصان پہنچایا ہے۔ ان افراد کی زیادہ تر بیماری نظر بد کے باعث ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ اپنے کاموں پر زیادہ اترا تے ہیں۔ اور دوسرے افراد سے اپنے حاضر دماغ ہونی کی داد وصول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو دوسرے افراد سے داد ملنے کی بجائے الٹا بد نظر ہو جاتی ہے۔ اور ان کو پری اور لوگوں کی نظروں سے بیک وقت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لئے یہ زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ایسے مریض پر پیاس کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ جو خون کے دباؤ اور بلغم کی زیادتی کے باعث ہوتا ہے۔ ان بیماریوں اور امراض سے ہٹ کر انہوں نے جو بھی کسی بھی قسم کی نظر نیاز مانی ہوئی ہے۔ اس کے اتارنے میں جلدی کرے۔ ان افراد میں سے بعض افراد کو چلہ کرنے اور پڑھائیاں پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی ان کی مرض کی صحیح شناخت نہ ہو سکے تو یہ بات بالکل یقینی ہے کہ انہوں نے بغیر حصار کے یا ناقص حصار کے کوئی ایسی پڑھائی ضرور پڑھی ہے۔

جس کے عوض ان کی یہ حالت ہے۔ اور ان کے تمام کاموں میں رجعت ہو گئی ہے۔ اور اس لئے ان کا کاروبار اور گھریلو زندگی بہت بری طرح متاثر ہوئی اچھا بھلا چلا ہو اکاروبار بند ہو گیا۔ اس کے روحانی علاج کیلئے۔ اس عزیمت کو زعفران سے لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھو اور دوسری عزیمت کو بھی زعفران سے لکھ کر اس کو گلاب کے عرق میں ڈال کر اس کو روزانہ تھار منہ پئے

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم  
 ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في و  
 جوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الانجيل  
 كذرع اخرج شطاه فازره فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزراع  
 ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا و عملوا الصلحت منهم  
 مغفرة و اجر عظيم۔

(فلان بن فلان) ان آیات کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَعِشْرِ الْجِنِّ وَالانْسِ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفِذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ فَاَنْفِذُوْا لَا تَنْفِذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ وَبِحَقِّ يٰ خَالِقُ يٰ رِزٰقُ يٰ خَبِيْرُ

يٰ عَلٰی يٰ وٰسِعُ يٰ وِدُوْدُ يٰ مَبْدٰی يٰ وٰلٰی يٰ مَتَعٰلٰی

(فَلان بن فلان)

ان آیات کو زعفران سے لکھ کر گلاب کے عرق کی بوتل میں ڈال کر اس میں سے روزانہ حسب  
مقدار نماز منہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے بڑے سے بڑے جادو اور بڑی سے بڑی بد نظروں والی  
پری کا خاتمہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

عدد (2) اور (7) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ

یہ افراد ناکامیوں سے نہیں گھبراتے بلکہ خاموشی سے اپنے مقصد کے حصول کیلئے سر  
گرم عمل رہتے ہیں۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ ان افراد کو ہمیشہ ہی سے قابل اعتماد  
دوستوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اور ان کی تلاش و کوشش ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے۔ کیونکہ ان کے  
سب دوست ان کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے یہ افراد تہائی یا اکیلے پن سے نفرت کرتے  
ہیں۔ لیکن ایسا صرف ان کی زندگی میں عارضی طور پر ایک چھوٹا سا دور آتا ہے۔ لیکن یہ وقت کے  
ساتھ چلتے چلتے اپنے آپ کو بھی پوری طرح سے بدلنے کا شعور رکھتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات تہائی  
میں بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ہر اس فرد اور ہر اس عورت سے مکمل طور پر گھبراتے ہیں۔ جو  
اخلاقاً طور پر بند مزاج ہو۔ اور بات بات پر نکتہ چینی کرتا ہو۔ ان افراد کی ان افراد کو ملنے سے جان  
جاتی ہے۔ اور یہ ایسی عادات رکھنے والے ان تمام افراد سے کم ہی ملتے ہیں۔ اور ان سے کم سے کم  
رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ایسے افراد کو ملنے سے یہ الجھن محسوس کرتے ہیں۔ ان افراد میں جو  
سب سے علیحدہ بات دیکھی گئی ہے۔ وہ یہ کہ یہ افراد اپنے ارد گرد دوسرے افراد کو ہنسانے میں ماہر  
ہوتے ہیں۔ مگر بعض اوقات نہایت سنجیدہ دکھائی دیں گے۔ جب کہ یہ اپنی دوستی کو اپنے تصور  
میں رومانس میں تبدیل کر لینگے۔ اور ہر ممکن طریقے سے محبوب یا محبوبہ کو منانے کا جتن کرتے  
ہیں۔ یہ تلخ حقائق کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ تلخ حقائق کو برداشت  
کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اگر ان افراد کی کوئی بھی نکتہ چینی کرے تو یہ فوراً لگ بھولہ ہو  
جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں رہتے اور اپنی پیشہ ورانہ، سماجی، اور



معاشرتی پریشانیوں اور مشکلات کو باآسانی حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوبی کے طور پر یہ افراد کسی سے بھی گفتگو میں اختلافات پر فوری طور پر قابو پا لیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض افراد ایسے جذباتی ہوتے ہیں۔ کہ جذباتی ماحول میں یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔

## عدد (2) اور (7) مرد حضرات کے عملیات

### جادو سے محفوظ رہنے کیلئے

یہ افراد اپنے دشمنوں اور حاسدوں کے ہر وار کو خطا کرنے کیلئے۔ اس آیت قطب کو اس نقش کے ساتھ زعفران سے سفید کاغذ پر اس وقت لکھیں جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ پھر اس کو چاندی میں بند کروا کر اس کو اپنے گلے میں پہنیں۔ اور ایک عدد دوبارہ لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کا روزانہ صبح نہار منہ پانی پیئیں۔ اللہ کے حکم سے ان پر کیا ہوا جادو باطل ہوگا۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة  
نعاسا يغشى طائفة منكم و طائفة قد اهتمهم انفسهم يظنون بالله  
غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر شيء قل ان الامر  
كله لله يحفون في انفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من  
الامر شيء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب  
عليهم القتال الى مضاجعهم وليبتلى الله ما في صدوركم و  
ليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فلان بن فلان

بسم الله الرحمن الرحيم

م ت ن ف	ح ب ع	ب ش م ن	ب ش م ن
ب ح م ن	ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن
ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن
ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن
ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن	ب ش م ن

## معدہ کی بیماری ختم کرنے کیلئے

اس کو حکمت کے طرز پر استعمال کرے۔ تخم تارا میرا ایک چھٹانک، آدھ پاؤ سوئف، ایک تولہ آٹے، ایک تولہ بھیرے، آدھ پاؤ ینگ ہریڑ چھوٹی کو علیحدہ دہی گھی میں بھون کر خشک کریں۔ پھر دوسری ادویات کو اچھی طرح کوٹ چھان کر ان سب کو باہم آمیز کریں۔ پھر روزانہ کھانا کھانے کے بعد دو گرام پانی کے ساتھ کھائیں۔ اپنے کھانے کے اندر کالے نمک کو استعمال کریں۔ دوسرا عام نمک استعمال نہ کریں۔ اور پھر اس طرح الحمد شریف کو مفردات میں زعفران سے لکھیں۔ اور اپنی ناف کے مقام پر چپکنے والی ٹیپ کے ساتھ ناف کے اندر لگادیں۔ معدہ کی تمام بیماریوں میں یہ ان افراد کیلئے۔ روحانی و حکیمی علاج کے طور پر کامل اکثر ہے۔

ب س م ال ل ہ ال ر ح م ن ال ر ح ی م ل ح م د ل ل ہ ر ب ال ع ال م  
ی ن ال ر ح م ن ال ر ح ی م م ال ک ی و م ال د ی ن ای ی ال ک ن ع  
ب د و ای ال ک ن س ت ع ی ن ا ہ د ن ال ص ر ا ط ال م س ت ق ی  
م ص ر ا ط ال ل ذ ی ن ان ع م ت ع ل ی ہ م غ ی ر ال م غ ض و ب  
ع ل ی ہ م و ل ان ض ال ی ن

## سانس کی بیماری کیلئے

حکمت کے طور پر پٹھ کنڈا اس کلودھوپ کی چھاؤں میں خشک کریں۔ پھر اسکو آگ میں جلا کر اس کا نمک حاصل کریں۔ اور اس نمک کو دورتی صدف میں ملا کر ایک رتی اسی نمک کی ملا کر دودھ کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے کھالیں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں اسی نیت باندھیں۔ اس کو اس مرض کے دور کرنے کیلئے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ نقش بہت سی مختلف امراض میں کام آتا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کی اس پاک کلام کے ذریعے شفاء یقیناً ممکن ہے۔ اور یہ نقش ہر لحاظ سے اس عدد سے تعلق رکھنے والے افراد سے منسوب ہے۔

## گردوں کی بیماری کیلئے

حکمت اور روحانی طور پر اس مرض پر قابو اور ہمیشہ کیلئے محفوظ رہنے کیلئے۔ ایک قسم کی بوٹی ہے۔ جسے بھرا کہتے ہیں۔ اسے اس طریقے سے اتاریں کہ سورج کی روشنی اس پر نہ پڑے اور پھر اسے کسی سایہ دار جگہ خشک کریں۔ اور کھول میں پیس کر اس کے سفوف کو ایک تولہ کی

خوراک کے برابر سٹے کے بالوں کو پانی میں ڈال کر گرم کرنے کے بعد قہوہ بنا کر اس کے ساتھ کھائیں۔ اگر گردے میں پتھری بھی ہوگی۔ تو اللہ کے حکم سے خارج ہوگی۔

النیم انی	السنک	یا سنانک	النحسنى
النریا	خالق النور	یا منبرا	النور الی
نور نور	نور اقبل	نور بعد	نور الی
یا نا حرا من	یا کراہ	یا محیہ	یا محیہ

### گھٹنوں کی بیماری کیلئے

ایک تولہ زعفران، ایک گرام کستوری، ایک تولہ پیٹنگ حبیبی، ایک تولہ کمر کس، ایک تولہ عقر قرہا، ایک تولہ مصطلک رومی، ایک تولہ سفید موسلی، ایک تولہ رام کا تخم، ایک چھٹانک بوہڑ کا دودھ، آدھ پاؤڈر کالی مرچ، دو تولے الائچی خورد، ایک پاؤڈر شیر مدار کی جڑ کی گرہ، ان سب کو کھل کی مدد سے پیس کر سفوف کی شکل میں حسب ضرورت شہد ڈال کر اس سفوف کی ایک رتی کی گولی باندھیں۔ ایک گولی دودھ یا مکھن کے ساتھ استعمال کریں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس کو اپنے گلے میں باندھیں۔ اللہ کے حکم سے ہر مرض کا خاتمہ ہوگا۔

۶۱۶۵۰	۶۱۶۵۱	۶۱۶۵۲	۶۱۶۵۳
۶۱۶۵۴	۶۱۶۵۵	۶۱۶۵۶	۶۱۶۵۷
۶۱۶۵۸	۶۱۶۵۹	۶۱۶۶۰	۶۱۶۶۱

### جلد کی تمام بیماریوں کے خاتمے کیلئے

ان افراد کے منہ پر اگر دانے نکل آئے ہوں۔ اور اس سے تمام چہرے کی جلد خراب ہو جائے تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر دودھ میں ڈال کر روزانہ صبح اس دودھ کو روٹی کے ساتھ اپنے چہرے پر اس طرح لگائیں۔ کہ دودھ چہرے کے اندر جذب ہو۔ چہرہ نورانی ہوگا۔

## دل و دماغ کو نیک راستے پر لگانے کیلئے

اگر ان افراد کے ذہن پر ہر وقت شیطان کی شیطانیت غالب رہتی ہو۔ تو اپنے ذہن کو سکون و آرام اور اللہ کی طرف مائل کرنے کیلئے۔ یہ روزانہ اسماء کو صبح سورج نکلنے کے وقت سورج کے سامنے جلادیا کریں۔ نماز اور نوافل میں کثرت رکھیں۔ اور صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اس عمل سے انشاء اللہ دل و دماغ نیکی کی طرف زیادہ غالب رہیگا۔ اور شیطان اس فرد پر حکومت کرنا چھوڑ دیگا۔

پڑھنے کیلئے

بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله  
الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من  
الجنة والناس وبحق يا الخالق يا الخالق يا الخالق  
جلانے کیلئے

ل ی ا ح م ل ی ا غ و ر ل ی ا ف و ر ل ی ا ر ث ل ی ا ر و غ ل ی ا ر و ش  
ل ی ا س ل ش ا ب ل ی س ق ا ر و ن م ر و د ش د ا د ہ ا م ن ا ب ل  
ی س ق ا ر و ن م ر و د ا ب و ج ہ ل ف ر ع و ن ق ا ر و ن م ر و د  
ش د ا د ا ب ل ی س ا ب ل ی س م ل ع و ن ا ن  
تبادلے کی منسوخی کیلئے

اگر ان افراد کو کوئی زبردستی تبادلے پر اکساتا ہو اور ان افراد کی مرضی نہ ہو۔ تو اپنے تبادلے کو منسوخ کروانے کیلئے۔ یہ اپنے گھر کے نزدیک کسی دربار یا مزار پر جائیں۔ اور وہاں سلام اور فاتحہ خوانی کریں۔ پھر وہاں پر (الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ نظر رحم نظر کرم) کو تب تک پڑھیں جب تک پڑھنے کو دل کر رہا ہو۔ جب عاجز آجائیں تو واپس اپنے گھر آجائیں اور اس عمل کو روزانہ اپنے مقصد کے حصول تک جاری رکھیں۔ اس عمل کی بدولت جو افراد یا جو فرد ان کے تبادلے کیلئے زیادہ زور لگا رہا ہوگا۔ وہ خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔

حاسد اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی ان کی جان کا دشمن بن گیا ہو۔ تو یہ اس کے ہر وار سے بچنے اور

اس پر غلبہ حاصل کرنے کیلئے۔ اپنے ان تمام دشمنوں کو جن کو یہ افراد جانتے ہوں یا جن کو یہ نہیں جانتے ان کا مکمل تصور باندھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وھی خاویۃ علی عروشہا بحق جمعسق و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے نام کے حروف ابجد کی تعداد کے مطابق روزانہ وقت مقررہ پر پڑھیں۔ اس کلام پاک کی برکت سے ان افراد کے تمام دشمن زیر اور ان کا اپنے دشمنوں پر غلبہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنی سیدھی بازو پر باندھ لیں۔

کل نفس لما	علیہا حافظ	فلینظر الانسان
مم خلق	خلق من ماء	دافق یخرج
من بین	الصلب	والقربان
فا اللہ خیر	حافظا وهو	ارحم الراحمین

### نامردی کے خاتمے کیلئے

اگر ان افراد کے دشمن نے ان کی کسی علم کے ذریعے شہوت باندھ دی ہو۔ اور یہ اس تکلیف کے سبب اپنی شریک حیات سے ہم بستری پر قادر نہ ہوں۔ تو اس عمل کو تین دنوں کی ترکیب سے کریں۔ یعنی تین دنوں تک بالترتیب اس عبارت کو کاغذ کے ٹکڑوں پر تحریر کریں۔ اور پانی میں ڈال کر جب اس کی تحریر مٹ جائے تو اس کاغذ کا ٹکڑا نکل جائے لیکن اس سے پہلے اس نقش کو چینی کی پلیٹ پر رکھ لیں۔ پھر اس نقش والی پلیٹ پر شہد ڈال کر تین دنوں تک چائے اس روحانی عمل سے ہر طرح بد عملیات کا اثر زائل ہوگا۔ اور پہلے کی طرح اپنی مردانگی محسوس کریگا۔ پہلے دن اس کاغذ پر تحریر کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھیعص یا حی یا قیوم و صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ اجمعین الہی بحرمة محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین ان تعافینی من العنة و تقدر لی علی الجماع الحلیلة و صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ اجمعین۔

دوسرے دن اس کو کاغذ پر تحریر کرے۔

بسم الله الرحمن الرحيم جمعسق یا صمد یا فرد یا ذا الجلال  
والاکرام لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین ان تعافینی من  
العنة وتقدر لی علی الجماع و صلی الله تعالی علی محمد وآله اجمعین  
تیسرے دن اس کو کاغذ پر تحریر کرے۔

کھيحص یا حی یا قیوم یا احد یا فرد ان تعافینی من العنة وتقدر لی  
علی الجماع و صل الله تعالی علی محمد وآله اجمعین۔

شوگر کے خاتمے کیلئے

اگر ان افراد کو شوگر ہو اور دواؤں سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو اس مرض سے شفاء حاصل  
کرنے کیلئے۔ روزانہ قرآن مجید کی اتنی تلاوت کریں۔ جب تک اس کا دل کر رہا ہو اور جتنا قرآن  
پڑھے پانی پر دم کر کے اسے پی لیا کرے۔ اور اس عمل کو مسلسل دل کی حضوری کے ساتھ  
کریں۔ شفاء ہوگی۔

سووظیفوں کا ایک وظیفہ

تاحتیات اس عمل پر کاربند رہیں۔ لا اله الا هو الرحمن الرحیم۔ کو کھلا جس مرضی نیت  
سے پڑھیں۔ یہ ان افراد کیلئے سووظیفوں کا ایک ہی وظیفہ ہے۔ دین سے لیکر دنیا تک کیلئے اس پر ہر  
طرح سے مداومت کریں۔ ہر حال میں کامیاب رہیں گے۔

زیارت حضور نبی کریم ﷺ

یہ ان افراد کیلئے ایک بے مثال تحفہ ہے۔ لیکن اس صورت میں کہ ان کو سرکار حضور نبی  
کریم ﷺ سے اتنی انیت ہو کہ اس جذبہ کے آگے دنیا کی کوئی شے محبوب اور عزیز نہ ہو۔ تب  
یہ عمل اثر کرے گا۔ اور اگر اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر داڑھی نہیں ہے۔ تو پھر اس عمل کو  
نہ کریں۔ بلکہ ہر اس طریقہ اور ہر اس عادت کو اپنانے کی عادت ڈالیں۔ جس سے حضور نبی کریم  
ﷺ کو پیار اور انیت ہے۔ جب اس راہ میں کمال پیدا کر لیا گیا۔ تو تب اس عمل کو کرنے کا ارادہ  
کریں۔ ورنہ سوائے نقصان اور وقت کے ضائع کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لئے سوچ سمجھ  
کر اس عمل کو کریں۔ اور روزانہ اکیس دنوں تک بعد نماز عشاء چراغ کو جلا کر اس آیت کو اتنی

مرتبہ پڑھیں کہ پڑھتے پڑھتے بے حال ہو جائے اللہ کے حکم سے نیت صاف اور سچی لگن ہونے کی صورت میں زیارت ضرور ہوگی۔ انشاء اللہ

سلام قول من الرحيم

برائے امساک

اگر یہ افراد اپنی شریک حیات کے ساتھ ہم بستری کرنے میں زیادتی چاہتے ہوں۔ تو اس نقش کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیں۔ اور یوں وقت ضرورت اس نقش کو موسم میں لپیٹ کر اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ نقش زبان کے نیچے رہیگا۔ انزال نہیں ہوگا۔

۱-۵۹۰۳	۱-۵۹۰۶	۱-۵۹۱۰	۱-۵۹۱۶
۱-۵۹۰۹	۱-۵۹۱۲	۱-۵۹۰۲	۱-۵۹۰۷
۱-۵۹۱۸	۱-۵۹۱۳	۱-۵۹۰۶	۱-۵۹۰۱
۱-۵۹۰۵	۱-۵۹۰۰	۱-۵۸۹۹	۱-۵۹۱۱

ان افراد کو تعویذات پلائے گئے ہوں

اگر ان افراد کو کسی عزیز نے تعویذات کے ذریعے مغلوب کیا ہو۔ اور ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہو۔ تو اس نقش کو دو عدد زعفران کے ساتھ لکھے ایک کو اپنے گلے یا بازو میں ڈال لے۔ اور ایک کو پانی میں ڈال کر اس کو روزانہ ہمارے منہ پانی پیا کرے۔ اللہ کے فضل سے جس کسی نے بھی تعویذات کھلائے یا پلائے ہوں گے۔ اس کے اثرات باطل ہوں گے۔ انشاء اللہ

یا اللہ شافی	یا اللہ کافی	یا اللہ معافی
سلام قول	من رب	الرحيم
سلام علی	نوح قی	العلمین
یا الشافی	یا الکافی	یا المعافی

سفر میں زکاوت دور کرنے کیلئے

اگر ان افراد کو کہیں باہر کے ملک میں سفر کرنا ہو اور ان کے راستے میں کسی نہ کسی طریقہ

سے رکاوٹ آتی ہو۔ تو اپنے سفر میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے اس کا بھرت ورد کریں۔ اور اس نقش کو ایکس دنوں تک روزانہ بعد نماز عشاء کاغذ پر تحریر رکھتا رہے اور پھر دریا میں ڈال دے۔ سفر میں تمام مشکلات اور رکٹوں کا مکمل خاتمہ ہوگا۔

لا اله الا هو الرحمن الرحيم و بحق لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين (فلان بن فلان) میرا مقصد ان آیات کے ذریعے حل ہو

۵۱۹۰۶	۵۱۹۹۹	۵۱۵۰۱
۵۱۹۰۵	۵۱۹۰۲	۵۱۵۰۰
۵۱۹۰۰	۵۱۹۰۰	۵۱۵۰۰

### اگر ایک ہی فرد کی نظر لگتی ہو

ان افراد میں سے اگر کسی کو ہر مرتبہ ایک فرد کی ہی نظر لگتی ہو۔ تو چوراہے سے ایک روڑا اٹھا کر لائے۔ اور اس پر نماز جنازہ اس شخص کا مکمل تصور باندھ کر پڑھے۔ اور اسے دریا میں ڈال۔ آئندہ کیلئے اس شخص کی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اس بات کا ثبوت ہو کہ اسی کی نظر لگتی ہے۔

### بھدہ چہرہ خوبصورت بنانے کیلئے

اگر دانے نکلنے نکلنے چہرے کی حالت خراب ہو گئی ہو۔ اور دانوں کے نشانات چہرے پر پڑ گئے ہوں۔ تو رات کو ایک سفید کاغذ پر اس کو تحریر کرے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کاغذ کو اپنے چہرے پر مل کر جلا دیا کرے۔ اس عمل سے آئندہ کیلئے محفوظ رہے گا۔ اور بعد میں اس نقش کو صبح سورج نکلنے سے پہلے پانی میں ڈال کر اس پانی سے منہ دھویا کرے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ یہ پانی زمین پر نہ گرے۔ کیونکہ اس سے گناہ ہوگا۔ جلانے والے حروف بس و خ ت م ا ن ت ت ع ل م م ا ف ی ق ل و ب ہ م ع ل ی ق ا م ل ی ق ا ط ل ی ق ا



یا النور	یا النور	یا النور	یا النور
یا المنور	یا المنور	یا المنور	یا المنور
نور بعد	نور قبل	نور بعد	نور قبل
یا النور	یا النور	یا النور	یا النور

### تسخیر و حب

اگر ان افراد کا محبوب ہمیشہ ہی ان سے ناراض رہتا ہو۔ اور اس بات کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیوں ناراض ہے۔ تو یہ اس آیت کو کثرت سے اپنے محبوب کا مکمل تصور باندھ کر پڑھیں اور محبوب سے ملنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور اپنے منہ پر دم کر کے اس کے رو برو جایا کریں۔ ان کا محبوب کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور اس میں زیادہ طاقت پیدا کرنے کیلئے۔ اگر ان کو اپنے محبوب کا کبھی سر کا بال مل جائے تو یہ اس نقش کے اندر اس بال کو رکھ اس نقش کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ محبوب ان کا ہمیشہ تابع رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ یَا خَیْر

المقصودین یا خیر المطلوبین یا خیر المحبوبین

اس کو اپنے محبوب کے نام کے حروف اجد کی تعداد سے پڑھے۔

قادو ساف	قاسو ساف	قاهو ساف	سونو ساف
سدود ساف	یونو ساف	دریو ساف	وما بین
الكاف	یا هییا	والنون	اشرا هییا
ساف یابیر	اهیا ساف	والبحر	فلان بن فلان

### ان افراد کے دشمنوں کے خاتمے کیلئے

اگر ان افراد کا کوئی ایسا دشمن بن جائے جس سے ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو۔ اور اس بات کا بھی مکمل خدشہ ہو کہ موقع ملنے پر ان کا دشمن ان کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تو اس صورت میں یہ افراد ایسی جگہ سے کچی اینٹ لائیں جہاں اینٹوں کا بھٹہ ہو۔ پھر اس پر اس عمل کو



## ادائیگی قرض کیلئے

ان افراد پر اگر قرض اتنا چڑھ گیا ہو۔ کہ اس کا ترنانا ممکن بن گیا ہو۔ تو اس دعا کو روزانہ بعد نماز فجر ستر مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ قرض کی ادائیگی کے ایسے وسائل پیدا ہونگے۔ کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اور بے شک کلام الہی میں بہت تاثیر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم فالق الاصبح وجعل الليل سكنا و  
الشمس والقمر حسبانا اقض عنى الدين واغننى من الفقر و متعنى  
بسمعى و بصرى و قوتى فى سبيلك

عدد (2) اور (7) مرد حضرات کے دوست افراد

عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

آثم، آزر، آذب، آزرہ، آشا، آسن، ائال، ائیل، اجتنان، اخوان، ادم، ارباط، ارجند، ارز، ارشاش  
اشتر، اصطفاء، اعجاز، افزاء، افق، اکرام، اکمل، امام، امن، انتخاب، انشاء، اوج، ایاز، ایثار، ایجاد،  
ایوب، برتر، برکت، بیامین، بہار، بہر، اذ، بھلول، تائش، تبریق، تذبیب، ترانی، ترجمان، تراہر،  
تسہیل، تصدیق، تفرید، تلمیذ، تکوین، توصیف، نمود، جدار، جدیر، جلال، جمل، جماگیر،  
خاجز، حاضر، حزم، حسام، حسم، حشمت، حق، حمس، حنان، خازن، خالص، خصال، خلوت،  
خلیط، دستگیر، دیان، دین، ذکاء، ذکی، راشد، رامش، رشاد، رشید، رمیل، زائر، زرق، زعمیم،  
زکاء، زکی، ساحت، ساطل، ساغر، سہر، سکندر، سلسال، سلمان، سمط، سیار، سماج، سفور،  
شادب، شائق، شبلی، شتاب، شحاذ، شفیع، شمشیر، صبور، صداقت، ضاحک، ضافر، ضیاء، طائظ،  
طراز، طروب، ظفر، غازم، عاطر، عار، عبادہ، عبود، عبیدہ، عرود، عزام، عزہول، عطار، عفت،  
عقیق، عمران، عمرس، عمرو، غازی، غاصف، غباشیر، غدن، غرز، فارح، فارض، فائق، فحیر،  
فریح، فضل، فواد، قاصف، قدیم، قنبر، کار، کافور، کابل، کاتب، کثیر، کلام، کلیم، کمال، گلبار،  
گنج، لاجورد، لمعات، لیک، لوی، لہاق، لیاقت، مالک، مان، متقی، متوکل، مجیب، مجیر، مخزن،  
مختار، محسود، مرتضیٰ، مرصد، معاذ، معید، مقبل، مقیت، ملاک، ملکوت، مناص، منج، مومن،  
ممکن، نابک، ناجی، ناشی، ناظم، نیاب، نیل، نزاکت، نسران، نصوح، نظام، نقاش،

نگار، نمود، نواز، نوح، نوشاد، واحد، واصل، واکل، وجاهت، وحید، وقار، ولی، باد، بارب، بارون،  
باید، باہم، ہجر، ہڈی، ہما، یاسر، یزدانی، یاور، یسار، یسیر، یمن۔

#### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آزاد، آغر، آل، ابریز، ابلی، اشلال، اجلال، اختر، احوز، اختر، اوران، ادباب، ارد شیر، ارزش، ارمان،  
ارہام، ازاد، اسبال، استحسان، اشعر، اصغر، اصلاح، اطیب، افتخار، اقتدار، انتصار، انجم، انیس،  
اوس، ایزد، باذل، باسم، بسام، بسیم، بصر، بقا، بمروز، تابان، تاثیر، تاشفین، تبرید، تبیان، تحذیر،  
تصویر، تقسیم، تہیم، تواب، ٹیپو، جاہ، جاذب، جالس، جان نثار، جاہد، جبران، جلیس، جمان،  
جنید، چاند، چاہت، حالی، حباب، حریر، حصن، حمدان، حمود، حنیف، خدیر، خلیل، خورشید،  
دانش، داور، ذکریا، ذوالقرنین، راجع، رحیب، رخام، رضوان، روحان، زریاب، زکریا، زیاد،  
زین، سالار، سبات، سبحان، سیوح، سجیل، سخی، سرحان، سعادت، سمیر، سویدہ، شانان، شاذب،  
شانی، شاہد، شرف، شریع، شعیب، شعیر، شفیق، شکور، شمشیر، شہام، شہید، صاغر، صغیر،  
صنات، صقیر، صلوت، صنیع، صولت، ضرار، ضوفشال، طارق، طاکل، طاؤس، طرب،  
طریق، طناز، طویس، طہران، طیاب، طیار، ظہور، عاتق، عبال، عبد، عبقری، عتیق،  
عثمان، عدنان، عرصم، عزیز، عندلیب، عین، غابط، غائر، غسان، فاکر، فائق، فقی، فدا، فرناس،  
فرحد، فصام، فلک، نگار، فواز، فوزی، فمید، فیاش، قاصر، قاطب، قراط، قستان، قدیر، قیصر،  
کرامت، کروٹی، کسام، گل رخ، گل رو، گلشن، گل، عذار، گلشنان، گلزار، گلہار، گولر،  
گوہر تاب، لازب، لازر، لطیفی، لعل، لقا، لیم، لیط، ماشل، ماح، ماصف، مانوس، معتطل،  
مفقود، شیل، محاط، محبوب، محترم، مخزن، مخلص، مخیر، مدام، مدید، مراتب، مزامر، مرجم،  
مرسوم، مزر، مستفیض، مستغیر، مسلمہ، میتب، مسیطر، مشتاق، مشمر، مشہود، مصطفیٰ، مصعب،  
معتز، مقتصد، مقدم، مگرام، مناقب، موقر، میرال، ناجد، ناموس، نثار، نجمی، نجید، نزاہت،  
نشدہ، نطور، نعمان، نکلن، نوازش، نور، نونل، واثق، واسط، وحدت، وواد، وفور، وہب، ہاشم،  
ہشام، ہصور، ہمایوں، یار، یاقوت، یسوت۔

## عدد (3) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
<b>آ</b>				
آشفۃ	AASHUFTA	عاشق	786	اللہ
آغا	AGHA	مالک	1002	المصور
آفاق	AAFAQI	عالمگیر	192	الغفار
آفریدہ	AAFREEDA	مخلوق	300	الفتاح
آلف	ALIF	محبت کرنا	111	القابض
آخو	AHO	ہرن	12	اللطیف
<b>ا</b>				
ابتدا	IBTIDA	شروع	408	العظیم
احشام	IHTISHAM	شان و شوکت والا	750	المجید
احری	AHRI	موزوں	219	الوکیل
احسان	IHSAN	نیکی کرنا	120	القیوم
اخلاق	AKHLAQ	مروت	732	الماجد
ارادت	IRADAT	ماننا	606	العنبر
ارژنگ	ARYANG	تصویروں والی کتاب	471	المعطی
ازبر	AZBAR	زبانی حفظ	210	النافع
اسرار	ASRAR	خفیہ باتیں	462	اللہ
اسید	USAID	بہادر	75	المصور

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الغفار	336	منور	ASHHAL	اشہل
الفتاح	102	صبح ہونا	ISBAH	اصباح
القابض	1182	فتح مندیاں	AZFAR	اظفار
اللطف	516	یقین	AETMAD	اعتماد
العظیم	1011	بہت بڑا	AAZAM	اعظم
المجید	912	ممتاز	AFZAL	انفصال
الوکیل	165	بہت پاک	AQDAS	اقدس
القیوم	102	دوسرا	ILYAS	الیاس
الماجد	48	نیک	AMJAD	امجد
العفو	111	محبت	UNS	انس
المعطي	75	تھوڑا	ANDAK	اندک
<b>ب</b>				
النافع	210	ظاہر	BARIZ	بارز
اللہ	93	شیر	BASIL	باسل
المصور	1002	نصیب	BAKHT	بخت
الغفار	1209	خوش قسمت	BAKHTAWAR	بختاوار
الفتاح	66	مضبوط	BADEEN	بدین
القابض	39	سختی	BAZL	بول
اللطف	903	خوشخبری	BASHARAT	بشارت

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ت</b>		
العظیم	462	روشن	TABINDA	تابندہ
المجید	1398	یاد کرنا	TAHFEEZ	تحفیظ
الوکیل	714	جوانی کا ذکر	TASHBEEB	تشیب
القیوم	696	دھیان، خیال	TASAWWUR	تصور
الماجد	624	پاک کرنا	TATHEER	تظہیر
العفو	480	بہادر	TAGEEN	تگین
المعطی	480	موجوں کا اٹھنا	TALATAM	تلاطم
النافع	750	عیسائی بنانا	TANSEER	تنصیر
اللہ	696	زیادتی	TAOFEEER	توفیر
المصور	651	ہمدردی	TEEMAR	تہار
		<b>ث</b>		
الغفار	903	قائم دائم	SABIT	ثابت
الفتاح	561	نظیر	SANI	ثانی
		<b>ج</b>		
اللطیف	912	خوبصورت آنکھوں والا	IAHIZ	جاخط
العظیم	264	بہادر	JASIR	جاسر
المجید	75	طاقتور	JABEES	جبینس

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		خ		
الوکیل	840	خوش	KHURRAM	خوہم
القیوم	615	مالک	KHAWAJA	خواجه
الماجد	1506	خوش حال	KHOSHTER	خوشتر
العفو	651	خیمہ ہائے والا	KHAYYAM	خیام
		ذ		
المعطی	903	عالم	ZABIR	ذابہ
النافع	921	شکر گزار	ZAKIR	ذاکر
اللہ	1110	خوشبو	ZAREER	ذریہ
المصور	930	مضبوط	ZAKEER	ذکیر
الغفار	840	خوش بیان	ZALEEQ	ذلیق
الفتاح	867	نام پیغمبر	ZUL-KIFL	ذوالکفل
		ر		
المقابض	282	شاداب	RABEE	ربیع
اللطیف	300	تحفہ، قاصد	RASEEL	ریسل
العظیم	750	بلندی	RIF-AT	رفعت
المجید	1011	گلزار	RIYAZ	ریاض
		ز		
الوکیل	219	مضبوط	ZUBAIR	زبیر



نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
زرار	ZARAR	باخبر	408	القیوم
زید	ZAID	فاضل	21	الماجد
<b>س</b>				
سالک	SALIK	رستہ چلنے والا	111	العفو
سبحہ	SUBHA	دعا، تسبیح	75	المعطی
سبیل	SABEEL	راستہ	102	النافع
سجل	SAJAL	بیادٹ	93	اللہ
سراج	SIRAJ	چراغ	264	المصور
سفیان	SUFYAN	بزرگ	201	الغفار
سمر	SAMAR	کہانی، قصہ	300	الفتاح
سندس	SUNDUS	نرم و نازک	174	القابض
<b>ش</b>				
شادیم	SHADAM	خوش باش	345	اللطیف
شجان	SHAJAN	بلند و بالا	354	العظیم
شزر	SHAZAR	سونا	807	المجید
شرجیل	SHURJEEL	با عظمت	543	الوکیل
شعب	SHAYB	گھائی	372	القیوم
شفا	SHIFA	صحتمندی	381	الماجد
شفق	SHAFQA	آسمان پر نظر آنے والی سرخی	480	العفو

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المعطی	390	معطر ہوا	SHAMEEM	شیم
<b>ص</b>				
النافع	165	بلند ہونے والا	SAAD	صاعد
اللہ	129	نیک نعت	SALIH	صالح
المصور	93	صبح	SABAH	صباح
الغفار	174	سپی	SADAF	صدف
الفتاح	174	راستہ	SAEED	صعید
القابض	129	نیکی	SALLAH	صلاح
اللطیف	336	نازک	SOMAR	صومر
<b>ط</b>				
العظیم	12	خوشبودار	TAAB	طاب
المجید	210	پرندہ	TAIR	طار
الوکیل	129	وسیلہ	TUFAIL	طفیل
القیوم	21	پاک	TAYYAB	طیب
<b>ظ</b>				
الماجد	930	سایہ	ZIL	ظل
<b>ع</b>				
العفو	273	مسافر	AABIR	عاب
المعطی	273	نمر	ARIB	عارب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
النافع	471	طالب	AASIQ	عاشق
اللہ	201	باز رکھنے والا	ASIM	عاصم
المصور	201	عقل والا	AQIL	عاقل
الغفار	372	روشن	ABQAR	عبرق
الفتاح	102	کونیل	ABAL	عبل
القابض	282	خوشبو	ABEER	عبر
اللطيف	570	جوانمردی	ATAQ	عتق
العظیم	75	انوکھا	AJAB	عجب
المجید	570	تخت	ARSH	عرش
الوکیل	201	مخاطب	ISAM	عصام
القیوم	201	رحمد	AFFAN	عفان
الماجد	210	بزرگ	AQEEL	عقیل
العفو	876	معاوضہ	IVAZ	عوض
المعطی	84	خوشی	EID	عید
<b>غ</b>				
النافع	1038	شاعر	GHAZIL	غازل
اللہ	2001	مخفی	GHAZIR	غاصر
المصور	2010	تازہ	GHAREEF	غریف
الغفار	2010	سر سبز و شاداب	GHAZEER	غزیر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الفتاح	1209	خوبصورت	GHATAR	غطر
القابض	1290	سردار	GHATRAF	غظراف
اللطیف	1290	محیط	GHAFEER	غفیر
العظیم	1254	نادان	GHAMEEDER	غمیدر
المجید	1110	نادرشے	GHAMEES	غمیس
الوکیل	1254	نوجوان	GHANDAR	غندر
القیوم	1506	فریادرس	GHAOS	غوث
<b>ف</b>				
الماجد	489	کھولنے والا	FATIH	فاتح
العفو	381	فرق کرنے والا	FARIQ	فارق
المعطى	489	جیتنے والا	FATTAH	فتاح
النافع	138	سردار	FAHEEM	فحیم
الله	741	عقلمندی	FARASAT	فراست
المصور	579	خوش بیان	FASAHAH	فصاحت
الغفار	390	غریب	FAQEER	فقیر
الفتاح	561	خوش و خوم	FALTAN	فلتان
القابض	93	کامرانی	FAOZ	فوز
اللطیف	210	فیصلہ کرنے والا	FAISAL	فیصل

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ق</b>		
العظیم	201	تقسیم کرنے والا	QASIM	قاسم
المجید	174	فرشتہ	QUDSI	قدسی
الوکیل	174	موتی	QADEES	قدیس
القیوم	309	خوش نما	QARHAD	قرہد
الماجد	201	خوبصورتی	QASAM	قسام
العفو	210	تقسیم کرنے والا	QASEEM	قسیم
المعطی	111	سپہ سالار	QUTAB	قطب
النافع	147	بزرگوار	QAWAM	قوام
اللہ	156	پائیدار	QAWEEM	قویم
المصور	156	قائم رہنے والا	QAYYOOM	قیوم
		<b>ک</b>		
الغفار	426	نگران	KARDAR	کاردار
الفتاح	327	کوشش	QAWISH	کاوش
القابض	48	ستارہ	KAOKAB	کوکب
اللطیف	120	سر دار	KAIFI	کینی
		<b>گ</b>		
العظیم	354	خوبصورت	GULPASH	گل پاش
المجید	561	باغ	GALISTAN	گلستان

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الوکیل	138	دینہ	GUNJEENA	گنجینہ
<b>ل</b>				
القیوم	93	سفید	LUJEEN	لجین
الماجد	939	خیال	LIHAZ	لحاظ
العفو	147	ساتھی	LAZEEQ	لزیق
المعطی	210	چمک دمک	LASEEF	لصیف
النافع	120	رحیم و حلیم	LITAF	لطاق
اللہ	129	لطف والا	LUTFI	لطفی
المصور	129	مہربان	LATEEF	لطیف
<b>م</b>				
الغفار	741	بزرگ	MASAR	ماثر
الفتاح	48	بزرگ	MAJID	ماجد
القابض	282	مضبوط	MUBRAM	مہرام
اللطیف	102	صاف	MUBEEN	مبین
العظیم	642	بے زر	MUTRIB	مترب
المجید	696	نورانی	MUTANAWWAR	متنور
الوکیل	543	لائق اجر	MUSAB	مثاب
القیوم	543	خوش کلام	MASAJ	مشج
الماجد	552	نیکی کا بدلا	MASEEB	مشیب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
العفو	57	بزرگی والا	MAJDI	مجیدی
المعطی	57	بزرگ	MAJEED	مجید
النافع	111	محاسبہ کرنے والا	MUHASIB	محاسب
اللہ	1029	حفاظت کرنے والا	MUHAFIZ	مفاظظ
المصور	552	بیان کرنے والا	MUHADDIS	محدث
الغفار	111	ناشاد	MAHZOON	مخزون
الفتاح	246	عقلمند	MUDABBIR	مدیر
القابض	246	تجربہ کار	MUDRAB	مدرب
اللطیف	120	بلایا گیا	MADOU	مدعو
العظیم	291	خوش حال	MRAN	مران
المجید	390	رسول کی جمع	MURSALEEN	مرسلین
الوکیل	1605	حاجتمند	MUSTAZAHAR	مستظہر
القیوم	840	مدد مانگنے والا	MUSTANSAR	مستنصر
الماجد	309	کافی	MASJOOR	مجبور
العفو	750	مرضی	MASHIYAT	مشیت
المعطی	120	سردار	MUTA	مطاع
النافع	129	قرمانبردار	MUTEA	مطیع
اللہ	1146	مددگار	MUZAHIR	مظاہر
المصور	516	پیارا	MAASHOOQ	ممشوق

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الغفار	930	فیض پہنچانے والا	MAFEEZ	مفیض
الفتاح	300	نوازش	MAKARIM	مکارم
القابض	300	معزز	MUKARRAM	مکرم
اللطیف	570	صابر	MAKEES	مکیث
العظیم	120	صاحب مکان	MAKEEN	مکین
المجید	291	روشنی کا ستون	MANAR	منار
الوکیل	1191	منظر کی جمع	MANAZIR	مناظر
القیوم	552	انگاؤ والا	MUNTASIB	منتسب
الماجد	462	پھیلا ہوا	MUNSHIB	مشعب
العفو	102	حق کی طرف پھرنے والا	MUNEEB	میب
المعطی	300	چمکدار	MUNEER	منیر
النافع	156	دوست	MUNIS	مونس
<b>ن</b>				
اللہ	84	شریف	NAJIL	ناجل
المصور	255	بے مثال	NADIR	نادر
الغفار	201	مفید	NAFIE	نافح
الفتاح	57	یہادور	MAID	نجد
القابض	93	ستارہ	NAJM	نجم
اللطیف	300	یہادور	NAREEM	نریم



نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
نزہت	NUZHAT	پاکیزگی	462	العظیم
وامق	WAMIQ	دوستانہ	147	المجید
وکیل	WAKEEL	محقر	66	الوکیل
ہانی	HANI	خوش و خرم	66	القیوم
ہلال	HILAL	نیچاچاند	66	الماجد
یامین	YAMEEN	درست	111	الغفور
یورش	YORISH	بے تانی	516	المعطی
یوسف	YOOSUF	حسین و جمیل	156	اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَلَامٌ	قَوْلٌ	مِنْ	رَبِّ	الرَّحِیْمِ
الرَّحِیْمِ	سَلَامٌ	رَبِّ	قَوْلٌ	مِنْ
مِنْ	الرَّحِیْمِ	قَوْلٌ	سَلَامٌ	رَبِّ
رَبِّ	مِنْ	سَلَامٌ	الرَّحِیْمِ	قَوْلٌ
قَوْلٌ	رَبِّ	الرَّحِیْمِ	مِنْ	سَلَامٌ
سَلَامٌ	قَوْلٌ	مِنْ	رَبِّ	الرَّحِیْمِ

### عدد (3) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ

یہ افراد خوشیوں اور غیر متزلزل یقین کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اعلیٰ اور ارفع مقصد کسی چیز کی بنیادی خصوصیت کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تحقیق باریک بینی اور مطالعاتی حس کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ پریشانیوں اور اداسیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ان کے تصورات میں زود حس ہونے سے لبال سار ہوتا ہے۔ ان میں یہ بھی خصوصیت ہے۔ کہ یہ دوسروں کو بہت جلد متاثر کر لیتے ہیں۔ اور خود متاثر ہونے سے تابلد رہتے ہیں۔ اسی لئے یہ افراد خود پسندی اور خود غرضی کا شدت سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر وقت اپنی ہی پیدا کردہ خامیوں اور خیالات میں گھرے رہتے ہیں۔ اس لئے یہ زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ خوشیاں حاصل کرنے کی خاطر کے شدت سے متمنی ہوتے ہیں۔ اور نجات ہی شدت سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تاکہ اپنی تمنا اور آرزو کی بار آوری سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ان افراد میں سے زیادہ تر کی زندگی رومان پرور ماحول میں بسر ہوتی ہے۔ اسلئے یہ افراد بیرونی ممالک کی اشیاء کا استعمال کرنا اپنے لئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، رکھنا ان کی شان خود نوازی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ مہمان نوازی کیلئے یہ افراد ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ اور دوسروں کے دئے ہوئے غم کو بھلا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کا رجحان طبعی طور پر زندگی کے روشن پہلو کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لطیفہ گوئی ان کا خاصہ ہے۔ نمائش کے شائق اور دلدادہ ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور آسانی سے اعتماد شکنی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ افراد دوسروں کیلئے رازداری کا سبب نہیں بنتے اور وہ یہی خوج کرنے میں بھی اعتدال سے کام نہیں لیتے باوجود ان عادات و اطوار کے کہ یہ اپنی آزادی میں خاص محتاط ہوتے ہیں۔ دوسروں کے خیالات کی پیروی کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اپنے ملنے والوں کے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں کرتے یہ افراد دوسروں پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔

### عدد (3) رکھنے والے مرد حضرات کا فال نامہ

ان افراد کا ستارہ حضرت ایوب کے ستارے کے مطابق ہے۔ یہ دوسروں سے زیادہ اپنے بہن بھائی اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان افراد کو زندگی حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت مبارک بھی ہوتی ہے۔ اور اس زیارت کے بعد ان کے کاروبار میں اتنی ترقی و برکت ہوتی ہے کہ ان افراد کو بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا اس زیارت مقدسہ سے پہلے اگر اس ستارے کے فرد کی فال دیکھی جائے تو معلوم ہو گا کہ جو یہ کاروبار کرتا ہے اس کاروبار میں رکاوٹ پڑ چکی ہے۔ اور اس کی زندگی میں بد کردار عورت کا ہاتھ بھی ہے۔ اس عورت سے یہ محتاط رہے۔ کیونکہ اگر یہ اس سے نہیں بچے گا۔ تو اس کی فال اس کی تمام زندگی کی خوش بختی کے خلاف ہو گی۔ ان افراد کو چاہئے کہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اپنا دل لگائیں۔ اور اچھے اچھے کام کریں۔ انشاء اللہ ان کا ہر کام سیدھا ہو گا۔ اگر یہ اپنی گھریلو زندگی سے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہوں۔ تو ان کا اپنی شریک حیات کے ساتھ سنارہ نہیں ملتا اور یہ شادی کے بعد ہی اپنی ناکامیوں میں گھرے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے حالات اور کاروبار کھل عروج پر تھا۔ اور اب ہر کام میں رکاوٹ ہے۔ اس کے کامل حل کیلئے۔ اس عمل کو سفید پاک کاغذ پر لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھیں۔ انشاء اللہ سارے بگڑے کام درست ہو گئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اِن رِبْکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  
فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یَغْشٰی اللَّیْلِ النَّهَارَ بِطَلْبِهِ حٰثِثًا  
وَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ مَسْخَرَتٍ بِاَمْرِهِ اِلَّا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبْرٰکَ  
اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ اَدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخَفِیَّةً اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمَعْتَدِیْنَ  
وَلَا تَفْسُدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِہَا . و دَعُوْہٗ خَوْفًا وَ طَمَعًا . اِنَّ رَحْمَۃَ  
اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ . فُلَانٌ بِنْتُ فُلَانٍ اِیُّوٰی کَاثَمٌ لَّکَہٗ .

## عدد (3) سے متعلق مرد حضرات کے عملیات

### گنٹھیا کے خاتمے کیلئے

اس مرض کا علاج روحانی اور طبی لحاظ سے اس طرح کریں۔ ضرور افاقہ ہو گا۔ ایک تولہ زعفران، آدھ پاؤ کالی مرچ، ایک تولہ سنڈھ، ایک تولہ لوگ، ایک تولہ ہینگ ہیرا کسب، ایک پاؤ شیر مدار کی جڑ کی گرہ ان سب کو کھل میں ڈال کر اچھی طرح بازیک پیس کر سفوف بنالیں اور حسب ضرورت شہد ملا کر گولی بنائیں۔ لیکن گولی ایک پنے کے برابر ہو۔ اور صبح ناشتے کے بعد ایک گولی دودھ کے ساتھ کھائے۔ اور رات کو سونے سے پہلے ایک گولی دودھ کے ساتھ کھائے۔ انشاء اللہ گنٹھیا جیسے موذی مرض سے نجات ہوگی۔ اور روحانی علاج کے طور پر اس نقش کو زعفران سے لکھ کر درد کی جگہ باندھے۔ مکمل شفاء ہوگی۔ اور اسی کو پانی میں ڈال کر اس کا ہمار منہ پانی پیا کرے۔

۳۱۰۳	۳۱۰۷	۳۱۱۰	۳۰۹۶
۳۱۰۹	۳۰۹۷	۳۱۰۲	۳۱۰۷
۳۰۹۸	۳۱۱۲	۳۱۰۵	۳۱۰۱
۳۱۰۶	۳۱۰۰	۳۰۹۹	۳۱۱۱

### ہاضمے کی خورانی

یہ افراد حکیمی نسخہ کے طور پر اس کو استعمال کریں۔ ایک تولہ کوڑتہ، ایک تولہ اجوائن، ایک پاؤ سونف، آدھ چھٹانک کالی مرچ، آدھ چھٹانک آٹے، آدھ چھٹانک بھڑے، ایک تولہ ٹھیکری نوشادر، آدھ تولہ پودینہ ست، ان سب کو کھل میں ڈال کر اچھی طرح ناسفوف بنالیں۔ اور پانی کے ساتھ حسب ضرورت استعمال کریں۔ اور روحانی طور پر اس نقش کو زعفران سے لکھ اپنے سیدھے بازو پر باندھیں۔ اور اسی نقش کو پھر زعفران سے لکھ کر اسے صبح ہمار منہ پی لیا کرے۔ انشاء اللہ اس عارضے میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔

۱۲۱۷۶	۱۲۱۷۹	۱۲۱۸۳	۱۲۱۶۹
۱۲۱۸۲	۱۲۱۷۰	۱۲۱۷۵	۱۲۱۸۰
۱۲۱۷۱	۱۲۱۸۵	۱۲۱۷۷	۱۲۱۷۴
۱۲۱۷۸	۱۲۱۷۳	۱۲۱۷۲	۱۲۱۸۳

### پرانا نزلہ وزکام

دودھی مٹائی آدھ چھٹانک، کو رگڑ کر دودھ میں ملا کر ایک الائچی ڈال دیں۔ اور ایک چھٹانک دہی گھی میں ملا کر آگ پر رکھیں۔ اور بالیں جب بالے دیتے دیتے دودھ آدھا کلورہ جائے۔ تو ایک تولہ اسپغول کا چھلکا اس میں ڈال کر نیچے رکھ دیں۔ یہ کھیر کی شکل میں موجود ہوگا۔ جب یہ ٹھنڈا ہو تو پانی کے بغیر کھائیں۔ اور اس کے روحانی علاج کے طور پر اس نقش اور آیات کو مشک وزعفران کے ساتھ لکھ کر اپنے گلے میں پہن لے۔ انشاء اللہ پرانے نزلے وزکام سے نجات ہوگی۔

۷۹۶	۷۹۸	۷۹۲	۷۹۶
۷۹۷	۷۹۹	۷۹۷	۷۹۷
۷۹۰	۷۹۶	۷۹۳	۷۹۳
۷۹۷	۷۹۲	۷۹۱	۷۹۳

### حلق کی بیماری

اس بیماری سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ پانے کیلئے اس نقش کو دو مرتبہ زعفران سے لکھے۔ ایک نقش کو اپنے گلے یا سیدھے بازو میں پہنیں اور ایک نقش پر روزانہ ہمار منہ شہد ڈال کر چاٹ لیا کرے۔

شفاہ من کل واء	فی علمہ صحت	شفاہ من کل واء
وشفاہ من کل الصدور	قورہ منین	وشفاہ من کل الصدور
قید شفاہ لدناس	شراب مختلف الوان	یخرج من بطونہا
رحمۃ لعمومین	ماحو شفاہ و	وتزال من قرآن
امبوھدی وشفاہ	یشفقن قال حوللذین	وازمضت فھ

### پچھلے پھروں کی بیماریاں

اس عارضے سے مکمل نجات کیلئے اس کو چاندی کے پترے پر کندہ کروا کر اسے شیشے کے جگ میں ڈال دے۔ اور ہر وقت اس کا پانی استعمال کرے۔ اور اس نقش کو پانچ عدد سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر ان پانچوں کو تعویذ بنا کر چاندی میں کندہ کروا کر اپنے گلے میں ڈال لے۔ اس مرض میں اگر پہلے سے مبتلا ہوگا۔ تو جلد از جلد اس تکلیف سے نجات ہوگی۔ اور آئندہ کیلئے بھی اس سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ

کندہ کروا کر پینے والی آیات

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطن الرجیم انہ لیس لہ سلطان علی الذین امنو وعلی ربہم یتوکلون۔

پہننے والے نقوش

۱۰۵۵۳	۱۰۵۵۲	۱۰۵۵۵
۱۰۵۵۴	۱۰۵۵۲	۱۰۵۵۰
۱۰۵۵۹	۱۰۵۵۱	۱۰۵۵۱

## اپنے محبوب کو مطیع و فرمانبردار بنانے کیلئے

اگر یہ افراد کسی سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں۔ لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی الٹ ہوتا ہو۔ اور ان کا محبوب ان کی طرف زیادہ مائل نہ ہوتا ہو یہ اس عمل کے ذریعے سو فیصدی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آگے ان افراد کی محبت پر منحصر ہے۔ لیکن اس عمل کو جائز جگہ اس طرح کریں۔ جیسے انہوں نے اس محبوب سے شادی کرنی ہو کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس کو غلط استعمال کرنے سے گناہ ہو گا۔ اور درج شدہ نقش میں اپنے محبوب کا نام لکھ کر اس کو اپنے دل کے مقام پر باندھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین یا سید الکرمین و بحرمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه انا کفینک المستهزون یا حی یا قیوم برحمتک استغیت اللہم سهل ویسر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حسبی عن سوء الی علمک بحالی سبحان القاهر القادر الکافی فلان بن فلان مسخر شود مسخر شود مسخر شود۔

نا انانہ	نا انانہ	نا انانہ	نا انانہ	نا انانہ	نا انانہ
انانہ	انانہ	انانہ	انانہ	انانہ	انانہ
ایانانہ	ایانانہ	ایانانہ	ایانانہ	ایانانہ	ایانانہ

فلان بن فلان عنی الحب فلان بنت فلان

## مخالف کو مغلوب کرنے کیلئے

اگر ان افراد کا اپنے مخالف سے مقابلہ ہو اور یہ اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہوں۔ یاد دشمن کو جائز طور پر سزا دینے کیلئے۔ اس عمل کو کریں۔ اس عمل سے ان کا دشمن کبھی بھی ان افراد پر غلبہ نہیں پاسکے گا۔ اور نہ ہی ان کے حق میں کبھی نقصان کرنے کی سوچے گا۔ لیکن اس بات کا خیال ضرور رہے کہ یہ عمل نورانی ہے اور اس کو جائز استعمال کرے۔ انشاء اللہ دشمنوں پر مکمل غلبہ ہو گا۔ اور اس نقش میں اپنے دشمنوں یا اکیلے دشمن کا نام لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔

عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ
عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ
عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ
عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ	عَمَّ عَمَّ عَمَّ

### مخالف کی زبان بندی کرنے کیلئے

یہ عمل اس صورت میں کیا جائے جب ان کا اپنا یا پر اپنا ان کے حق میں غلط بیانی کرتا ہو۔ اور ان کو بری زبان سے یاد کرتا ہو۔ اور ان کا دل دکھاتا ہو اس کو اسکی بری حرکات سے باز رکھنے کیلئے۔ اس عمل کو اپنے مخالفوں کا مکمل تصور باندھ کر نمک کی کنکریوں پر پڑھ کر آگ پر رکھ دیں۔ ان کے حق میں ان کے مخالفوں کی زبان بند ہوگی۔ اور ان کو مخالفین کا تصور باندھ کر پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم یا الہ الاولین ہر کہ مارا بد گوید زبانش بند شود و ضربت علیہ عصاء موسیٰ بر جگرش ارہ حضرت زکریا و بر تنش کرم حضرت ایوب و در دہنش مہر حضرت سلیمان و بر زبانش قفل رجال الغرب و بر جانش قہر خدائے قہار جبار و قہار بحق یا بدوح یا بدوح واللہ المستعان علی ما تصفون یا اللہ یا اللہ

اور اس نقش کو اپنے دشمنوں کے نام لکھ کر آگ کے پاس دفن کرے۔

۱۹۱۶	۱۹۱۱	۱۹۱۸
۱۹۱۷	۱۹۱۵	۱۹۱۳
۱۹۱۴	۱۹۱۹	۱۹



## ترقی رزق و روزی اور برکت کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کا کاروبار چلتا ہو اور ک گیا ہو اس کی چاہے کوئی بھی صورت ہو یا نیا نیا کام شروع کیا ہو۔ اور کام چلتا نہ ہو تو اس عمل مبارک سے انشاء اللہ ایسا کاروبار چمکے گا۔ کہ خود بھی حیران ہو گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے اس کام کا مکمل تصور باندھے۔ اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان آیات کو اپنے نام کے حروف ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھے اور اس نقش کو دریا کے کنارے جا کر خود زعفران سے لکھے۔ اور اپنی دکان یا کاروباری مرکز پر ایسی جگہ لگائے جہاں ہر گاہک کی نظر پڑتی ہو۔ اللہ کے حکم سے ان کا کاروبار خوب چلے گا۔ انشاء اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَقُو اللّٰهُمَّ یَا مُسَخِّرَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ  
وَالْاَرْضِیْنَ السَّبْعِ وَمَنْ فِیْهِنَّ وَمَنْ عَلَیْهِمْ سَخَّرَلِیْ كُلَّ شَیْءٍ مِنْ عِبَادِكَ  
مِمَّا فِیْ بَرِّکَ وَبِحَرِّکَ حَتّٰی لَا یَبْقٰی شَیْءٌ فِی الْکَوْنِ کَانَ مُتَحَرِّکًا اَوْ  
سَاکِنًا اَوْ صَا مِیًّا اَوْ ظَاہِرًا اَوْ بَاطِنًا اِلَّا سَخَّرْتَهُ لِیْ بِبَرَکَتِکَ اَسْمٰکَ  
اللطیف المکنونون یا اللہ یا حی یا قیوم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول  
لہ کن فیکون فسبحن الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔

۲۲۸۲۲	۲۲۸۱۸	۲۲۸۲۵
۲۲۸۲۳	۲۲۸۲۲	۲۲۸۲۰
۲۲۸۱۹	۲۲۸۲۱	۲۲۸۲۱

## قرض کی ادائیگی کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی پر قرض کا بھت بوجھ ہو۔ اور اس مشکل میں کوئی بھی ساتھ نہ دیتا ہو۔ تو روزانہ نماز عشاء کے بعد مکمل طور پر فارغ ہو کر جب سونے کا ارادہ ہو۔ تو اپنے بستر کو پاک و صاف رکھے۔ اور خود بھی خوشبو استعمال کرے۔ اور اپنے بستر پر بیٹھ کر اول و آخر درود شریف ابراہیمی کے ساتھ آیت الکرسی کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد پر پورا دھیان

رکھے۔ اور اسی روز سے اس نقش کو روزانہ ایک مرتبہ زعفران کے ساتھ لکھا کرے اور عمل کی مدت ختم ہونے کے بعد ان تمام نقوش کو آٹے میں گولیاں بنا کر ایسے پانی میں ڈالے جہاں مچھلیاں ہوں انشاء اللہ اس عمل مبارک سے ان افراد کیلئے غیب سے ویلے بٹے شروع ہو جائیں گے۔

۱۸۵۷۸	۱۸۵۸۱	۱۸۵۸۳	۱۸۵۷۱
۱۸۵۸۳	۱۸۵۷۲	۱۸۵۷۷	۱۸۵۸۲
۱۸۵۷۳	۱۸۵۸۶	۱۸۵۷۹	۱۸۵۷۶
۱۸۵۸۰	۱۸۵۷۵	۱۸۵۷۴	۱۸۵۸۵

### خاتمہ جادو و آسیب زدگان سحر وغیرہ

ان آیات کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے کیونکہ ان آیات کو گلے میں ڈالنے والے افراد ہمیشہ جادو ٹوٹنے اور اس جیسی تمام قباحتوں سے مکمل طور پر محفوظ رہتے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذى لا اله الا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم قل اوحى الى انى استمع نقر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشدا فامنا به ولن نبشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيها على الله شططا. (فلان بن فلان)

### درد بدن کے خاتمے کیلئے

ان افراد میں سے اگر کسی کو جسم کے کسی بھی حصہ میں درد رہتی ہو۔ تو اسے چھٹکارہ پانے کیلئے اس کو کالی سیاہی سے سرخ کاغذ پر لکھیں۔ اور زردے رنگ میں اچھی طرح بھگو کر رکھے۔ خشک ہونے پر

در دوالی جگہ پر مل کر اس کو چلا دیا کرے۔ اس کو مسلسل کرنے کیلئے اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لکھ کر رکھ لے۔ اور بوقت ضرورت استعمال کر لیا کرے۔ شفاء ہوگی۔ انشاء اللہ

ف د ف ر ر ف د ج گ ر ر ف د د گ ر گ گ گ فر ع ع ع س  
س س س س س س ر ر ع ر د د ف ف ف ر ف د گ ہ گ گ گ

### ملک سے باہر جانے کیلئے

ان افراد میں سے کوئی اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا چاہتا ہو۔ اور اسے کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا رہتا ہو۔ یا اس کے کسی عزیز نے تعویذ گنڈوں کے ذریعے اس کے سفر میں دشواری ڈال دی ہو تو اس کے مکمل خاتمے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے۔ رات کو روزانہ بعد نماز عشاء اول و آخر درود شریف کے ساتھ گیارہ دنوں تک اس آیت کو اپنے نام کے حروف ابجد کی تعداد میں پڑھے۔ اور حروف ابجد جدول میں درج کردئے ہیں۔ اور اس نقش کو ان گیارہ دنوں میں کسی بھی نیک ساعت میں زعفران سے لکھ کر اپنے سیدھے بازو میں باندھ لے۔ اور اس عمل کے شروع اور آخر میں کوئی میٹھی چیز چوں میں تقسیم کر دے۔

یا غیاثی عند کل کربة و مجیبی عند کل دعوة مادی عند کل شدة و  
رجائی حین تقطع حیلتی (یا اللہ میری دعا کو جلد از جلد قبول کیجئے۔ بوسیلہ حضور نبی  
کریم ﷺ)

۲۰۴۲۹	۲۰۴۳۲	۲۰۴۳۶	۲۰۴۳۲
۲۰۴۳۵	۲۰۴۳۸	۲۰۴۳۸	۲۰۴۳۳
۲۰۴۳۴	۲۰۴۳۸	۲۰۴۳۰	۲۰۴۳۷
۲۰۴۳۱	۲۰۴۳۶	۲۰۴۳۵	۲۰۴۳۷

### زیارت حضور نبی کریم ﷺ

اس نیک و پاکیزہ عمل کو کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہئے وہ پہلے تفصیل سے بیان کر دیا

ہے۔ اور ہدایت کے طور پر جہاں عمل کو کرنے کا ارادہ ہو۔ اس کو پاک و صاف اور خوشبو سے معطر رکھے اور خود بھی ہر وقت عمل سے پہلے اور عمل کے بعد خوشبو میں رچا بسا رہے۔ اس عمل کو نوچندی جمعرات کے دن سے شروع کرے۔ اور سب سے پہلے نفل اس طریقے سے ادا کرے۔ کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ اور سورۃ مزمل شریف پندرہ مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر ایسی حالت طاری کر کے پڑھے جیسے بدن کا ہر حصہ پانی ڈالنے سے پوزا بھیک جاتا ہے۔ اس عمل پر کم از کم گیارہ دنوں تک کاربند رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گیارہ دن پورے نہیں گذریں گے۔ کہ سرکارِ مدینہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔

اعتقاد کا صحیح ہونا کامل شرط ہے۔ آگے اپنی اپنی قسمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُمَّ اَنْزِلْنَا لِمَطَرٍ مِنَ السَّمَاءِ لِتَحْيٰی  
بِهَ الْاَرْضِ وَتَسْقٰی بِه الْعِبَادِ مِنْ خَلْقِكَ اللّٰهُمَّ اِنِّی قَدْ اَشْتَدْتُ شَوْقِی اِلٰی  
مُحَمَّدٍ وَطَالَ حَزْنِی بِه اللّٰهُمَّ فَارْحَمْنِی وَمَنْ عَلٰی مِنْ نَظَرٍ وَجْهَہ صَلٰی  
اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

مفرور کو واپس لانے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کا کوئی عزیز یا اس کا کوئی بہت ہی چاہنے والا اس سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہو۔ تو اس کو واپس بلانے کیلئے۔ سورۃ الضحٰی کو پورا تصور باندھ کر پڑھے اور اسی سورۃ کو زعفران سے لکھ کر اس کو اسی جگہ ہو امیں لٹکائے جہاں سے ان کا عزیز گیا ہے۔ اس عمل کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب تک ان کا مسئلہ حل نہ ہو۔ تب تک یہ اس پر روزانہ بتائے گئے طریقہ کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ انشاء اللہ اس سے ان کا گیا ہو افراد جہاں بھی ہوگا۔ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاسکے گا۔ بلکہ گھبرا کر ہر صورت واپس آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

دل کی گھبراہٹ اور تمام عارضوں سے نجات کیلئے

اگر یہ افراد دل کے کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس پر ڈاکٹر حکیم حضرات قابو نہ پاسکے ہوں۔ تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں اس طرح باندھیں۔ کہ نقش دل

کے اوپر رہے خواہ اس کو چکنے والی ٹیپ کی مدد سے دل کے مقام پر چسپاں کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اس آیت کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کر گلاب کے عرق پر صبح نہار منہ پی لیا کریں۔ انشاء اللہ اس عمل کی کرامت سے ڈاکٹرو حکیم حضرات بھی حیران ہونگے۔ یہ بے مثال عمل روحانی ہے اور ہر لحاظ سے مجرب ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الذین امنوا و تظمئن قلوبہم بذكر اللہ الا بال ذکر اللہ تظمئن القلوب بحق یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہول دل دفع شود (فلان بن فلان)

### بواسیر کے خاتمے کیلئے

بواسیر سے مکمل نجات کیلئے اس نقش کو نوچندی جمعرات نیک ساعت میں زعفران سے لکھے۔ اور دریا کے پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ اس پانی کو پیئے۔ عظیم خدا شفاء ہوگی۔

۲۲۲۲۶	۲۲۲۲۰	۲۲۲۲۴	۲۲۲۱۹
۲۲۲۲۲	۲۲۲۲۲	۲۲۲۲۵	۲۲۲۲۱
۲۲۲۲۱	۲۲۲۲۵	۲۲۲۲۸	۲۲۲۲۴
۲۲۲۲۹	۲۲۲۲۳	۲۲۲۲۲	۲۲۲۲۴

### حفاظت مکان و نظر بد کا خاتمہ

اپنے گھر کی مکمل طور پر حفاظت اور ہر بلا و آسیب جادو ٹونے سے محفوظ رہنے کیلئے اپنے گھر کے ہر دروازے کی چوکھٹ کے اوپر اسمائے اصحاب کف زعفران سے لکھ کر لگا دے۔ گھران

## بواسیر کے خاتمے کیلئے۔

بواسیر سے مکمل نجات کیلئے۔ اس نقش کو نوچندی، جہرات نیک ساعت میں زعفران سے لکھے۔ اور دریا کے پانی میں ڈال دے۔ اور صبح نماز منہ اس کا پانی استعمال کرے۔ بواسیر سے نجات ہوگی۔

ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین	ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین
ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین	ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین

## حفاظت مکان و نظربد کا خاتمہ

اپنے گھر کی مکمل طور پر حفاظت اور ہر بلا و آسیب جادو و ٹونہ سے محفوظ رہنے کیلئے۔ اپنے گھر کے ہر دروازے کی چوکھٹ کے اوپر اسمائے اصحاب کف کو زعفران سے لکھ کر لگا دے۔ گھر ان تمام قیامت سے مکمل طور پر محفوظ رہے گا۔ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ انشاء اللہ

الہی بجرمت یملیخا مکسلمینا کشفوط ادرق تیونس کشا فطیونس  
یوانس بوس واسم کلبہم قطمیر وعلی اللہ قصد السبیل و منہا جائر

تمام قباحتوں سے محفوظ رہیگا۔ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔

بہ اندنی	خلق سبع اسماء	ومن ابرش	مشمق بنتری
اسم تہم	لنعلد ان ائد	عل کل شی . قدیر	ان ائد قد
احاط کل	شی . علم جمود	و صمہ اف حان	البش بر مر
مع و بارقہ	الانذار لم ششم	بل صوق ان مجید	فی لوح محفوظ

### حافظے کی زیادتی کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی کند ذہن ہو اور کسی بھی چیز کو باسانی بھول جاتا ہو۔ یا قرآن مجید یاد نہ رہتا ہو یا سکول میں پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہو۔ تو رات کو سونے سے پہلے روزانہ ایک سو مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پانی پر دم کر کے اس پانی کو بسم اللہ شریف پڑھ کر پی لے اور سو جایا کرے۔ انشاء اللہ اس عمل سے کبھی بھی یاد کرنے والا سبق نہیں بھولے گا۔

### خاتمہ نامردی کیلئے

ان افراد پر کسی نے سفلی علوم کے ذریعے اگر کوئی ایسا عمل کر دیا ہو۔ جس سے یہ اپنی شریک حیات سے ہم بستری کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ تو اس نقش کو صبح زعفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اس کو گلاب کے عرق سے دھو کر اسی وقت پی لیا کرے اور اس عمل کو گیارہ دنوں تک کرے۔

۳۹۸۴۹	۳۹۸۴۴	۳۹۸۵۱
۳۹۸۵۰	۳۹۸۴۸	۳۹۸۴۶
۳۹۸۴۵	۳۹۸۵۲	۳۹۸۴۷

### کوئی بھی اسلحہ اثر نہ کرے

اگر ان افراد کی کسی سے جانی دشمنی ہو۔ اور ان کا دشمن ان کی ٹوہ میں لگا رہے اور موقع ملنے پر جان سے مارنے سے بھی گریزنہ کرتا ہو۔ تو اس نقش کو نہریا دریا کے پانی کے اندر ناف کے

مقام تک کھڑا ہو کر زعفران سے لکھے۔ اور پھر اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھے اللہ کے حکم سے ان کا کوئی بھی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اگر ان کا کسی بھی طریقہ سے نقصان کرنے کی کوشش کریگا۔ تو خود نقصان میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس بات کی تصدیق ضرور ہونی چاہئے کہ واقعی ان کا دشمن ان کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ اور اس عمل کو ناجائز صرف اپنی دشمنی داری پر نہ کریں۔ بلکہ اللہ کی پناہ میں رہنے کی خاطر کریں۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

فلان بن فلان

## عدد (3) مرد حضرات کے دوست افراد

### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

آثم، آزر، آذب، آزرده، آشنا، آمن، ائمال، ائیل، اجتنان، اخوان، اودیم، ارباط، ارجمند، ارز، ارشاش، اشتر، اصطفیٰ، اعجاز، افراز، افق، اکرام، اکمل، امام، امن، انتخاب، انشاء، اوج، ایاز، ایثار، ایجاد، ایوب، برتر، برکت، بنیامین، بیمار، بہزاد، بہلول، تاش، تبریق، تہیب، ترائی، ترجمان، تراہر، تسہیل، تصدیق، تفرید، تلمیذ، تلوین، توصیف، نمود، ہدار، جدیر، جلال، جمل، جہانگیر، حایز، حاضر، جزم، حسام، حسم، حشمت، حقی، حمیس، حنان، حازن، خالص، خصال، خلوت، خلیط، دستگیر، دیان، دین، ذکاء، ذکی، راشد، رامش، رشاد، رشید، رمیل، زائر، زرق، زعمیم، زکاء، زکی، ساحت، ساطل، ساغر، سہر، سکندر، سلسال، سلیمان، سمط، سیار، سماح، سنور، شادب، شاہق، شبلی، شتاب، شحاز، شفع، شمشیر، صبور، صداقت، ضاحک، ذیافر، ضیاء، طاظہ، طراز، طروب، ظفر، عازم، عاطر، عائر، عبادہ، عبود، عبیدہ، عروۃ، عزام، عزہول، عطار، عفت، عقیق، عمران، عمرس، عمرو، غازی، غاصف، غباشیر، غدن، غرز، فارح، فارض، فائق، فہر،



فروح، فضل، فواد، قاصف، قدیم، قمبر، کاشر، کافور، کامل، کانب، کثیر، کلام، کلیم، کمال، گلبار، گنج، لاجورد، لمعات، لیک، لوی، لہناق، لیاقت، مالک، مان، منقی، متوکل، مجیب، مجیر، مخزن، محستان، محسود، مرتضیٰ، مرصد، معاذ، معین، مقبل، مقیت، ملاک، ملکوت، مناص، منج، مومن، ممکن، نابک، ناجی، ناشی، ناظم، نایاب، نبل، نزاکت، نسران، نصوح، نشاطی، نظام، نقاش، نگار، نمود، نواز، نوح، نوشاد، واحد، واصل، واکل، وجاهت، وحید، وقار، ولی، باد، ہار، ہارون، ہاند، ہانم، ہجر، ہدی، ہما، یاسر، یزدانی، یاور، یسار، یسیر، یمن۔

#### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آزاد، آفر، آل، ابریز، امی، اشمال، اجلال، اخر، احوز، اختر، اوران، ادباب، ارد شیر، ارزش، اربان، اربام، ازاد، اسبال، استحسان، اشعر، اصغر، اصلاح، اطیب، افتخار، اقتدار، انحصار، انجم، انیس، اوس، ایزد، باذل، باسم، بسام، بسیم، بصر، بقا، بہروز، تابان، تاثیر، تاشفین، تبرید، تیان، تذیر، تصویر، تقسیم، تنیم، تواب، ٹیپو، جادہ، جاذب، جالس، جال، ثار، جاہد، جبران، جلس، جمان، چند، چاند، چاہت، حالی، خباب، حریر، حصن، حمدان، حمود، حنیف، خدیر، خلیل، خورشید، دانش، ذاور، ذکریا، ذوالقرنین، راجع، رحیب، رخام، رضوان، روحان، زریاب، زکریا، زیاد، زین، سالار، سبات، سجان، سیوج، سخیل، سخی، سرخان، سعادت، سمیر، سویدہ، شادان، شاذب، شانی، شاہد، شرف، شریع، شعیب، شعیر، شفیق، شکور، شمیر، شہام، شہید، صاغر، صغیر، صفات، ضحیر، صلوت، صنیع، صولت، ضرار، ضوفشاں، طارق، طائل، طاؤس، طرب، طریق، طناز، طولیس، طہران، طیب، طیار، ظہور، عاتق، عبال، عبد، عبقری، عتیق، عثمان، عدنان، عرصم، عزیز، عندلیب، عین، غابط، غائر، غسان، فاگر، فائق، فنی، فدا، فرناس، فرحد، فصام، فلک، فگار، فواز، فوزی، فہمد، فاش، قاصر، قاطب، قراط، قستان، قدیر، قیصر، کرامت، کروٹی، کسام، گل، رخ، گل، رو، گلشن، گل، عذار، گلغشاں، گلنار، گلبار، گولر، گوہر تاب، لاذب، لازر، لطیفی، لعل، لقاق، لہیم، لیط، مائل، مارح، ماصف، مانوس، متبطل، متفرد، ثیل، محاط، محبوب، محترم، مخزن، مخلص، مخیر، مذام، مدید، مراتب، مرامر، مرجم، مر سوم، مزر، مستفیض، مستنیر، مسلمہ، میتب، مسیطر، مشتاق، مشر، مشہود، مصطفیٰ، مصعب، معتز، مقتصد، مقدم، مگرام، مناقب، موقر، میران، تاجد، ناموس، ثار، نجی، نجید، نزاہت، نشید، نظور، نعمان، نکین، نوازش، نور، نوفل، واثق، واسط، وحدت، وواد،

دفور، دهب، ہاشم، ہشام، ہصور، ہاپوں، یار، یاقوت، یعسوب۔

### عدد (2) ستارہ قمر برج سرطان

ابض، آزار، آریز، آفاق، لبدال، اشغام، اشیم، اجمل، احسن، انگر، اخلاص، ارتاش، ارشاد، ارہاب،  
ارزق، اسد، اشتیاق، اشہر، اصغر، اعجاز، اعوان، افضل، اقداء، ایان، امروز، امین، مذاق، خش،  
برکات، بلخ، بواب، پارس، تامر، تبارک، تبریک، تجلی، تعجلا، تعظیم، تزیل، توفیق، ثمر، ثناء،  
شین، جادل، جزاء، جعفر، جماش، جمال، جملاء، جمیل، حازم، حاسن، حاطب، حازم، حدیفہ، حزم،  
حسان، حسرت، حلیف، حبیب، خبیر، خلیق، داسی، دلیل، دوست، ذکاوت، رازق، ربانی، رئیس،  
رضا، رضی، رکز، رمضان، زبر، سارب، سلاست، سلیمان، سید، شاداب، شاذ، شاہر، شایان، شجر  
شائل، شمیل، شہاب، شہزادہ، زہیر، صالح، صاحب، صافر، صبح، صفوان، صیمان، صنان، ضابط،  
صلح، طارف، طالع، طریف، طاہر، ظراف، ظریف، ظفیر، عاقب، عالمگیر، عاکل، عرک، عقار،  
عقیب، عجب، عکرمہ، علی، عبان، عوز، فاضل، فاطر، فتح، فہیل، فرمان، فروزاں، فضیل،  
فلاح، قاضی، قانت، قدرت، قدس، قربان، قرف، قریح، قزل، تقام، کیف، کیقباد، گل، تر،  
گواگ، گوہر، بار، لبان، لطف، لعلان، ماکت، مامون، مبارک، مبشر، متوکل، مجتہد، مجرب، محران،  
مدار، مراد، مرام، مرتاص، مرث، مرزوق، مرصاد، مرید، مستان، مستبد، مستعان، مسرور،  
مسج، مشاش، مطہر، مظہر، معنی، معیث، مقسط، ممتاز، منصب، منظر، منعم، موافق، مہر، میمون،  
نابل، ناہ، نبال، نجار، نجیب، نشوان، نصرت، نفیس، نقاد، نورانی، نوشاہ، نوشیرواں، واسح، ہادی،  
ہیکل، کچی، میان، یمین۔

### عدد (7) ستارہ قمر برج سرطان

آبک، آرت، آرزو، آشیب، آفتاب، آمر، لبد، لبر، لہیم، لریق، لہماز، ارتضاء، ارسلخ، ارشت، ارکب، ارم،  
بایزید، اختیار، بداء، برادر، بسالت، بخار، بلخ، بلیغ، بیلا، تاجور، تاشف، تاب، تاجر، تہریز، تہم،  
تجاسر، تصعید، تعظیم، تقویم، تجید، حکمین، تنفید، جسارت، جوہر، جیش، چراغ،  
حارث، حاشم، حسنین، حشام، حفص، حقانی، حلیم، حمد، خازر، خضر، دلاور، ذخار، ذلاقت، راصد،  
راقم، راکب، رباب، رستم، زشتیق، زغد، رفاقت، روشن، ربیعان، زائل، ذخار، زمیت، زوار،  
سادات، سحر، سزاع، سرتاج، سرور، سلطوت، سفینہ، سمین، سہام، سعیر، سیم، شارق، شہز،

شعقت، شزاده، صادر، صارم، صمان، صبور، صرام، صلت، صلبل، صمیر، صیان، صرم،  
 ضاهر، ضرقام، طارم، طالش، طین، طراد، طرفس، طلال، طلحه، طمار، طمل، طلس، عاطف،  
 عاد، عائل، عباس، عدان، عدید، عدیم، عروئ، عریس، عشرت، عکاس، عماد، عمید، عمیم،  
 عنبر، غادی، غالب، غنا، غنی، فاز، فائز، فخر، فردتن، قابل، قابوس، قانط، قبیل، قوم، قدر،  
 قدوه، قمر، کار، کاظم، کبار، کبیر، کسمان، کرار، کفایت، کلمانی، گلبدن، گل جان، گوهر ریز،  
 لیبی، لحن، لطافت، مبرور، مبروک، متقدم، مجددی، محبت، محمدر، محکم، محرب، محشود،  
 مدران، مرتبت، مرصود، مزن، مسرت، مصالح، مطیب، معاد، مفتاح، مقبول، مکتف،  
 مودب، مہامت، مہتاب، میر، مینو، نایح، نازش، ناصر، ناطق، نذیع، نخبش، نسیم، نصر،  
 نصار، نصیر، نظر، نقی، نوید، واضی، وزیر، وصی، وفتی۔

### عدد (9) ستارہ مرتجیح حمل و عقرب

کبان، آتم، آثار، کوم، آزادہ، آشام، آصف، آماج، آمال، ابتسام، اشیر، انخس، اذفر، ادرشام، اروب،  
 ارسلان، ارفع، اسرار، اسعد، اسلوب، اظہار، اکرم، امبر، امتیاز، امعان، انصار، انعام، مبارک، باطل،  
 باسط، برید، برتان، بسیط، بصیرت، بکیت، بلال، بنس، بیان، بیرم، بیلسان، پرواز، پرویز، پیروز،  
 تبصیر، تراب، ترقب، تسکین، تسلیم، تصدق، تنویر، توضیح، ثاقب، جالب، جان، جاہ، جبال،  
 جیاد، حرمت، حق، حکمت، حمایت، حمدون، ضبل، حنی، خطاب، خطیر، دایم، دیر، ذافر، ذوج،  
 ذواد، راتب، رائس، رافع، رجیل، رحمت، رفیع، رونق، رئیس، ربیال، زافر، زبدہ، زر، زرقیر، زواد،  
 زیدکن، ساحل، ساعد، ساقی، سالف، سرلط، سرخیل، سعاد، سعید، سلاج، سلامت، سلسل، سراط،  
 سج، شادی، شان، شجاعت، شجر، شخ، شرافت، شعاع، شعبان، شعور، شکیل، شہباز، ضارح،  
 صامت، صفی، صمصام، صنم، صواب، صویب، صہبائی، ضامن، طوفی، عاجز، عارض، عارف،  
 عافر، عاکف، عقبہ، عزت، عردام، عرفی، عروج، عروسان، عریف، عزیز، عسکری، عکاشہ،  
 عمیدر، عنایت، عون، عمود، عزیز، عاشق، غھارب، غلام، فارغ، قادوق، فراجام، فہیم، فیاض،  
 قاہر، قاتل، قہم، قرنی، قرین، کاہد، کریم، کسوم، کیان، کیس، گلال، گلغام، گنجور، لاریب،  
 لیث، ماد، مام، مینور، مترف، مجواد، محبت، محرم، مذنب، مروان، مزلم، مستعین،  
 مسعود، مسکین، مصدق، مطلب، معروف، معلم، ملک، منذر، منہاج، منیف، مودت، مہندی،  
 مہروز، مدوش، مند، میسرہ، ناخ، ناشط، نائل، نہمان، نجی، نریمان، نشاط، نصیل، نطیش، نقش،

نقیب، گنینه، ودریج، وراشت، ہاتف، ہرماں، ہرمز، ہفات، یزدان، یلد، یونس۔

### عدد (3) سے متعلق مرد حضرات کے مخالف افراد

#### عدد (6) ستارہ زہرہ برج ثور و میزان

آبر، آرج، آیت، البصار، اجواد، احسان، احمر، اکلم، اذہر، ارزام، ارغان، اریب، اسلام، اصدق، اعدل، افروز، افشار، الماس، امانت، انطمام، انوار، بارق، باری، باقر، بیتاز، بوفش، برہان، بریق، بسمل، بخر، بلاول، بیطار، پاشا، تاویل، تخمیل، تحسین، تھفیل، تقی، توکل، ثقیف، ثمنین، ثقلین، جازم، جامع، جاوید، جمشید، حاکم، حجت، حدیر، حریم، حسنت، حقیقت، حلال، حمزہ، حمیر، حیدر، حیرم، خاتم، خادم، خاور، خجستہ، خلدون، خوشنود، دانیال، داؤد، دلشاد، ذوالنون، ذوقی، ذہیب، راحت، راسخ، راغب، راقب، رجاء، رزین، رعنا، رمیض، زائل، زاہر، زوزین، زہاب، زہار، سدیز، سفیط، سلطان، سمن، سمید، سفوت، سویر، سہیل، سیف، سیمائی، شاب، شاہین، شرق، شطیب، شمشاد، شوکت، شیر، صاحب، صحت، صدیق، صرد، صنوبر، صوفی، صیدا، ضامر، ضمضم، ضمیر، طالب، طرقد، طلاب، ظرافت، عادل، عافرین، عارن، عالم، عال، عدم، عدیل، عذق، عصمت، عظمت، عفاف، عفیض، عقیف، عقبہ، عنزہ، عیسیٰ، غابر، عالی، غریر، غنفر، فاتک، فارد، فائق، فرقت، فریال، فرہ، فرید، فضیلت، فوق، فیروز، قاصد، قائد، قائم، قدم، قرار، قریب، قیم، کادح، کاسران، کلمان، کوثر، گلہاز، گلریز، گلزار، گوہر، لازم، لامع، لائب، لبق، لسان، مادخ، ماسد، مباح، متجلی، مشر، مجاز، مجدد، نیز، محاصر، محسان، مختوم، مخدام، مدرہ، مذکر، مراح، مرجان، مرسال، مرغوب، سرخ، ساحن، مصباح، مصلح، مصنون، معاویہ، معد، معظم، معوذ، معیل، مفتح، مفضل، مقتدر، مقدس، قصود، مجد، مزان، منتصر، منصوص، منین، مورد، موسید، موید، مہندس، نبیز، نجات، ررت، ندس، ندین، نذیر، لیل، نصر، نوال، واصف، وجیہ، وژاد، وفاق، وفتح، وہاج، ہدایت۔

## عدد (۵) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		آ		
المتکبر	1301	پکڑنے والا	AAKHIZ	آخذ
الوہاب	761	سجادت	AAZEEN	آذین
الخافض	203	مضبوط	AARIB	آرب
المذل	122	شام	AASAL	آصال
		ا		
البصیر	617	بچنا، پرہیز کرنا	IHTERAZ	اجتراز
الحکم	149	بہت اعلیٰ	AHSAN	احسن
العدل	275	نام پیغمبر	IDREES	ادرئیس
المتین	50	مشہور ولی	ADHAM	ادھم
الواجد	203	ہوشیار	ARAB	ارب
مالک الملک	302	اللہ کا بندہ	ISRAEEL	اسرائیل
البدیع	131	محفوظ	ASLAM	اسلم
الباقی	581	زی وقار	ASHRAF	اشرف
الوارث	482	رحمہل	ISHFAQ	اشفاق
المتکبر	86	مرتبہ	AYZAZ	اعزاز
الوہاب	77	دل میں نیکی ڈالنا	ILHAM	الہام
الخافض	131	صاف	AMLAS	المس

نام	انگریزی	مطلب	حروف اچھ	اسم الہی
انسب	ANSAB	مناسب ترین	113	المذل
انور	ANWAR	پرانوار	257	البصیر
اولیس	AWAIS	پوشیدہ	77	الحکم
ایزاد	EEZAD	زیادتی	33	العدل
<b>ب</b>				
باصر	BASIR	دیکھنے والا	293	المتین
باعد	BA-ED	دور	77	الواجد
باقی	BAQI	رہنے والا	113	مالک الملک
باہو	BAHOO	ساتھ	14	البدیع
بدلج	BADEA	عمدہ	86	الباقی
براع	BRA	پاک	203	الوارث
برجیس	BARIEES	مشتری	275	المتکبر
برق	BARQ	روشنی	302	الوہاب
بطل	BATAL	دلیر	41	الخافض
بھادر	BAHADUR	دلیر	212	المذل
بھجت	BAHJAT	شادمانی	410	البصیر
بھرام	BAHRAM	مرنج ستارہ	248	الحکم
<b>پ</b>				
پاک	PAK	نیک	23	العدل

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المتین	212	بزرگ	PEER	پیر
		ت		
الواجد	608	چمکدار	TABDAR	تابدار
مالک الملک	608	مضبوط	TARAZ	تارز
البدیع	473	خوبصورت	TAJAMMUL	تاجل
الباقی	1310	بزرگی	TAFAZZUL	تفاضل
الوارث	1130	کثرت	TAKSEER	تکثیر
المتکبر	590	سمجھانا	TALQEEN	تلقین
الہواب	1400	درست کرنا	TANZEEM	تنظیم
الخافض	716	عزت و وقار	TAOQEER	توقیر
المذل	680	آسان کرنا	TESEER	تیسیر
		ث		
البصیر	590	قیمت	SAMAN	شمن
		ج		
الحکم	212	جراح کرنے والا	JARIH	جارج
العدل	104	تمضبوط	JASIM	جاسم
المتین	113	خوبی الخیر	JASEEM	جسیم
الواجد	464	جوانی	JALALAT	جلالت
مالک الملک	14	برویار	JAWAD	جواد

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
<b>ح</b>				
حاجب	HAIJB	دربان	14	البدیع
حجاب	HIJAB	پردہ	14	الباقی
حصان	HASAN	گوہر	149	الوارث
حصین	HASEEN	مضبوط	158	المتکبر
علم	HUKM	فرمان	68	الوہاب
حیات	HAYAT	زندگی	419	الخافض
<b>خ</b>				
خاقان	KHAKAN	سردار	752	المنزل
خالد	KHALID	افغانی	635	البصیر
خانز	KHANIR	خالص	851	الحکم
خزیمہ	KHAZEEMA	قیمتی موتی	662	العدل
خلیفہ	KHALEEFA	نائب	725	المتین
<b>د</b>				
دریز	DAREEZ	روشن	221	الواجد
دلدار	DILDAR	محبوب	239	مالک الملک
<b>ذ</b>				
ذمیر	ZAMEER	بہادر	950	البدیع
ذوق	ZAOQ	پسند	806	الباقی



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ر		
الوارث	212	زابد	RABIT	رابط
المتکبر	221	قلبی	RABEET	رہیٹ
الوہاب	248	شریف	RAHEEL	رہیل
الخافض	257	جنگی	RAZMI	رزی
المذل	410	مہربان، پیلا	RAQEEQ	رہیق
البصیر	248	رمز والا	RAMMAZ	راماز
الحکم	257	بزرگ	RAMEEZ	رہمیز
العدل	671	سرمداری	RIYASAT	ریاست
		ز		
المتین	14	ایک خوشبو	ZABAD	زباد
الواجد	23	برگریڈہ	ZUBEED	زبید
مالک الملک	14	شیشہ	ZAJAJ	زجاج
البدیع	347	گہرائیلا	ZARQAM	زرقم
الباقی	68	شیریں	ZALAL	زالال
الوارث	68	خوبصورت	ZAYAN	زیان
		س		
المتکبر	68	سجدے کرنے والا	SAIID	ساجد
الوہاب	140	بلند	SATIE	ساطع

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
سحابت	SAKHAWAT	فیاضی	1067	الخافض
سعود	SAOOD	بلند مرتبہ	140	المذل
سفاح	SAFAH	سخی	149	البصیر
سلام	SALAM	امن	131	الحکم
سلیم	SALEEM	سلامتی والا	140	العدل
سوهنا	SOHNA	خوبصورت	122	المتین
سہار	SAHAR	ہوشیار	266	الواجد
سیماب	SEEMAB	پارہ	113	مالک الملک
<b>ش</b>				
شاداں	SHADAN	خوش حال	356	البدیع
شارح	SHARIH	عالم	509	الباقی
شارف	SHARIF	بزرگ	581	الوارث
شجاع	SHUJA	بہادر	374	المتکبر
شجیع	SHJIE	دلیر	383	الوہاب
شریف	SHREEF	بزرگ	590	الخافض
شعل	83 SHEEL	ذہین	410	المذل
شفاعت	SHFAAT	مختار	851	البصیر
شہزاد	82 SHEHZOR	طاقتور	518	الحکیم
شہسوار	81 SHSWAR	سردار	572	العدل

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		<b>ص</b>		
المتین	293	صبر کرنے والا	SABIR	صابر
الواجد	131	روزہ رکھنے والا	SAIM	صائم
مالک الملک	302	ضامن	SABEER	صمیم
البدیع	194	سچائی	SIDQ	صدق
الباقی	500	آواز	SAREER	صریح
الوارث	374	مف لکھ کر چمکانے والا	SAFDAR	صفدار
المتکبر	158	سرور	SANDEED	صندیہ
الوہاب	230	صفائی	SAYQAL	صیقل
		<b>ض</b>		
الخافض	851	مددگار	ZAMI	ضامی
المذل	1850	شیر	ZAIGHAM	ضیغم
		<b>ط</b>		
البصیر	14	سورۃ کا نام	TAHA	طاہ
الحکم	23	معالج	TABEEB	طیب
الغدل	410	ہوشیار	TARRAR	طرار
المتین	509	نظارہ	TALAT	طلعت
الواجد	149	آزاد	TALEEQ	طریق
مالک الملک	59	نیک	TEEM	طم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ع		
البديع	77	عبادت کرنے والا	AABID	عابد
الباقي	491	بہادر	AATIK	عائک
الوارث	104	جلدباز	AAJIL	عاجل
المتكبر	275	جداگانہ	AARID	عارد
الوهاب	311	آباد	AAMIR	عائر
الخافض	77	بندہ کی جمع	ABAD	عباد
المذل	86	عبد کی تصغیر	ABED	عبید
البصير	113	جلدباز	AJEEL	عجیل
الحکم	401	معرفت	IRFAN	عرفان
العدل	356	صاہر	AROOF	عروف
المتين	410	طاقتور	AFRAS	عفرس
الواجد	311	تاج	AMMAR	عمار
مالک الملک	320	معمور	UMAIR	عمیر
البديع	410	بہادر	UNSUR	عنصر
الباقي	176	سختی	AWEES	عویص
		ح		
الباقي	1085	رہنما	GHADIF	غادف

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
----------	-----------	------	---------	-----

## ف

الوارث	95	منجی	FADI	فادی
المتکبر	140	عظمت	FATIN	فائن
الوہاب	347	شہنشاہ کا مہرہ	FARZEEN	فرزین
الخافض	158	کھلا	FASEEH	فصح
المدل	689	عظمت	FITRAT	فطرت
البصیر	149	ذہین	FATEEN	فطین
الحکم	194	تایاب	FAQEED	فقید
العدل	941	بڑا فائدہ	FAIZAN	فیضان
المتین	896	نیکیاں	FAYOOZ	فیوض

## ق

الواجد	221	مطمئن	QANIE	قانع
مالک الملک	131	بائے والا	QAIL	قائل
البدیع	221	طاقتور	QASAL	قصال
الباقی	194	قانون	QINDEEL	قندیل
الوارث	158	کلیاں	QANOB	قنوب

## ک

المتکبر	401	کھولنے والا	KASHIF	کاشف
الوہاب	410	ظاہر کرنے والا	KASHFI	کاشفی

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الخافض	140	ذمردار	KAFEEL	کفیل
		گ		
المذل	320	پھول رنگ	GULRANG	گل رنگ
		ل		
البصیر	131	چھونے والا	LAMIS	لاس
الحکم	131	قابل	LAIQ	لائق
العدل	230	ساتھی	LASEQ	لصیق
المتین	131	ذیدار	LIQA	لقا
الواجد	140	روشنی	LAMA	لمح
مالک الملک	140	قابل	LAEQ	لایق
البدیع	95	نرم شاخ	LEENA	لینہ
		م		
الباقی	545	جاننے والا	MASID	ماسد
الوارث	59	مٹانے والا	MAHI	ماحی
المتکبر	131	محفوظ جگہ	MAMIN	مامن
الوہاب	248	اونچا	MAWRA	ماورا
الخافض	662	برکت والا	MUTABARRIK	متبرک
المذل	626	کامیاب	MUTAYAEFIQ	موقوف
البصیر	500	مضبوط	MATEEN	متین

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
مجتبیٰ	MUJTABA	چنا ہوا	446	الحکم
مجتبائی	MUJTABAI	نیک	455	العدل
محب	MUHIB	دوست، یار	50	المتین
معتشم	MUHTASHIM	شان و شوکت والا	788	الواجد
محبین	MOHSIN	مددگار	158	مالک الملک
مخراق	MUKHRAQ	خوبصورت	941	البديع
مرح	MARH	خوش باش	248	الباقی
مرزا	MIRZA	شہزادہ	248	الوارث
مرسب	MARSAB	عقلمند	302	المتکبر
مزیر	MAZEER	سخت	257	الوہاب
مستدید	MUSTADED	گول	518	الخافض
مستمیت	MUSTAMET	بہادر	950	المذل
منظر	MUZAFFAR	فاتح	1220	البصیر
معاون	MUAWIN	مددگار	167	الحکم
معصوم	MAASOOM	بے گناہ	246	العدل
مفضل	MUFAZZAL	فضیلت دیا گیا	950	المتین
مفلح	MUFLIH	کامیاب	158	الواجد
مفیع	MUFEEQ	ہوش والا	230	مالک الملک
مکات	MALAKAT	استعداویں	491	البديع

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباقی	59	راہ نما	MAHDI	مدی
الوارث	77	خوہورت	MUHLAB	مہلب
<b>ن</b>				
المتکبر	356	رنجیدہ	NASHAD	ناشاد
الوہاب	149	نصیحت کرنے والا	NASIH	ناصح
الخافض	86	سیراب	NAHIL	ناہل
المذل	311	بیمادر	NARAS	نراس
النبصیر	104	دوست	NADEEM	ندیم
الحکم	950	عمد	NAZR	نذر
العدل	950	تیز دھار	NASHTAR	نشتر
المتین	230	آدھا عمامہ	NASEEF	نصیف
الواجد	149	پاکیزہ	NATEEF	نطیف
مالک الملک	1040	پاکیزہ	NAZEEF	نظیف
البدیع	59	امیر	NAWAB	نواب
الباقی	257	پھول	NAWAR	نوار
الوارث	266	غنیہ	NAWEER	نور
المتکبر	86	تازہ پودا	NIHAL	نہال
الوہاب	95	خوش	NAHEEL	نہیل
الخافض	68	حاجت	NIYAZ	نیاز



اسم الہی	حروف ابجد	منظب	انگریزی	نام
		و		
المذل	14	پانے والا	WAJID	واجد
البصیر	86	علم وارث	WASTI	واسطی
الحکم	311	کھلا ہوا	WASHID	واشد
العدل	977	ناصح	WAIZ	واعظ
المتین	14	دینے والا	WAHIB	واہب
الواجد	50	لڑکا، غلام	WALEED	ولید
		ہ		
مالک الملک	545	نرم پتھر	HARSHAM	ہرشم
البدیع	455	باز	HEETAM	ہتم
		ی		
الباقی	131	سورہ کا نام	YASEEN	یا سین
الوارث	86	واحد	YAGANA	یکانہ

## عدد (5) رکھنے والے مرد حضرات کا خاکہ

یہ افراد جلد باز اور فوراً غصہ سے باہر ہو جانے والے ہیں۔ فطرتاً ہی اپنی زندگی میں ہر وقت مصروف عمل رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اور اکثر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر سوائے اتفاق سے انہیں جب ناکامی ہوتی ہے یا ان کا نقصان ہوتا ہے تو یہ مظلوم الذمّتی اور بے کاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پر جذباتی تاثرات چھائے رہتے ہیں۔ اور یہ ریڑ کی طرح پھیل اور سکڑ جاتے ہیں۔ وقت کی رفتار کے ساتھ بدلتا بھی جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی ایک چمک کا نام ہے۔ یعنی یہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے یہ دل کے گہرے نہیں ہوتے اور وقت کے ساتھ ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر بات کے ہر پہلو کو غور سے سمجھ جاتے ہیں۔ اور دماغی لحاظ سے نہایت چست و چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اگر کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو مشکلات سے گھبرا کر وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خواہ اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا دل و دماغ آزاد ہوتا ہے۔ اس لئے کم از کم ایک چیز سے خاص طور پر وابستہ رہتے ہیں۔ خواہ وہ کوئی عورت ذات ہی کیوں نہ ہو۔ نئے افراد سے واقفیت نکالنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دین کے مسئلے پر ان کا دماغ حیرت انگیز رفتار سے کام کرتا ہے۔ اور نئی نئی اختراعات کرتا ہے۔ اس لئے دوسروں کو ان سے طرح طرح کی باتوں اور قسم قسم کے اعتقادات کی توقع رکھنے چاہئے کیونکہ بعض اوقات ایک عقیدے سے منحرف ہو کر دوسرے عقیدے کی طرف جاتے ہوئے پورا چکر کاٹ لیتے ہیں۔ جیسے دوسرے لوگ ان کی زندگی میں رجعت سمجھتے ہیں۔ لوگ ان کو اللہ کا منکر سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے سچے عاشق بن جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی پہلوؤں کے متعلق تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کو بیوقوف بنانا دوسروں کیلئے مشکل ہوتا ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ نہایت گرم جوش اور جذباتی کیفیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ غیر فانی محبت کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن شادی کے معاملہ میں یہ خوش نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بد نصیب بھی؟

## عدد (5) رکھنے والے مرد حضرات کا فال نامہ

اس ستارے سے منسلک افراد کا قدرِ میانہ اور بھنوں میں کبھی ہوگی۔ خوش خلق اور خوش گفتار ہوتے ہیں۔ دوسرے کی اچھی بات پر اپنی جان بھی نثار کرتے ہیں۔ جھوٹ اور حرام بات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے یہ افراد اپنے دشمنوں سے ہمیشہ محتاط رہیں کیونکہ ان کے دشمن ہر وقت ان کا نقصان کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ سفر سے متعلق یہ افراد مغربی ممالک کی طرف سفر کریں۔ کامیاب ہونگے۔ روحانی مرض کے طور پر ان میں جسمانی دردوں کا پایا جانا باعثِ ہمزاد ہے۔ اس عمل کے خاتمے کیلئے آگے درج کیا جائے گا۔ اگر ان کی زندگی میں کبھی حرام مال کی طرف رخ ہو جائے تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کیونکہ ان کا حرام کا ایک روپیہ ان کے سو روپے ساتھ لیکر جائے گا۔ نماز و روزہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اور کسی بھی فرد کو اپنے دل کا راز نہ دیں۔ اور نہ ان سے ان کے دل کا راز لیں۔ اور نہ ہی کسی کی ضمانت کسی بھی طور پر دیں۔ اولاد ان کی نرینہ زیادہ پیدا ہوگی۔ ان کے نصیب میں دو بیویاں ہیں۔ مگر ہو سکتا ہے کہ ایک سے نکاح ہو اور ٹوٹ جائے اور دوسری مرتبہ ان کی شادی ہی ہو جائے۔ ان کی زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان افراد کو زیادہ اور فضول غصہ آنا جادو کی طرف منسوب کیا جائے کیونکہ حرام مال کی طرح غصہ بھی ان کی زندگی میں حرام ہی ہے۔ ان افراد کی زندگی میں نیبوں کی زیارت بھی۔ اگر یہ مشکلات میں مبتلا ہوں۔ خواہ اس کا تعلق جادو ٹوٹنے سے ہو یا کوئی ان کو ناجائز طور پر پریشان کر رہا ہو۔ تو اس کے مکمل خاتمے کیلئے ان تمام آیات کو مخ اس نقش کے زعفران سے تحریر کر کے اپنے گلے میں باندھ لیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ عمل ان کی زندگی میں ایسے تمام امور کو باطل کرتا ہے۔ جن کا تعلق جادو ٹوٹنے سے ہے۔ یا ان افراد کی طرف سے بچھے گئے سفلی علوم کا خاتمہ جو ان سے حدِ بغض اور عدوت رکھتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمتم علیکم یمعشر الجن  
والارواح ویا صاحب السحر والوسواس الخناس الذی یوسوس من  
جنود ابلیس یا میمون الملک باشد الذی قوی بحق میمون حبشی و  
بحق ابن میمون صاحب الاعوان الہندی اخرج من البر والبحر اخرج  
من الوادی والہادی اخرج من الشجر والاشجار اخرج من الاکن  
والاکنان اخرج من کل مکان و مقام بحق خاتم سلیمان بن داود علیہ

السلام وبحق آسف برخيا قيقطوش شطر الجن والشياطين يا قرقل  
يا قرقلان يا هرقل يا هرقلان بحق عجوز ام الصبيان خذ هذا بالشر  
الادخر بحق توريت موسى وبحق زبور داود اتجيل عيسى و فرقان  
محمد رسول الله ﷺ وبحق جميع الكتب انزلت جميع الانبياء  
والمرسلين وبحق سلام قول من رب الرحيم وامتازو اليوم ايها  
المجرمون ادفع بحق سيد المشائخين شيخ عبدالقادر جيلاني قدس  
الله سره العزيز العجل الساعة البوذا

اللله هو	اللله هو	اللله هو	اللله هو
اللله هو	اللله هو	اللله هو	اللله هو
اللله هو	اللله هو	اللله هو	اللله هو
هو الله هو	هو الله هو	هو الله هو	هو الله هو

عدد (5) سے متعلق مرد حضرات کے عملیات

آٹھ تعویذات سے مکمل شفاء

یہ افراد ہر طرح کے جادو ٹونہ، مسان، آسب، اور ہر طرح کی قباحتوں سے محفوظ رہنے کیلئے۔ اور  
تمام دشمنوں کے حسد، بغض، اور عدوت کو واپس ان پر لوٹانے کی خاطر ان آٹھ روحانی نقوش سے  
دنوں کے حساب سے دریا کے پانی میں ڈال کر اس سے غسل کریں۔ یہ روحانی عمل ان کی زندگی  
میں سب سے اکیثر ہے۔ اور اسی کے اندر ان کی روحانی شفاء ہے۔

ہفتہ

۶۳۳۹۷	۶۳۳۹۷	۶۳۳۰۳	۶۳۳۹۰
۶۳۳۰۳	۶۳۳۹۱	۶۳۳۹۶	۶۳۳۰۲
۶۳۳۹۲	۶۳۳۰۶	۶۳۳۹۹	۶۳۳۹۵
۶۳۳۰۰	۶۳۳۹۳	۶۳۳۹۴	۶۳۳۰۵

۱۲۱

۱۰۳۰۹۳	۱۰۳۰۹۶	۱۰۳۱۰۰	۱۰۳۰۸۶
۱۰۳۰۹۹	۱۰۳۰۸۷	۱۰۳۰۹۲	۱۰۳۰۹۷
۱۰۳۰۹۸	۱۰۳۱۰۲	۱۰۳۰۹۳	۱۰۳۰۹۱
۱۰۳۰۹۵	۱۰۳۰۹۰	۱۰۳۰۸۹	۱۰۳۱۰۱

۱۲۲

۱۲۵۹۰۳	۱۲۵۹۰۶	۱۲۵۹۱۰	۱۲۵۸۹۶
۱۲۵۹۰۹	۱۲۵۸۹۷	۱۲۵۹۰۲	۱۲۵۹۰۷
۱۲۵۹۰۸	۱۲۵۹۱۲	۱۲۵۹۰۳	۱۲۵۹۰۱
۱۲۵۹۰۵	۱۲۵۹۰۰	۱۲۵۸۹۹	۱۲۵۹۱۱

۱۲۳

۱۳۷۵۳۶	۱۳۷۵۳۰	۱۳۷۵۳۳	۱۳۷۵۳۹
۱۳۷۵۳۲	۱۳۷۵۳۴	۱۳۷۵۳۵	۱۳۷۵۳۱
۱۳۷۵۳۱	۱۳۷۵۳۵	۱۳۷۵۳۸	۱۳۷۵۳۴
۱۳۷۵۳۸	۱۳۷۵۳۲	۱۳۷۵۳۲	۱۳۷۵۳۳

۱۲۴

۲۲۶۹۰۲	۲۲۶۹۰۵	۲۲۶۹۰۸	۲۲۶۹۰۴
۲۲۶۹۰۷	۲۲۶۹۰۹	۲۲۶۹۰۱	۲۲۶۹۰۶
۲۲۶۹۰۳	۲۲۶۹۰۰	۲۲۶۹۰۳	۲۲۶۹۰۰
۲۲۶۹۰۴	۲۲۶۹۰۶	۲۲۶۹۰۷	۲۲۶۹۰۳

## جمرات

۲۸۲۸۲۲	۲۸۲۸۲۶	۲۸۲۸۲۹	۲۸۲۸۱۵
۲۸۲۸۲۸	۲۸۲۸۱۶	۲۸۲۸۲۲	۲۸۲۸۲۷
۲۸۲۸۱۷	۲۸۲۸۲۱	۲۸۲۸۲۲	۲۸۲۸۲۱
۲۸۲۸۲۵	۲۸۲۸۲۰	۲۸۲۸۱۸	۲۸۲۸۲۰

## جمہ

۲۲۲۸۲۲	۲۲۲۸۲۵	۲۲۲۸۲۸	۲۲۲۸۲۲
۲۲۲۸۲۷	۲۲۲۸۲۵	۲۲۲۸۲۱	۲۲۲۸۲۶
۲۲۲۸۲۶	۲۲۲۸۲۰	۲۲۲۸۲۳	۲۲۲۸۲۰
۲۲۲۸۲۴	۲۲۲۸۲۹	۲۲۲۸۲۷	۲۲۲۸۲۹

## تسخیر و حب کیلئے

اگر یہ افراد کسی سے جائز محبت کرتے ہوں اور ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوں۔ ان کو دور کرنے کیلئے، محبت میں زیادتی قائم کرنے کیلئے اپنے محبوب کی تصویر اور اس کو مسخر کرنے کیلئے ان آیات کو روزانہ گیارہ دنوں تک وقت مقررہ پر اپنے محبوب کا مکمل تصور باندھ کر پڑھے۔ یا ان کا تصور رکھ کر پڑھے جو ان کے راستے میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی محبت میں زیادتی ہوگی۔ اور اس نقش کو اپنے محبوب کا نام لکھ کر اپنے سینہ بازو پر باندھ لے ان کا محبوب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبونہم کحب اللہ والذین امنوا اشد حبا لله والکاظمین والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نوراً یمشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس یخارج منها کذالک زین للکفرین ما کانوا یعملون فلما رایته اکبر نہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا لله ما ہذا بشر ان ہذا الاملک کریم وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل

و کبره تکبیرا یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین اذوا موسیٰ فبیراہ اللہ  
مما قالوا و کان عند اللہ و جیہا۔

یا علیقا	ملیقا	خالقا	مخلوقا
کافعا	شافعا	مرتضیٰ	بحق
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
و ننزل من	القرآن ما هو	شفاء و رحمة	للمؤمنین

### دشمنوں کو مغلوب کرنے کیلئے

اگر ان افراد کی جائز دشمنی ہو اور ان کے دشمنوں و حاسدوں میں اس معاشرے میں ان کا  
جینا حرام کر دیا ہو یہ ان کو مغلوب کرنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کیلئے اس عمل کو اس طرح  
کریں کہ جتنے نام کے حروف ابجد ان کے حاسدوں کے ہوں۔ اتنی ہی تعداد میں کالی مرچیں لاکر  
ان پر اتنی ہی تعداد میں (سورۃ تبت ید ا) پڑھے پھر چاہے ایک دشمن ہو یا زیادہ ان مرچوں کو پیس کر  
ان کے گھر میں ڈال دے۔ ان کے دشمن کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

### مخالف کی زبان بندی کیلئے

یہ عمل ان افراد کو دنیا کے ہر امر پر کامیابی دے سکتا ہے۔ اور اس کی برکت و کرامت  
سے ان افراد کے دشمنوں کی زبان بندی تو عام چیز ہے۔ اگر اس کے پڑھنے والوں کے ہاتھ سے قتل  
بھی ہو جائے تو حاکم وقت کی ان کو سزا دینے کیلئے بھی زبان بند رہے گی۔ لیکن اس کو جائز ضرورت کے  
وقت استعمال کریں۔ ورنہ غلط جگہ استعمال کرنے پر آپ خود اس کے فوائد یا نقصان کے ذمہ دار  
ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخفی ذیہن، اللہ بلطیف صنع اللہ  
بجمیل ستر اللہ دخلت فی کنف اللہ و تشفقت برسول اللہ ﷺ بدوام  
ملک الہ بلا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہیا ہیا امیل امیاش  
امیلش حجبت نقسی بحجاب اللہ و منعبتہا بایات اللہ و با لایات  
البینات بحق من یحیی العظام و ہی رمیم جبرائیل من یمینی و  
میکائیل عن یساری و اسرافیل من خلفی و سیدنا محمد ﷺ امامی و  
عصا موسیٰ علیہ السلام بییدی فمن رانی ہابنی و خاتم سلیمان

عليه السلام على وجهي فمن راني يحبني والله محيط وهو  
المستعان على اعدائي لا اله الا الله الكبير المتعال ولا حول ولا قوة  
الا بالله العلي العظيم و صلى على سيدنا محمد النبي الرحمة و  
كاشف الغمة و على آله و اصحابه وسلم و بحق لا اله الا الله محمد  
رسول الله.

### برکت رزق و روزی کیلئے

یہ افراد اپنے رزق کو فراخ کرنے کیلئے اپنے کاروبار میں برکت کیلئے اور کاروبار میں ہر  
رکاوٹ سے محفوظ رہنے کیلئے ان آیت کو روزانہ کسی بھی وقت مقررہ پر حسب تعداد کے مطابق  
پڑھیں۔ اگر کاروبار بند ہو گیا ہو تو انشاء اللہ اس کے پڑھنے سے دوبارہ سے ترقی کی جانب دوڑے  
گا۔ اور ہر لحاظ سے اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ اور اس نقش کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے  
کاروباری مقام پر لگائیں۔ رزق کشاؤہ ہوگا۔ اور اس میں برکت و ترقی کے غیب سے وسائل پیدا  
ہوئے۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يجمع بيننا ثم يفتح بينها  
بالحق وهو الفتح العليم قل اللهم ملك الملك توتى الملك من  
تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلل من تشاء بيدك  
الخير انك على كل شىء قدير تولج الليل فى النهار و تولج النهار فى  
الليل و تخرج الحى من الميت و تخرج الميت من الحى و ترزق من  
تشاء بغير حساب.

تھا تھا اقا سو	اقا قر تو قیا	تھا تو تھ	تھا قرھا ایلا
ایلی تھا تو قو	قوا سو تو اقا	واقو اقد سو	راقو دو اقدرا
دو ایلین	ایلا تو اقر دنا	قیلونا تو قر قنا	توقد اشا اتوا
احیا قر احیا	قوا قوا قیا	قوت اصوا	ایدانى و تو

### قرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے

اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کیلئے اور اللہ کو اپنے دکھ درد میں پکارنے کیلئے۔ اس



عمل کو روزانہ فرض نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاء اللہ گیارہ دنوں کے اندر اندر قرض سے چھٹکارہ پانے کے غیب سے واکل بنے شروع ہونگے۔ لیکن اس عمل کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اور اس عمل کو جہاں پڑھے۔ اس نقش کو مصلے پر کھول کر سامنے رکھ کر پڑھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم صل على محمد و علي آل محمد يا الله يا احد يا واحد يا موجود يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا غنى يا مغنى يا فتاح يا رزاق . يا عليم يا حى يا قيوم يا زحمن يا رحيم يا بديع السموات والارض . يا ذوالجلال والاكرام يا حنان يا منان انقضى منك بفتحة خير بها عن سواك فعسى الله ان ياتي با الفتح او امر من عنده ان تستفتحوا فقد انا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله و فتح قريب و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و آله واصحابه وسلم .

اوکا لڈی مر	علی قریہ دھی	خانیہ علی عروشا
حق الم	و حق حم	کھینغص و حمعسوق
و حق	بسم الله	الرحمن الرحيم

### ہر طرح سے حفاظت میں رہے

یہ افراد اللہ کے سوا دنیا کی ظاہری مخلوق اور وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ان سب سے بچنے اور حفاظت میں رہنے کیلئے۔ ان اسماء کو منگ و زعفران سے لکھ کر اپنے سیدھے بازو یا اپنے گلے میں چاندی میں کندہ کروا کر پہنیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر مخلوق اور شر شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم صل على سيدنا محمد و الله و صحبه وسلم نبى الرحمة صلاة تعصمنا من الافات و تطهرنا بها من جميع السيئات اللهم انى توصلت اليك بالف الف قل هو الله احد امامى ايدا و الف الف قل هو الله احد وراء اکتافى مددا و الف الف قل هو الله احد عن يمينى تحرز المال والولد و الف الف عن يسارى

تحرسنى من الشدائد ابدانى دخلت فى ورع الله الحصين الازلى و  
دخلت فى حفظ الله صندوق العفو و اقاله لا اله الا الله مفتاحه لا  
جول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

### درد شقیقہ کے مکمل خاتمے کیلئے

یہ درد صبح سویرج نکلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اور سویرج غروب ہونے کے بعد ختم  
ہو جاتا ہے۔ اور اس درد سے سر میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے جسم میں سے جان نکل رہی  
ہو۔ اس درد سے نجات حاصل کرنے کیلئے۔ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر ایک عدد اپنے گلے  
میں چاندی میں کندہ کروا کر پہنے۔ اور ایک عدد کو گلاب کے عرق میں ڈال کر بگھو کر رکھے۔ اور صبح  
نہار منہ تھوڑا سا پانی لیا کرے۔ اور اس دوران بوقت ضرورت اس نقش کو اپنی کپٹیوں پر بھی  
پھیرتے رہیں۔ اس روحانی عمل سے مکمل شفاء ہوگی۔ انشاء اللہ

واذ کلمتہم	نفسا فادارء	تم فمھا و اللہ	مخرج ما کتم
ستکمون تھلثا	اضرہ	ببغصھا کذا لک	یحی الموتی
دیر کیم ایئہ	لعلکم تھلون	الہی جرمت	محمد ﷺ
جرمت ابو بحر	جرمت عمر	جرمت عثمان	جرمت علی

### مسان کے خاتمے کیلئے

ان افراد میں بچوں کیلئے۔ یہ بڑا موذی مرض ہے۔ اس سے چھ دن بدن کمزور اور لاغر  
ہوتا ہے۔ اور یہ بات ڈاکٹر و حکیم حضرات کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اس کے مکمل علاج  
کیلئے۔ ٹھیکری کو کھمار کے آوے سے اس طرح لائے اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اس ٹھیکری  
پر پانی نہ لگا ہو۔ اور اس نقش کو کالے مار کر سے اس ٹھیکری پر لکھے۔ (یعنی چار ٹھیکریوں پر چار  
عدد) اور بعد لکھنے کے ان کو آگ پر رکھ دے۔ جب یہ بالکل لال سرخ ہو جائیں۔ تو ان چاروں کو  
بچے کی چار پائی کے نیچے پائیوں کے نیچے وزن تلے رکھے۔ ان کو کم از کم سات دنوں تک وہیں پڑا  
رہنے دے۔ پھر آٹھویں دن ان کو وہاں سے نکال کر چلتے پانی میں بہا دے۔ اور دوسرے نقش کو پانی  
میں لبال کر ٹھنڈا کرے اور اس پانی سے بچے کو نہلائے۔ اور تیسرے نقش کو زعفران سے لکھ کر  
اس کے گلے میں پہنائے انشاء اللہ چھ مسان کے مرض سے ہمیشہ کیلئے نجات پائے گا۔ اور کبھی بھی

## ٹھیکری پر لکھنے والا نقش

۹۹۸۲۰	۹۹۸۲۳	۹۹۸۲۷	۹۹۸۱۳
۹۹۸۲۶	۹۹۸۱۳	۹۹۸۱۹	۹۹۸۲۳
۹۹۸۱۵	۹۹۸۲۹	۹۹۸۲۱	۹۹۸۱۸

## پانی میں لپانے والا نقش

۹۵۵۵۳	۹۵۵۵۷	۹۵۵۶۱	۹۵۵۳۷
۹۵۵۶۰	۹۵۵۳۸	۹۵۵۵۳	۹۵۵۵۸
۹۵۵۳۹	۹۵۵۶۳	۹۵۵۵۵	۹۵۵۵۲

## گلے میں پہنانے والا نقش

۱۰۰۶۱۳	۱۰۰۶۱۷	۱۰۰۶۲۰	۱۰۰۶۰۶
۱۰۰۶۱۹	۱۰۰۶۰۷	۱۰۰۶۱۳	۱۰۰۶۱۸
۱۰۰۶۰۸	۱۰۰۶۲۲	۱۰۰۶۱۵	۱۰۰۶۱۲

## حصول ہر حاجت کیلئے

یہ افراد اپنی زندگی میں کسی بھی خواہش کی تکمیل اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے۔ جب بھی ضرورت ہو تو اس کو ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور اپنے مقصد و نیت کا مکمل تصور باندھیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم - لا اله الا انت سبحانك انى كنت من

الظلمين ويحق لا اله الا هو الرحمن الرحيم

## خاتمہ یواسیر کیلئے

اس مرض سے نجات حاصل کرنے کیلئے اس آیت کو سفید کاغذ پر لکھ کر اس پر شہ ڈال کر اس کو چائے اور ساتھ ہی کاغذ کو بھی منہ میں ڈال کر نکل کر بسم اللہ کر کے پی لیا کرے۔ اس مرض کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس نقش کو زعفران کے ساتھ لکھ کر اپنی کمر میں باندھے۔ بسم اللہ

الرحمن الرحيم : اذ قالت امراة عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى انك انت السميع العليم - (فلان بن فلان)

تکلیف یا نار کوئی بردا	وسلام علی ابراہیم	وارادہ کید اُجعتنا	هم الاخرین
۷۳۶	۷۰۷	۲۶۰	۱۲۳۱
۲۶۱	۱۲۳۰	۷۳۷	۷۰۶
۲۹	۲۷۸	۷۷۰۹	۷۳۸

### بخار کے جڑ سے خاتمہ کیلئے

ان افراد میں سے اگر کسی کو گردن توڑ بخار ہو جائے۔ اور کوئی دوا بھی اثر نہ کر رہی ہو بلکہ بخار دن بدن طول پکڑتا جا رہا ہو۔ تو اس کے مکمل علاج کیلئے ان آیات کو زعفران سے لکھ کر ایک عددیہ اپنے گلے میں باندھے اور ایک عدد کو گلاب کے عرق میں ڈال کر اس عرق کو پیا کرے۔

بسم الله الرحمن الرحيم برائة من الله العزيز الحكيم (فلان بن فلان) من كل ما يعوذ باذن الله تعالى او كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال انى يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يكسنة وانظر الى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شىء قدير قلنا يا نار كونى بردا سلاما على ابراهيم و ارادو به كيدا فجعلناهم الاخسرين فلان بن فلان برى برى برى

### دل کے تمام عارضوں کا خاتمہ

اگر ان افراد میں سے کسی کو بھی دل سے متعلق کوئی بھی عارضہ ہو۔ تو بازار سے نئی چینی کی پلیٹیں لا کر ان پر زعفران سے بناؤ علی کو اس طرح لکھ کر صبح دوپہر اور شام کو گلاب کے عرق سے مٹا کر پی لیا کریں۔ اور ایک عدد کو چاندی کی تختی پر کندہ کر دیا کر اس کو اپنے دل کے مقام پر باندھیں۔ ایک دفعہ خود بھی حیران ہونگے کہ قلب میں کیسا سکون ملتا ہے۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم . ناد عليا مظهر العجائب تجده عوننا لك

فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ  
و بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد و بولا یتک یا علی یا علی یا  
علی هو الشافی هو الکافی هو المعافی (فلان بن فلان)

چوری سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے

اگر ان افراد کو اپنے مال کے چرائے جانے کا خدشہ رہتا ہو۔ تو یہ اپنے اس وسوسے کے  
خاتمہ کیلئے۔ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر جہاں مال رکھا ہو وہاں پر لگا دے۔ اول تو ان کی چوری  
نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی اس نیت سے آئے گا بھی تو خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور مال چرایا نہیں جا  
سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا  
رقیب یا وکیل یا حفیظ لا ینسی و یا من نعمۃ لا تحصی و یا من له  
العروۃ الوثقی و یا من له العزۃ والثناء والہ الاسماء الحسنی احفظ کذا و  
کذا بما حفظت بہ الارض والسماء والجائت ظہری فی حفظ ذلک  
الی الحی القیوم فانک قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا  
له لحافظون و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی الہ و  
صحابہ وسلم۔

دین پر استقامت کیلئے

عذاب قبر سے نجات اور خاتمہ بالا ایمان کیلئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے  
راستے پر چلیں۔ نماز روزہ کی مکمل پابندی کریں اور روزرات کو سونے سے پہلے (سورۃ واقعہ) پڑھ  
کر سونیں اس دوران اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو خاتمہ بالا ایمان ہوگا۔ انشاء اللہ

امسال پیدا کرنے کیلئے

اپنی شریک حیات سے جائز مجامعت میں وقت پیدا کرنے کیلئے۔ اس نقش کو زعفران  
سے لکھ کر موم میں لپیٹ کر اپنی زبان کے نیچے رکھ لے۔ اور ہم بستری میں مشغول ہو۔ جب تک  
یہ نقش زبان کے نیچے رہے گا۔ انزال نہیں ہوگا۔

۲۱۲۱۳۶	۲۱۲۱۳۹	۲۱۲۱۴۲	۲۱۲۱۴۵
۲۱۲۱۴۱	۲۱۲۱۴۰	۲۱۲۱۳۵	۲۱۲۱۳۰
۲۱۲۱۳۱	۲۱۲۱۳۴	۲۱۲۱۳۷	۲۱۲۱۳۲
۲۱۲۱۳۸	۲۱۲۱۳۳	۲۱۲۱۳۶	۲۱۲۱۳۱

## عدد (5) مرد حضرات کے دوست افراد

### عدد (1) ستارہ شمس بروج اسد

آثم، آزر، آذب، آزرده، آشنا، آمن، ائیل، ائیل، ائیل، اجتنان، اخوان، اودیم، ارباط، ارجمند، ارز، ارشاش، اشتر، اصطفاء، اعجاز، افراز، افق، اکرام، اکمل، امام، امن، انتخاب، انشاء، اوج، ایاز، ایثار، ایجاد، ایوب، برتر، برکت، بیاضین، بہار، بہزاد، بھلول، تائش، تبریق، تذبذب، ترائی، ترجمان، تراہر، تسہیل، تصدیق، تفرید، تلمیذ، تلویں، توصیف، نمود، ہدار، جدیر، جلال، جمل، جمائگیر، حاجز، حاضر، حزم، حسام، حسم، حشمت، حقی، حمس، حنان، خازن، خالص، خصال، خلوت، خلیط، دشگیر، دیان، دین، ذکاء، ذکی، راشد، رامش، رشاد، رشید، رحیل، زائر، زرق، زعیم، زکاء، زکی، ساحت، ساطل، ساغر، سبز، سکندر، سلسال، سلمان، سمط، سیار، سماج، سنور، شادب، شاہق، شلی، شتاب، شجاز، شفیع، شمشیر، صبور، صداقت، ضاحک، ضافر، ضیاء، طانط، طراز، طروب، ظفر، عازم، عاطر، عاز، عبادہ، عبود، عبیدہ، عروہ، عزام، عزہول، عطار، عفت، عقیق، عمران، عمرس، عمرو، غازی، غاصف، غباشیر، غدن، غرز، فارح، فارض، قائق، فخر، فرح، فضل، فواد، قاصف، قدیم، قنبر، کاشر، کافور، کامل، کاتب، کثیر، کلام، کلیم، کمال، گلبار، گنج، لاجورد، لمعات، لیک، لوی، لہاق، لیاقت، مالک، مان، متقی، متوکل، مجیب، مجیر، مخزن، محستان، محمود، مرتضیٰ، مرصد، معاذ، معین، مقبل، مقیت، ملاک، ملکوت، مناص، منج، مومن، مہین، نابک، ناجی، ناشی، ناظم، نایاب، نبل، نزاکت، نسران، نصوص، نظام، نقاش، نگار، نمود، نواز، نوح، نوشاد، واحد، واصل، واکل، وجاہت، وحید، وقار، ولی، ہاد، ہارب، ہارون، ہاند، ہاتم، ہجر، ہڈی، ہما، یاسر، یزدانی، یاور، یسار، یسیر، یمن۔

## عدد (4) ستاره شمس برج اسد

آزاد، آغز، آل، لبریز، ابلی، امثال، اجلال، احمر، اخوز، اختر، ادران، ادباب، ارد شیر، ارزش، ارمان، ارہام، ازاد، اسباب، استحسان، اشعر، اصغر، اصلاح، اطیب، افتخار، اقتدار، انقصار، انجم، انیس، اوس، ایزد، باذل، باسم، بسام، بسیم، بصیر، بقا، بیروز، تاباں، تاثیر، تاشفین، تبرید، تریان، تحذیر، تصویر، تقسیم، تمیم، تواب، شیو، جاہ، جاذب، جالس، جال نثار، جاہد، جبران، جلیس، جمان، جنید، چاند، چاہت، حالی، حباب، حریر، حصن، حمدان، حمود، حنیف، خدیر، خلیل، خورشید، دانش، داور، ذکریا، ذوالقرنین، راجع، رحیب، رخام، رضوان، روحان، زریاب، زکریا، زیاد، زین، سالار، سیات، سبحان، سیوح، بحیل، سخی، سر جان، سعادت، سمیر، سویدہ، شادان، شاذب، شانی، شاہد، شرف، شریح، شعیب، شعیر، شفیق، شکور، شمیر، شہام، شہید، صاغر، صغیر، صفات، صغیر، صلوت، صنیع، صولت، ضرار، ضوفشاں، طارق، طاکل، طاؤس، طرب، طریق، طناز، طویس، طہران، طیب، طیار، ظہور، عاتق، عبال، عبد، عبقری، عتیق، عثمان، عدنان، عرصم، عزیز، عندلیب، عین، غایب، غائر، غسان، فاکر، فائق، فتی، فدا، فرناس، فرحد، فصام، فلک، فگار، فوزی، فہمید، فیاش، قاصر، قاطب، قرط، قستان، قدیر، قیصر، کرامت، کردلی، کسام، گل رخ، گل رو، گلشن، گل عذار، گلشنای، گلزار، گلہار، گولر، گوہر تاب، لازب، لاوز، لطیفی، لعل، لاقاف، لہتم، لیط، مائل، مانج، ماصف، بانوس، معتطل، متفرد، شیل، محاط، محبوب، محترم، مخزن، مخلص، مختیر، مدام، مدید، مراتب، مراضر، مرجم، مرسوم، مزر، مستفیض، مستیر، مسلمہ، مسیب، مسیطر، مشتاق، مشمر، مشہود، مصطفیٰ، مصعب، معزز، مقتصد، مقدم، کرام، مناقب، موقر، میراں، ناجد، ناموس، نثار، نجمی، نجید، نزاہت، نشید، نظور، نعمان، نکین، نوازش، نور، نوفل، واثق، واسط، وحدت، وواد، وخور، وہب، ہاشم، ہشام، ہضور، ہمالیول، یار، یاقوت، یعسوب۔

## عدد (6) ستاره زہرہ برج ثور و میزان

آجر، آرج، آیت، ابصار، اجواد، احسان، احمر، احکم، اذہر، ارزام، ارغان، اریب، اسلام، اصدق، اعدل، افروز، افشار، الماس، امانت، انطماس، انوار، بارق، باری، باقر، پیاز، برفش، برہان، بریق، بسمل، بجز، بلاول، بیطار، پاشا، تاویل، بحمل، تحسین، تھلیل، تقی، توکل، ثقیف، ثمنین، ثقلین، جازم، جامع، جاوید، جمشید، حاکم، حجت، حدیر، حریم، حسات، حقیقت، جلال، حمزہ،

حمیر، حیدر، حیرم، خاتم، خادم، خاور، فحشہ، خلدون، خوشنود، دانیل، داؤد، دلشاد، ذوالنون،  
ذوق، ذہیب، راحت، راسخ، راغب، راقب، رجاہ، رزین، رعنا، رمیض، زائل، زاہر، زرین،  
زہاب، زہار، سدید، سفیط، سلطان، سمن، سمید، سفوت، سویر، سیمل، سیف، سیمالی، شاب،  
شاہین، شرق، شطیب، شمشاد، شوکت، شیر، صاحب، صباحت، صحاب، صدیق، صرد، صغیر،  
صوفی، صیدا، ضامر، ضمضم، ضمیر، طالب، طرفہ، طلاب، ظرافت، عادل، عافرین، عارن،  
عالم، عامل، عدم، عدیل، عذوق، عصمت، عظمت، عفاف، عقیض، عقیف، عقبہ، عزہ، عیسیٰ،  
عابد، عالی، غریب، غنفر، فاسک، فاروق، فائق، فرقت، فریال، فرہ، فرید، فضیلت، فوق، فیروز،  
قاصد، قائد، قائم، قدوم، قرار، قریب، قیم، کادح، کامران، کلمان، کوش، گلزار، گلریز، گلزار،  
گوہر، لازم، لامع، لائب، لبق، لسان، مادخ، ماسد، مباح، متجلی، مشمر، مجاز، مجدد، مجیز، محاصر،  
محسان، محتوم، مخدام، مدرہ، مذکر، مراح، مرجان، مرہال، مرغوب، مریخ، مساحن، مصباح،  
مصلح، مصنون، معاویہ، معد، معظم، معوذ، معیل، مفتح، مفضل، مقدر، مقدس، مقصود، مجد،  
منان، منتصر، منصوص، منین، موود، موید، مہندس، نبیز، نجات، ندرت، ندس،  
ندین، نذیر، نسیل، نصر، نوال، واصف، وجیہ، وداد، وفا، وقیح، وہاب، ہدایت۔

## عدد (5) کے مخالف افراد

### عدد (2) ستارہ قمر بزرگ سرطان

ابض، آوار، آریز، آفاق، ابدال، انعام، انیم، اجمل، احسن، انکرا، اخلاص، ارتاش، ارشاد، ارباب،  
ارزق، اسد، اشتیاق، اشہر، اصغر، اعزاز، اعوان، افضل، اقتداء، امان، امروز، امین، باذن، بخش،  
برکات، بلخ، بواب، پارس، تامر، تبارک، تبریک، تجلی، تجلا، تمیم، تنزیل، توفیق، ثمر، ثناء،  
شین، جادل، جزا، جعفر، جماش، جمال، جملاء، جمیل، حازم، حاسن، حاطب، حاجر، حذیفہ، حزیم،  
حسان، حسرت، حلیف، حبیب، خبیر، خلیق، داہمی، دلیل، دوست، ذکاوت، رازق، ربانی،  
رہیس، رضا، رضی، رکز، رمضان، زہر، سارب، سلاست، سلیمان، سید، شاداب، شاذ، شاہر،  
شایان، شجر، شاکل، شمیل، شہاب، شہزادہ، زہیر، صالح، صاحب، صافر، صبح، صفوان، ص میان،  
صنان، ضابط، ضح، طارف، طالع، طریف، ظافر، ظراف، ظریف، ظفر، عاقب، عالمگیر، عامل،  
عرک، عتار، عقیب، عجب، عکر، علی، عنبان، عوز، فاضل، فاطر، فتح، فہیل، فرمان، فروزان،



فضیل، فلاح، قاضی، قانت، قدرت، قدس، قرمان، قرف، قریح، قزل، تقام، کیف، کیتباد، گل تر، گوگا، گوہریار، لبان، لطف، لمعان، ماکت، مامون، مبارک، مبشر، متوکل، مجتہد، مجرب، محران، مدار، مراد، مرام، مرتاص، مرث، مرزوق، مرصاد، مرید، مستان، مستبد، مستعان، مسرور، مسج، مشاش، مطہر، مظہر، مغنی، مغیث، مقسط، ممتاز، منصب، منظر، منعم، موافق، مہر، میمون، نابل، ناہ، نبال، نجار، نجیب، نشوان، نصرت، نفیس، نقاد، نورانی، نوشاہ، نوشیروان، واسح، ہادی، ہیکل، سخی، ایمان، یمین۔

### عدد (7) ستارہ قمر برج سرطان

آبک، آرت، آرزو، آشپ، آفتاب، آمر، لبد، لہراہیم، لہریق، احماد، ارتضاء، ارساخ، ارشق، ارکب، ارم، ازہار، اسماعیل، اقرار، اکبر، الفت، امر، انصر، اورنگ، اوصاف، بلہ، بادشاہ، باشی، بازیذ، بختیار، بداء، برادر، بسالت، بغار، بشر، بلیغ، بیلا، تاجور، تاشف، تاب، تاجر، تیریز، تبسم، تجاسر، تصعید، تعظم، تقویم، تجید، تمکین، تنفیذ، جسارت، جوہر، جیش، چراغ، حارث، حاشم، حسنین، حشام، حفص، حقانی، حلیم، حمد، خازر، خضر، دلاور، ذخار، ذلاقت، راصد، راقم، راکب، رباب، رستم، رشیق، رغد، رفاقت، روشن، ریعان، زابل، زخار، زمیت، زوار، سادات، سحر، سراع، سرتاج، سرور، سطوت، سفینہ، سمین، سهام، سعیر، سہیم، شارق، شیر، شفقت، شترادہ، صاور، صارم، صمان، صبور، صرام، صلت، صلیل، صمیر، صیان، صیرم، ضاہر، ضرغام، طارم، طالش، طین، طراد، طرفس، طلال، طلحہ، طمار، طمل، عالس، عاطف، عامد، عاہل، عباس، عدان، عدید، عدیم، عروٹی، عریس، عشرت، عکاس، عماد، عمید، عمیم، عنبر، غادی، غالب، غنا، غنی، فاز، فائز، فخر، فروتن، قابل، قابوس، قانط، قبیل، قنوم، قدر، قدوہ، قر، کادر، کاظم، کبار، کبیر، کتمان، کرار، کفایت، کلمانی، گلبدن، گل شان، گوہر ریز، لیبیق، لحن، لطافت، مہرور، مہرورک، مقدم، مجددی، محبت، محمدر، محجک، محرب، محشود، مدران، مرتبت، مرصود، مزن، مسرت، مصالح، مطیب، معاد، مقاح، مقبول، مکشف، مودب، مہابت، محتاب، میر، مینو، ناخج، نازش، ناصر، ناطق، نجیع، خشب، نسیم، نصر، نصار، نصیر، نظر، نقی، نوید، واضی، وزیر، وصی، وفتی۔

### عدد (6) سے متعلقہ مرد حضرات کے عملیات

یہ افراد کم گو، عمل پسند اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر

اٹھاتے ہیں۔ یہ افراد کسی عورت ذات سے رومانس کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ بلکہ کافی سوچ چار کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کیلئے مفید ہے یا نہیں۔ البتہ یہ خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں۔ مگر اس بات کا ذکر اور احساس دوسرے کو نہیں ہونے دیتے۔ یہ گھریلو ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کو بہر صورت پورا کرتے ہیں۔ یہ افراد اپنی گرل فرینڈ یا محبوبہ کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ہر بات کو سچائی سے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا اس صورت میں ہو گا۔ جبکہ ان کا دل نہ بھر گیا ہو۔ اور اگر اپنی محبوبہ یا شریک حیات پر ان کو شک ہو جائے۔ تو ان کو سمجھانا ناممکن ہے۔ کیونکہ ان کا فیصلہ صرف اس کو طلاق دینے یا چھوڑ دینے پر ہوتا ہے۔ دوسروں میں یہ افراد نکتہ چینی اکثر کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان پر نکتہ چینی کرے۔ تو یہ فوراً بھولہ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں پر زیادہ اور اپنے آپ پر کم اعتبار کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ پر اعتبار کرنا سیکھ جائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کو خصوصی طور پر دوسروں کی زندگی میں نقص ڈھونڈنے کی عادت ترک کر دینی چاہئے۔ معاشی طور پر یہ افراد پریشان حالی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں روپے پیسے جمع کرنے کے منصوبے تو بہت ہوتے ہیں۔ مگر نامکمل خواب ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ جتنا کماتے ہیں فوراً ہی اڑا دیتے ہیں۔ اور اکثر ان کی زندگی مقروض رہنے میں گزرتی ہے۔ یہ افراد اپنی اولاد کے حق میں بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اور ان کو ہر طرح سے خوش کرنے اور رکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ افراد یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی میں کچھ بھی نہ کرے اور صرف ان کے سر پر عیش و عشرت کرے۔ اور اسی ایک نقص کی بناء پر ان کی اولاد زندگی میں کامیاب نہیں ہوتی اور عیش و عشرت زیادہ کرتی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں یہ افراد کوڑی کوڑی کا حساب رکھتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں ان کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے۔

## عدد (6) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		آ		
الرحیم	204	صاحب اختیار	AAJIR	آجر
السلام	204	قابلیت	ARAJ	آرج
الباری	411	نشانی	AAAYAT	آیت
		ا		
العلیم	294	ذہین	ABSAR	ابصار
الرقیب	15	نخی	AJWAD	اجواد
الحکیم	150	پاک دامن	AHSAN	احسان
الباعث	249	زعفران	AHMAR	احمر
المقتدر	69	بڑا حاکم	AHKAM	احکم
المقسط	906	چمکدار	AZHAR	ازہر
الجامع	249	گر جدار	ARZAM	ارزام
الرحیم	402	تحفہ	IRFAN	ارفعان
السلام	213	عقلمند	AREEB	اریب
الباری	213	سفید	AZHAR	ازہر
العلیم	132	سلامتی والا	ISLAM	اسلام
الرقیب	195	خالص	ASDAQ	اصدق
الحکیم	105	بیعت عادل	AADAL	اعدل

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
افروز	AFROZ	زیادہ	294	الباعث
افشار	AFSHAR	مختی	582	المقتدر
الماس	ALMAS	موتی	132	المقسط
المانت	AMANAT	محافظت	492	الجامع
انظمام	INTAMAM	شمولیت	141	الرحیم
انوار	ANWAAR	نورانی	258	السلام
<b>ب</b>				
بارق	BARIQ	روشن	303	الباری
باری	BARI	بنائے والا	213	العلیم
باقر	BAQIR	ذہین	303	الرقیب
بتیاز	BATYAZ	مخت	420	الحکیم
برفش	BARFISH	دلربا	582	الباعث
برہان	BURHAN	دلیل	285	المقتدر
بریتق	BAREEQ	چمکاہٹ	312	المقسط
بسل	BISMIL	فدا	132	الجامع
بکر	BAKAR	بڑھتا	222	الرحیم
بلاول	BALAWAL	ایک راغنی	69	السلام
بیطار	BAITAR	معالج	222	الباری

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		پ		
العلیم	303	سر دار	PASHA	پاشا
		ت		
الرقیب	447	جواز	TAWHEEL	تاویل
الحکیم	483	سجانا	TAIMEEL	تجمیل
الباعث	528	سجایا	TAHSEEN	تحمین
المقتدر	1320	ترجیح	TAFZEEL	تفصیل
المقسط	510	پرہیزگار	TAQI	تقی
الجامع	456	مہروسہ	TAWAKKUL	توکل
		ث		
الرحیم	690	تقصد	SAQEEF	ثقیف
السلام	600	انمول	SAMEEN	ثمین
الباری	690	جن و انس	SAQALAIN	ثقلین
		ج		
العلیم	51	مصمم ارادہ	JAZIM	جازم
الرقیب	114	جمع کرنے والا	JAME	جامع
الحکیم	24	زندہ	JAVAID	جاوید
الباعث	357	سورج	JAMSHED	جمشید

اسم الہی	حروف انجید	مطلب	انگریزی	نام
		ح		
المقتدر	69	سر دار	HAKIM	حاکم
المقسط	411	دلیل	HUJIAT	حجت
الجامع	222	حسین	HADEER	حدید
الرحیم	258	چار دیواری	HAREEM	حریم
السلام	519	نیکیاں	HASANAT	حسانت
الباری	618	اصل	HAQEEQAT	حقیقت
العلیم	69	جائز	HALAL	حلال
الرقیب	60	بہادر	HAMZA	حزہ
الحکیم	258	انمیزی	HUMER	حمیر
الباعث	222	شیر	HAIADAR	حیدر
المقتدر	258	نیک	HAIRAM	حیرم
		خ		
المقسط	1041	مہر لگانے والا	KHATIM	خاتم
الجامع	645	خدمت کرنے والا	KHADIM	خادم
الرحیم	807	مشرق	KHAWAR	خاور
السلام	1068	مبارک	KHUJASTA	خجستہ
الباری	690	قائم دائم	KHALDOON	خلدون
العلیم	960	سرور	KHUSHNOOD	خوشنود

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ر		
الرقیب	96	نام پیغمبر	DANYAL	دانیال
الحکیم	15	محبوب	DAOD	داؤد
الباعث	339	خوشحال	DILSHAD	دلشاد
		ز		
المقتدر	843	مچھلی والا	ZULLOON	ذوالنون
المقسط	816	شو قین	ZAOQI	ذوقی
الجامع	717	عقلمند	ZUHAIB	ذہیب
		ر		
الرحیم	609	سکون	RAHAT	راحت
السلام	861	مضبوط	RASIKH	راخ
الباری	1203	مائل	RAGHIB	راغب
العلیم	303	انتظار کرنے والا	RAQIB	راقب
الرقیب	204	امید	RIJA	رجاء
الحکیم	267	صاحب وقار	RAZEEN	رزین
الباعث	321	خوشنما	RANA	رعنا
المقتدر	1050	پارسا	RAMEEZ	رمیض
		ز		
المقسط	78	ماتحت	ZAMIL	زال

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الجامع	213	چکدار	ZAHIR	زاہر
الرحیم	267	سئرا	ZARREEN	زرین
السلام	15	سدا جاری	ZAHAB	زہاب
الباری	213	روشن	ZAHAR	زہار
العلیم	24	روشن	ZUHAIB	زہیب
<b>س</b>				
الرقیب	78	مضبوط	SADEED	سدید
الحکیم	114	ذاکر	SADEEM	سدیم
الباعث	159	جوان مرد	SAFEET	سفیط
للمقتدر	150	سلطنت	SULTAN	سلطان
المقبسط	150	چنبیلی	SAMAN	سمن
الجامع	114	سردار	SAMEED	سمید
الرحیم	546	شہد	SAFOOT	سفوت
السلام	276	اول	SAWAIR	سور
الباری	105	سعد ستارہ	SUHAIL	سہیل
العلیم	150	تلوار	SAIF	سیف
الرقیب	123	بے قرار	SEEMABI	سیمابی
<b>ش</b>				
الحکیم	303	نوجوان	SHAB	شاب



نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
شاہین	SHAHEEN	باز	366	الباعث
شرق	SHARAQ	آفتاب	600	المقتدر
شطیب	SHATEEB	بلندی	321	المقسط
شمشاد	SHAMSHAD	قد آور درخت	645	الجامع
شوکت	SHOAKAT	شان	726	الرحیم
شیر	SHAIR	قوت والا	510	السلام
<b>ص</b>				
صادق	SADIQ	سچا	195	الباری
صباح	SABAHAT	سفیدی	501	العلیم
صحات	SAHABAT	دوست	501	الرقیب
صدیق	SADEEQ	سچا	204	الحکیم
صرد	SARD	خالص	294	الباعث
صنوبر	SANOBAR	بلوط	348	المقتدر
صوفی	SUFI	نیک	186	المقسط
صیدا	SEDA	جنگل	105	الجامع
<b>ض</b>				
ضامر	ZAMIR	مخفی	1041	الرحیم
ضمضم	ZAMZAM	بہادر	1680	السلام
ضمیر	ZAMEER	قلب	1050	الباری

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ط		
العلیم	42	چاہنے والا	TALIB	طالب
الرقیب	294	عمدہ شے	TURFA	طرفہ
الحکیم	42	آرزومند	TULAB	طلاب
		ظ		
الباعث	951	آرزومند	ZAMI	غای
المقتدر	1581	دل لگی	ZARAFAT	ظرافت
		ع		
المقسط	105	منصف	AADIL	عادل
الجامع	411	نیک و پارسا	ARFEEN	عارفین
الرحیم	321	بہادر	AARAN	عارن
السلام	141	دنیا	AALAM	عالم
الباری	141	عمدے والا	AAMIL	عالم
العلیم	114	درویشی	ADAM	عدم
الرقیب	114	برابر	ADEEL	عدیل
الحکیم	870	عظمت	AZAQ	عزق
الباعث	600	عفت	ASMAT	عصمت
المقتدر	1410	بڑائی	AZMAT	عظمت
المقسط	231	پاکبازی	AFAF	عفاف

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الجامع	960	ہم مرتبہ	AFEEZ	عفیض
الرحیم	240	نیک	AFEEF	عقیف
السلام	177	عاقبت	UQBA	عقبہ
الباری	132	چھوٹا سا	ANZA	عنزہ
العلیم	141	محافظ	EASA	عیسیٰ
<b>غ</b>				
الرقیب	1203	جاری	GHABIR	غابر
الحکیم	1041	قیمتی	GHALI	غالی
الباعث	1410	فہم داری	GHAREER	غریر
المقتدر	2130	طاقتور	GAZANFAR	غضنفر
<b>ف</b>				
المقسط	501	بہادر	FATIK	فاتیک
الجامع	285	اکیلا	FARID	فارو
الرحیم	231	نازک اندام	FANIQ	فانیق
السلام	780	جدائی	FURQAT	فرقت
الباری	321	نرم و نازک	FARYAL	فریال
العلیم	285	نازاں	FIRA	فرہ
الرقیب	294	بے مثال	FAREED	فرید
الحکیم	1320	دلانی	FAZEELAT	فضیلت

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباعث	186	بلند	FAQQ	فوق
المقتدر	303	فاتح	FEEROZ	فیروز
<b>ق</b>				
المقسط	195	پیشانی	QASID	قاصد
الجامع	105	رہنما	QAID	قائد
الرحیم	141	موجود	QAIM	قائم
السلام	150	بہادر	QADOOM	قدوم
الباری	501	آرام	QARAR	قرار
العظیم	312	بہت نزدیک	QAREEB	قریب
الرقیب	150	سیدھا	QAYYAM	قیم
<b>ک</b>				
الحکیم	33	مخنتی	KADIJ	کادج
الباعث	312	کامیاب	KAMRAN	کامران
المقتدر	141	باتونی	KALIMAN	کلیمان
المقسط	726	بہتات	KAOSAR	کوثر
<b>گ</b>				
الجامع	60	پھول کا ٹھلاڑی	GULBAZ	گل باز
الرحیم	267	فیاض	GULRAIZ	گل ریز
السلام	258	چمن	GULZAR	گلزار

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباری	231	جوہر	GOHAR	گوہر
<b>ل</b>				
العلیم	78	ولستہ	LAZIM	لازم
السلام	141	چکدار	LAME	لامح
الباری	33	قائم	LAIB	لائب
العلیم	132	ماہر	LABQ	لبق
الرقیب	141	زبان	LISAN	لسان
<b>م</b>				
الحکیم	645	مغزز	MADIKH	مادخ
الباعث	105	بہادر	MASAD	ماسد
المقتدر	50	جائز	MABAAH	مباح
المقسط	483	روشن	MUTAJALLI	متجلی
الجامع	780	چکدار	MUSMER	مشر
الرحیم	51	حیثیت والا	MAJAZ	مجاز
السلام	51	از سر نو بندہ کرنے والا	MUJADDID	مجدد
الباری	60	سر پرست	MUJEEZ	مجیز
العلیم	339	چھایا ہوا	MUHASIR	محاصر
الرقیب	159	نیک	MUHSAN	محسان
الحکیم	1086	مصدقہ	MAKHTWOM	مختوم

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحکیم	951	یوا فضل کرنے والا	MIFZAL	مفضل
الباعث	744	زور آور	MUQTADIR	مقتدر
المقتدر	204	پاکیزہ	MUQADDAS	مقدس
المقسط	240	مراد	MAQSOOD	مقصود
الجامع	87	بزرگ	MUMIID	مجید
الرحیم	141	بہت احسان کرنے والا	MANNAN	منان
السلام	780	فاح	MUNTASIR	منتصر
الباری	276	کمال تحقیق کو پہنچا ہوا	MANSOOS	منصوص
العلیم	150	طاقتور	MANEEN	متین
الرقیب	60	پیارا	MADOOD	مودود
الحکیم	60	مدد دیا گیا	MOEYYAD	مویید
الباعث	60	مددگار	MAYEED	موید
السلام	159	ماہر علم	MUHANDIS	مهندس
<b>ن</b>				
المقتدر	762	عشش	NABEEZ	نبیذ
المقسط	456	شرافت	NIJABAT	نجابت
الجامع	654	یکانی	NUDRAT	ندرت
الرحیم	114	عقلند	NADAS	ندس
السلام	114	امید	NADEEN	ندین

اسم الہی	حروف ابجد	بمطلب	انگریزی	نام
الباعث	690	قابل تعظیم	MAKHDOOM	مخدوم
المقتدر	649	حاکم	MIDRA	مدہ
المقسط	960	ز	MUZAKKAR	مذکر
الجامع	249	فرحت	MIRAH	مراح
الرحیم	294	قیمتی	MARJAN	مرجان
السلام	330	تیز شے	MARSAL	مرسال
الباری	330	بھیجا ہوا	MURSIL	مرسل
العلیم	1248	پسندیدہ	MARGHOOB	مرغوب
الرقیب	258	خشنے والا	MAREEH	مریح
الحکیم	159	چاندی	MSAHAN	مساکن
الباعث	141	چراغ	MISBAH	مصباح
المقتدر	168	اصلاح کرنے والا	MUSLIH	مصلح
المقسط	186	محفوظ	MASON	مصنوع
الجامع	132	بہادر	MUAVIYA	معاویہ
الرحیم	114	عربی نام	MAAD	معد
السلام	1050	بزرگ	MUOZZAM	معظم
الباری	816	چلایا ہوا	MUAVIZ	معوذ
العلیم	150	عیال دار	MUEEL	معیل
الرقیب	528	چابی	MIFTAH	مفتاح

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباری	960	ڈرانے والا	NAZEER	نذیر
العلیم	150	جد اگانہ	NASEEL	نسلی
الرقیب	1050	سوتا	NAZR	نضر
الحکیم	87	عطا	NAWAL	نوال
الباعث	60	عادت	NIHAD	نہاد
<b>و</b>				
المقتدر	177	بالوصاف	WASIF	واصف
المقسط	24	خوبصورت	WAJEEH	وجیہ
الجامع	15	دوستی	WIDAD	وداد
الرحیم	24	چاہنے والا	WADEED	ودید
السلام	87	عمد جلالا	WAFA	وفا
الباری	186	بلند	WAQEA	ووقع
العلیم	15	تاباں	WAHHAI	وہاج
<b>ہ</b>				
الرقیب	420	رہنمائی	HADAYAT	ہدایت
الحکیم	420	ہلی	HURERA	ہریرہ
الباعث	222	عقلمند	HAZEER	ہزیر
المقتدر	96	ہم خیال	HAMAN	ہمان
المقسط	15	ہدایت یافتہ	HOOD	ہود



## عدد (6) مرد و حضرات کا فال نامہ

ان افراد میں سے روحانی طور پر بیمار ہونے والا اللہ کا نام لئے بغیر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا عیسائیوں کے قبرستان سے گذرا ہے۔ اب اس پر نظر بد کا اثر ہے۔ یہ سب کچھ بدھ کے دن اس کے ساتھ ہوا ہے۔ علامت کے طور پر یہ سوتے ہوئے عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ اور اپنی ایڑھیاں زمین پر رگڑتا ہے۔ پیاس اس کو بہت لگتی ہے۔ بخار اب زیادہ رہتا ہے اس کے بدن میں خون اور صفرا کا ہے۔ کاندھوں پر بوجھ اور کمر میں درد رہتا ہے۔ اس کے علاج کے طور پر صندل کے شربت میں ان آیات کو زعفران سے لکھ کر روزانہ اس پانی کو بغیر ایک چمچ نارمنہ پی لیا کرے۔ اور اسی کو دوسری مرتبہ لکھ کر اپنے گلے میں باندھ لے۔ انشاء اللہ اس طرح کی تمام قباحتوں سے محفوظ رہے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ اقادعو الرحمن ایا ما ندعوا  
 فله الاسماء الحسنی ولا تجهر بصلوتک ولا تخفت بها وابتغ بین  
 ذالک سبیلًا وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک  
 فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا و نزل من القرآن  
 ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک با  
 ابصار لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ  
 معافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء  
 وهو السميع العليم۔ (فلان بن فلان)

### درد گردہ و پتھری کا خاتمہ

نمر کے کنارے سے ایک قسم کی بوٹی گھوڑ سمی کم از کم دو کلو لیکر اس کو خشک کریں اور  
 اس کو کوٹ کر اس کو سفوف حاصل کریں۔ پھر بکھڑا یہ بھی دو کلو لیکر اس کو خشک کر کے اس کا بھی  
 سفوف حاصل کریں۔ ان دونوں سفوف کا ملا کر رکھ لیں۔ اگر گردے میں پتھری درد ریح کے  
 سبب ہو تو اس سفوف کو چار گرام کی مقدار میں پانی کے ساتھ کھائیں۔ اور اگر گردے میں پتھری

ہو تو عدد سٹے لا کر اس کے اندر جو بال ہوتے ہیں۔ ان کو سٹے سے علیحدہ کر کے ان بالوں کا قہوہ نکالیں۔ اور خوراک اسی مقدار میں اس قہوے کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاء اللہ شفاء ہوگی۔

### اسہال سے نجات کیلئے

چار رتی کپڑے دھونے کا سوڈا، اور چار رتی نمک لاہوری، ان دونوں کو آپس میں ملا کر گاڑھی لسی میں حسب ضرورت ڈال کر پی لے۔ اور اگر درد تو لہج بھی ہو تو بھی اسی طریقہ کو استعمال کرے۔ انشاء اللہ ہر طرح سے شفاء کے کاملہ نصیب ہوگی۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اس طرح باندھے۔ کہ نقش پیٹ کے اوپر رہے۔

۱۰۱۷۷۹	۱۰۱۷۸۳	۱۰۱۷۸۶	۱۰۱۷۷۲
۱۰۱۷۸۵	۱۰۱۷۷۳	۱۰۱۷۷۸	۱۰۱۷۸۳
۱۰۱۷۷۴	۱۰۱۷۸۸	۱۰۱۷۸۱۰	۱۰۱۷۷۷
۱۰۱۷۸۲	۱۰۱۷۷۶	۱۰۱۷۸۷	۱۰۱۷۸۷

### عارضہ قلب سے نجات کیلئے

دل کے تمام عارضوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے ہر بڑے کامر بہ کثرت سے کھائے اس کے علاوہ اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے دل کے مقام پر باندھے۔ اللہ کے حکم سے تمام دل کے مرضوں سے مکمل نجات ہوگی۔ انشاء اللہ

۳۳۳۸	۳۳۴۱	۳۳۴۶	۳۳۳۱
۳۳۴۳	۳۳۴۲	۳۳۴۷	۳۳۴۲
۳۳۴۳	۳۳۴۶	۳۳۴۹	۳۳۴۶
۳۳۴۰	۳۳۴۵	۳۳۴۴	۳۳۴۵

### ہر مقصد حاصل ہو

اگر ان افراد کو اپنی جائز حاجت ہو۔ اور اس میں کافی رکاوٹیں درپیش آرہی ہوں۔ تو اس

عمل کو کرے۔ سورۃ فاتحہ شریف نماز فجر کی سنتیں پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر پانچ مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کا مکمل تصور رکھے پھر اسکے بعد فرض ادا کرے۔ اور اس دعا کو ستر مرتبہ پڑھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان  
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الرحمن الرحيم بسم الله  
الرحمن الرحيم لا اله الا هو الرحمن الرحيم

### قرض سے مکمل نجات کیلئے

ان افراد پر اگر قرض اتنا چڑھ گیا ہو جس کا اترنا ناممکن بن گیا ہو اور ان کی یہ حالت ہو جانے سے ان کے اپنے پرانے من گئے ہوں۔ تو اس لعنت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے۔ عشای کی نماز پڑھ کر ایسی جگہ جائیں جو بستی سے باہر ہو۔ یعنی جہاں عام عوام کا گذر نہ ہو۔ اور اس عمل کے دوران انہیں کوئی بھی نہ دیکھے اور دریا یا نہر کا کنارہ ہو یا ضروری ہے۔ اگر ایسا مقام مل جائے تو وہاں پر جا کر ایک سو ایک مرتبہ بلند آواز اقامت والی اذان دے۔ اور گھر واپس چلا آئے اور اپنی ہمت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرے اور خاموشی سے سو جائے۔ اگر کوئی بلائے بھی تو اشاروں سے سمجھائے بات ہر گز نہ کرے۔ اس عمل کو کم از کم اکیس دنوں سے لیکر چالیس دنوں تک کرے۔ اللہ کے حکم سے ان کو روحانی طور پر غیب سے ویلے نہیں گے۔ اور یہ خود بھی حیران ہو گئے۔ انشاء اللہ

### تسخیر محبوب کیلئے

ان آیات کو اپنے محبوب کے نام کے حروفِ اجد کی تعداد کے مطابق پڑھ کر شہد پر دم کر کے اپنے محبوب کو کھلا دے۔ اور اس نقش کو زیادہ تعداد میں لکھ کر زعفران کے ساتھ بوقت زوال ان کو تیز آگ میں جلادیا کرے۔ ان کا محبوب ان کے حق میں مسخر ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم . عسى الله ان يجعل بينكم وبين عاديتم  
منهم مودة و الله قدير والله غفور رحيم وبحق وان خفتم بينهما  
فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهله ان يرید اصلاحا يوفق الله  
بينهما ان الله كان عليما خبيرا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او

اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و  
احضرت الانفس الشح وان تحسنوا و تقوا فان الله كان بما تعملون  
خبيرا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله  
فقد فاز فوزا عظيما والله قدير والله غفور رحيم. فلان بن فلان علي  
الحب فلان بنت فلان

۱۸۴۴۳	۱۸۴۴۶	۱۸۴۴۹	۱۸۴۵۲
۱۸۴۴۸	۱۸۴۵۱	۱۸۴۵۴	۱۸۴۵۷
۱۸۴۵۰	۱۸۴۵۳	۱۸۴۵۶	۱۸۴۵۹
۱۸۴۵۲	۱۸۴۵۵	۱۸۴۵۸	۱۸۴۶۱

### دشمن کو زیر کرنے کیلئے

یہ افراد اپنے مخالف افراد کو زیر کرنے کیلئے اس عمل کو پڑھیں اور اس نقش کو اپنے مخالفین کے نام  
لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھیں ان کے تمام دشمن ان کے زیر ہونگے۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم - وطن انه الفراق والتفت الساق بالساق  
الى ربك يومئذ الساق اللهم فرق بينهما كما فرقت بين السماء  
والارض وكما فرقت بين آدم وابليس وكما فرقت بين ابراهيم ونمرود  
وكما فرقت بين موسى وفرعون وكما فرقت بين محمد رسول الله  
صنى الله عليه وسلم -

## برائے زبان بندی

یہ افراد اپنے مخالفوں کی زبان بندی کیلئے اس کو اپنے دشمنوں اور مخالفین کا تصور باندھ کر پڑھیں۔ اور اس نقش کو اسی نیت سے زعفران سے لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھیں۔ ان کے تمام دشمن و حاسدان کے خلاف زیادہ زبان نہیں چلائیں گے۔ اور یہ اس عمل کے ذریعے ان پر غالب رہیں گے۔ لیکن اس کو جائز جگہ استعمال کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم . فسيفكيكهم الله وهو السميع العليم  
 وبحق صم بكم عمى فهم لا يرجعون صم بكم عمى فهم لا يعقلون  
 صم بكم عمى فهم لا يمكرون صم بكم عمى لا ينطقون صم بكم  
 عمى فهم لا يتكلمون صم بكم عمى فهم لا ينطقون صم بكم عمى  
 فهم لا يبصرون . فلان بن فلان بندي زبان بندي زبان بندي

۸۸۸۱۳	۸۸۸۱۷	۸۸۸۲۰	۸۸۸۰۷
۸۸۸۱۹	۸۸۸۰۸	۸۸۸۱۳	۸۸۸۱۸
۸۸۸۰۹	۸۸۸۲۲	۸۸۸۱۵	۸۸۸۱۲
۸۸۸۱۲	۸۸۸۱۱	۸۸۸۱۰	۸۸۸۲۱

## ترقی و فراخی رزق کیلئے

اگر ان افراد کا کاروبار کسی بھی طرح نہ چل رہا ہو تو اس عمل کو مسجد میں اپنے نام کے حروف اچھ کی تعداد میں ورد کرے۔ اور اس نقش کو ایسی جگہ لگائے جہاں تمام گاہکوں کی نظر پڑے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . لا اله الا الله والله أكبر كئيرا و سبحان  
 الله والحمد لله كثيرا اللهم انى استئلك من فضلك و رحمتك  
 فانهما بيدك لا يملكهما احد سواك اللهم اقض دينى و وسع على  
 رزقى . فلان بن فلان .

۱۲۶۳۸۲	۱۲۶۳۸۵	۱۲۶۳۷۱
۱۲۶۳۷۸	۱۲۶۳۸۳	۱۲۶۳۷۹
۱۲۶۳۷۷	۱۲۶۳۸۴	۱۲۶۳۷۲

### آسیب کے خاتمے کیلئے

اگر ان افراد کو آسیب کی شکایت ہو تو سفید کاغذ پر اس نقش کو لکھ کر اس کے اوپر شہد ڈال کر اسکو چاٹ لیا کرے اور اس کاغذ کو بھی نکل لیا کرے۔ اور دوسری عزیمت کو بھی کاغذ پر لکھ اس کو اورے چراغ میں ڈالے اور اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر اس کے روبرو بیٹھ کر اس کو عشاء کی نماز کے بعد جلادیا کرے اور اس عمل کو کم از کم گیارہ دنوں تک کرے۔ انشاء اللہ شقائے کاملہ ہوگی۔

۶۸۸۲۳	۶۸۸۲۷	۶۸۸۳۰	۶۸۸۱۶
۶۸۸۲۹	۶۸۸۱۷	۶۸۸۲۳	۶۸۸۲۸
۶۸۸۱۸	۶۸۸۳۲	۶۸۸۲۵	۶۸۸۲۲
۶۸۸۲۶	۶۸۸۲۱	۶۸۸۱۹	۶۸۸۳۱

### چراغ میں جلانے والی عزیمت

عليقا مليقا. طليقا انت تعلم ما في قلوبهم العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الواح الواح الواح عمروود شداد هامان فرعون قارون ابو جهل قابيل من جنود ابليس اجمعون بحق خاتم سليمان بن دائو عليه السلام وهر چه در بدن آسيب زده باشد بند کور موکلان فتيله درين چراغ بسته بيارند و سوزانند خاکستر گردد شود دفع شود.

### گھر اور دکان کی ہر طرح سے حفاظت کیلئے

یہ افراد اللہ کی پناہ میں رہنے کیلئے اور اپنے گھریلو ہر طرح کے شر و شیطان سے محفوظ

رکھتے کیلئے اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے گھر کے مین دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگادیں۔ اللہ کے فضل سے ان کا گھر ہر طرح کے شر و شیطان سے مکمل محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس مقصد کے حل کیلئے اس کو اپنی دوکان پر بھی کر سکتے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه وسلم نبى الرحمة صلاة تعصمنا بها من الافات وتطهرنا بها من جميع السيئات اللهم انى توصلت اليك بالف الف قل هو الله احد امامى ابدا والف الف قل هو الله احد وراء اکتفائى مددا والف الف قل هو الله احد عن يمينى تحرز المال والولد والف الف عن يسارى تحرسنى من الشدائد ابدا انى دخلت فى ورع الله الحصين الازلى ودخلت فى حفظ الله صندوق العفو واقفاله لا اله الا الله مفتاحه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

۲۸۴۴۲	۲۸۴۴۶	۲۸۴۴۹	۲۸۴۴۵
۲۸۴۴۸	۲۸۴۴۷	۲۸۴۴۱	۲۸۴۴۷
۲۸۴۴۷	۲۸۴۴۱	۲۸۴۴۴	۲۸۴۴۰
۲۸۴۴۵	۲۸۴۴۸	۲۸۴۴۸	۲۸۴۴۰

### مسان سے ہمیشہ محفوظ رہنے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی چھ مسان کا شکار ہو گیا ہو تو اس عزیمت کو زعفران سے لکھ کر بچے کے گلے میں باندھ دے۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .  
بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير انه من سليمان بن داود عليه السلام اهيا اشراھيا فى السفر خالدا او مخلدا او باسمه دركات يعون الله تعالى فى كل شفاء و عليهم يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا الله يا الله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين .

## ہر مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو

ان افراد کو ملک سے باہر جانے میں، گھریلو پریشانیوں میں، کاروباری رکاوٹوں کو دور کرنے میں، اور اس کے علاوہ کسی بھی مشکل میں یہ افراد بری طرح پھنس چکے ہوں۔ ان تمام کاموں کے حل کیلئے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیں۔ اور بوقت ضرورت اس کو کر لیا کریں۔ انشاء اللہ ان کے راستے میں تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ اپنی منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اس عمل کو صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد روزانہ بوقت ضرورت ایک تسبیح کے حساب سے پڑھا کرے۔ یہ ان کیلئے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور تمام کاموں کا حل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ و صل اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم حرست نفسی و اہلی و مالی و ما حضر فی و ما غاب عنی یا الخی الدائم الذی لا یموت و الجات ظہری فی حفظ ذلک للخی القیوم

### زیارت نبی کریم ﷺ

یہ افراد اپنی زندگی میں اس سعادت کو حاصل کرنے کیلئے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پاک بستر پر اس کو دیا جلا کر اپنے مقصد کے حاصل ہونے تک پڑھے اور پڑھتے پڑھتے ہی سو جایا کرے۔ اس سلسلے میں ان افراد کا جتنا عشق کامل ہوگا۔ اتنی ہی جلدی زیارت ﷺ سے مشرف ہوگا۔ انشاء اللہ و المقام اقراء روح محمد منی السلام

### مفرور کو واپس لانے کیلئے

اگر ان افراد کا کوئی عزیز یا رشتہ دار کہیں بتائے بغیر چلا گیا ہو اور اس کی واپسی کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو اس نقش کو مع اس عزیمت کے اس جگہ لٹکائے جہاں سے ان کا عزیز گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے چند دنوں کے اندر واپس آئے گا۔ اس کے بعد کچھ شیرینی اللہ کے نام کی بچوں میں بانٹ دے۔



الشاء ان	تغفالت	منوعت الشاء	سای الشاء	قوع استھا
العین بحق	الشاء یاھشاء	یا اثرھیا	والابلاغ	والاثر اغ
الابانہ	تغفالت	منوعت	الشاسای	الابانہ

## دفع مرگی

اگر ان افراد میں سے کوئی مرگی کا مریض ہو اور اس سے نجات نہ ملتی ہو تو کوئی بھی ان کے کانوں میں یہ باؤ از بلند پڑھے اور اس نقش کو سفید مرغ کے خون سے لکھ کر اس مریض کے گلے میں باندھے۔ یا مریض خود ہی اس عمل کو کر لے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 روحی والقلب یحبکم فی القدم  
 من قبل وجود خلقھما من عدم  
 هل یحمل من باب عرفانکم  
 ان اتقل عن طرق هواکم قدم

اکاف یا کاف	کافیا کذا	حق کلمات	اللہ التامات
من کل دباء	وبلاء نکل	کفان کفا	اکفانوف
کوفانیا	کھنکاف	کفانوف	ایا ذوالکاف
کھنکاف	اکافیا	کوفان	ذوالکاف
فففف	فففف	فففف	فففف

## بواسیر کے خاتمے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کو خونی و بادی بواسیر کی شکایت ہو۔ اور کوئی دوا بھی اثر نہ کر رہی ہو۔ تو اس نقش کو چاند کے مہینے کی ستائیس تاریخ کو زعفران سے لکھ کر اپنی ناف کے مقام پر

باندھے۔ اور کم از کم تین دن تک اس کو اسی جگہ رہنے دے۔ اور نقش ناف سے پہلے بھی نہیں اگر کسی صورت ناف سے نقش ہٹ بھی جائے۔ تو فوراً اس کو ناف پر لگا دے۔ پھر تین دن گزر جانے کے بعد اس کو چاہے کمر کے مقام پر باندھ لے۔ اس کی کوئی قید نہیں اللہ کے فضل سے یواسیر سے مکمل نجات ہوگی۔ اور اس آیت کو دریا کے پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیائے اور اس کو زعفران سے تحریر کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ یَس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۔

یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح

### نظر بد کا مکمل خاتمہ

اگر ان افراد میں سے کسی بچے یا بڑے کو نظر بد کی شکایت ہو اور یہ خواب میں ڈرتے یا چونکتے ہوں۔ تو چاروں قل شریف کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں۔ اور اس عزیمت کو چاندی کے پترے پر کندہ کروا کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پئے اس عمل کو اکیس دنوں تک کرے۔ اللہ کے فضل سے اس مرض کا خاتمہ ہوگا۔ انشاء اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۔ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالانْسِ اِنْ اسْتِطَعْتُمْ اَنْ تَنْقُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْقُذُوا اِلَّا بِسُلْطٰنٍ فِیْہَا الْاِیُّ رَبِّکُمْ تَکْذِبْنَ اَعُوْذُ بِکَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامٰتِ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطٰنٍ وَهٰمٰةٍ عِیْنِ لٰمٰةٍ ۔

### ناف ٹل جانے کیلئے

اگر بار بار ناف ٹل جاتی ہو تو اس کیلئے۔ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی ناف کے مقام پر باندھے اور اسی کو پانی میں ڈال کر اس کا روزانہ نماز منہ پانی پئے کامل شفاء ہوگی۔ انشاء اللہ

سبحان اللہ	سبحان اللہ	سبحان اللہ	سبحان اللہ
الذی لم یجعل	سبحان اللہ العظیم	الذی لم یزل	سبحان اللہ القدیم
سبحان الرحیم	سبحان الرحمن	الذی لم یجعل	سبحان اللہ الجواد
ارحم الراحمین	برحمک یا	سبحان الحکیم	سبحان الکریم

### دکان کی ترقی کیلئے

اگر ان افراد کا اچھا بھلا چلنا ہو اور بار بار بڑ گیا ہو تو اس کے مکمل علاج کیلئے اس نقش کو علی الصبح دریا کے کنارے پر جا کر زعفران سے لکھو۔ اور اس کو اپنی دوکان میں ایسی جگہ لگائے جہاں سب کی نظر پڑے۔ اللہ کے حکم سے کاروبار کی ترقی میں بہت اضافہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

یا اللہ یا سبط	یا اللہ یا رحیم	یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا سبط
یا اللہ یا حکیم	یا اللہ یا قدوس	یا اللہ یا الصمد	یا اللہ یا حکیم
یا اللہ یا وھاب	یا اللہ یا الخبیر	یا اللہ یا کبیر	یا اللہ یا وھاب
یا اللہ یا نور	یا اللہ یا حافظ	یا اللہ یا بصیر	یا اللہ یا نور
یا اللہ یا اللہ یا اللہ	یا اللہ یا اللہ یا اللہ	یا اللہ یا اللہ یا اللہ	یا اللہ یا اللہ یا اللہ

### سفلی علم کے ذریعے بستہ ہونا

اگر ان کے کسی عزیز نے ان کی شریک حیات اور ان کے درمیان ان کی شہوت باندھ دی ہو۔ اور یہ اس مرض کے تحت جائز جماع پر بھی قادر نہ ہو۔ تو اس نقش کو مع اس عزیمت کے زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔ اور اسی کو دوسری مرتبہ لکھ کر اس پر شہد ڈال کر اس کو چاٹے اور اس کاغذ کو نکل لے۔ صحت کامل عطاء ہوگی۔ انشاء اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش محمد پس علی دست و راست امام حسن دست چپ امام حسین کلید دائو قفل سلیمان پیغمبر نگہبان  
یاک ذات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

الطهم اعوذ بك	من التردى	ومن الفرق	ومن المحرق
ومن الهدم	واعوذ بك من	ان يخبطني	الشيطان
عند الموت	واعوذ بك من	ان اموت في	سبيلك
مدبر او	اعوذ بك من	ان اموت	لديفا

عدد (6) مرد حضرات کے دوست افراد

عدد (8) ستارہ زحل برج جدی ودلو

آباد، آتش، آثر، آمل، ایرار، اپکار، اثر، اثنان، احشام، احمد، اخدان، اخضر، ادار، ادیب، ارجون، ارقم، ارید، اسامہ، اساول، اسحاق، اسحر، اصمعه، اطهر، انظر، اعتبار، اعتصام، افسر، افسردہ، الفح، اقبال، اقمہ، اکید، الطاف، اصل، امیر، انصر، ائبق، بشیر، بطین، بیہاء، بہنام، بکی، پاییدہ، تاج، تائیس، تسیر، تشنہ، تقید، تیمور، ثروت، جلد، جام، جبار، جبروت، جبل، جبیر، جبروت، جرار، جواز، جودت، جید، حاتم، حاذق، حارس، حافظ، حامد، حدید، حبیب، حفیظ، حماد، خاشع، خلف، خضر، ذی شان، رجل، رذاف، رسول، روشان، ربیعان، زابد، زرناب، زفر، زمان، زمر، ساجج، ساہر، سافر، سباح، سبط، سحاب، سحر، سرخاب، سرفراز، سروش، سفیر، سودا، سیمان، شاد، شارب، شاکر، شباب، شبل، شبیر، شکیب، شہامت، شہوار، صعود، صمد، صنوان، صوب، صہبا، صہیب، صحنی، طائن، طاہر، طور، طہیر، ظاہر، ظہیر، عاتق، عاذب، عاسل، عاص، عابد، عذار، عسکر، عصف، عطاء، عظامہ، عفر، علیان، علوی، عہید، عیص، غثر، غفران، غمیر، غواص، غیث، قاجر، فارس، فائض، فخری، فراس، فرزند، فرقان، فروغ، فریدوں، فریس، فصیح، فمد، فیض، قادر، قانی، قانی، قدوس، قدیر، قرہ، قوی، کاجب، کاشر، کبریا، کرم، گلاب، گلبدین، لباب، لیب، لطفان، ماذن، جسم، متبار، منم، متوحہ، مجاہد، محارب، محروس، محصن، محفوظ، محمود، مختار، مخلد، مدخ، مرحب، متخیل، مستطاب، مسلم، مشاہد، مشرف، مشکور، معان، معراج، معین، مفتی، ملیوب، ملدان، ممداح، منصف، منصوب، منصور، منظور، منور، موسیٰ، موفور، مہران، عیسان، ناب، ناصب، ناصر، ناظر، نائب، نباہت، نصیب، نصیر، نظیر، نعیم، نوروز، نوشیر، جہیان، نیر، نیک، وسم، وقاص، ہرمان، ہندوس، ہویدا، یاس، یساول، یعقوب، یقین۔

## عدد (6) مرد حضرات کے مخالف افراد

### عدد (2) ستارہ قمر برج سرطان

آبض، آوار، آرز، آفاق، بدال، اشہام، اشیم، اجمل، احسن، انگر، اخلاص، ارتاش، ارشاد، ارہاب،  
 ارزق، اسد، اشتیاق، اشتر، اصغر، اعزاز، اعوان، افضل، اقتداء، انان، امروز، امین، باذق، بخش،  
 برکات، بلخ، یواب، یارس، تامر، تبارک، تبریک، تجلی، تجلا، تہتم، تنزیل، توفیق، ثمر، ثناء،  
 شین، جادل، جزا، جعفر، جماش، جمال، جملاء، جمیل، حازم، حاسن، حاطب، حامن، حذیفہ، حزمیم،  
 حسان، حسرت، حلیف، حبیب، خبیر، خلیق، داحی، دلیل، دوست، ذکاوت، رازق، ربانی،  
 رئیس، رضا، رضی، رکز، رمضان، زبر، سارب، سلاست، سلیمان، سید، شاداب، شاذ، شاہر،  
 شایان، شخ، شائل، شمیل، شہاب، شہزادہ، زہیر، صالح، صاحب، صافر، صبح، صفوان، صمیان،  
 صنان، ضابط، ضلیح، طارف، طالع، طریف، ظافر، ظراف، ظریف، ظفر، عاقب، عالمگیر، عامل،  
 عرک، عقار، عقیب، عکب، عکرمہ، علی، عبان، غوز، فاضل، فاطر، فتح، فہیل، فرمان، فروزاں،  
 فضیل، فلاح، قاضی، قانت، قدرت، قدس، قربان، قرف، قرلیح، قول، تقاضم، کیف، کیقباد،  
 گل تر، گوگا، گوہر بار، لبان، لطف، لمعان، ماکت، مامون، مبارک، مبشر، متوکل، مجتہد، مجرب،  
 محران، مدار، مراد، مزام، مرتاص، مرث، مرزوق، مرصاد، مرید، مستان، مستبد، مستعان،  
 مسرور، مسج، مشاش، مطہر، مظہر، معنی، مغیث، مقسط، ممتاز، منصب، منظر، منعم، موافق، مہر،  
 میمون، نابل، ناثہ، نبال، نجار، نجیب، نشوان، نصرت، نفیس، نقاد، نورانی، نوشاہ، نوشیرواں،  
 واسح، ہادی، ہیکل، یحییٰ، یمان، یحییٰ۔

### عدد (7) ستارہ قمر برج سرطان

آتک، آرت، آرزو، آشیب، آفتاب، آمر، ابد، ابراہیم، ابریق، احمد، ارتضاء، ارساخ، ارشق،  
 ارکب، ارم، ازہار، اسماعیل، اقرار، اکبر، الفت، امر، انضر، اورنگ، اوصاف، بابر، بادشاہ، باشی،  
 بایزید، بخشیار، بداء، برار، بسالت، بشار، بشر، بلیغ، بیلا، تاجور، تاشف، تاب، تاجر، تبریز، تبسم،

تجاسر، تصحید، تعظیم، تقویم، تنجید، تمکین، تنفیذ، جسات، جوهر، جیش، چراغ، حارث، حاشم، حسین، حشام، حفص، حقانی، حم، حمد، خاذر، خضر، دلاور، ذخار، ذلاقت، راصد، راقم، راکب، رباب، رستم، رشیق، رغد، رفاقت، روشن، ریعان، زابل، زخار، زمیت، زوار، سادات، سحر، سراج، سرتاج، سرور، سطوت، سفینه، شمین، سهام، سعیر، سیم، شارق، شبر، شفقت، شزاده، صادر، صارم، صحمان، صبح، صرام، صلت، صلیل، صمیر، صیان، صیرم، ضاهر، ضرغام، طارم، طالش، طین، طراد، طرفس، طلال، طلحه، طمار، طمل، عانس، عاطف، عامد، عامل، عباس، عدان، عدید، عدیم، عربوی، عریس، عشرت، عکاس، عماد، عمید، عمیم، عزیز، غادی، غالب، غنا، غنی، فازه، فخر، فروتن، قابل، قابوس، قانط، قبیل، قوم، قدر، قدوه، قمر، کابر، کاظم، کبار، کبیر، کتمان، کرار، کفایت، کلمانی، گلبدن، گل ثان، گوهر ریز، لینیق، لحن، لطافت، مبرور، مبروک، متقدم، مجددی، محبت، محذور، محک، محرب، محشود، مدران، مرتبت، مرصود، مزن، مسرت، مصارح، مطیب، معاد، مفتاح، مقبول، مکشف، مودب، نمایت، منتاب، میر، مینو، مانع، نازش، ناصر، ناطق، نجیب، نخب، نسیم، نصر، نضار، نضیر، نظر، نقی، نوید، واضی، وزیر، وصی، وفتی۔

### عدد (1) ستاره شمس برج اسد

آشم، آزر، آذب، آزرده، آشنا، آسن، ائیل، ائیل، اجعتان، اخوان، اودیم، ارتباط، ارجمند، ارزه، ارشاش، اشتر، اصطفی، اعجاز، افزا، افق، آکرام، اکمل، امام، امن، انتخاب، انشا، اوج، ایاز، ایشار، ایجاد، ایوب، برتر، برکت، بیامین، بهار، بهزاد، بهلول، تابش، تبریق، تدهیب، ترائی، ترجمان، تراهر، تسهیل، تصدیق، تفرید، تلید، تلوین، توصیف، نمود، جدار، جدیر، جلال، جمل، جهانگیر، حاجز، حاضر، حزم، حسام، حسیم، حشمت، حقی، حمیس، حنان، خازن، خالص، خصال، خلوت، خلیط، دشتگیر، دیان، دین، ذکاء، ذکی، راشد، رامش، رشاد، رشید، رسیل، زائر، زورق، زسیم، زکاء، زکی، ساحت، ساطل، ساغر، سبر، سکندر، سلسال، سلمان، سملط، بیار، سبح، سنور، شادب، شاهق، شبلی، شتاب، شحاذ، شفیج، شمشیر، صبور، صداقت، ضاحک، ضاخر، ضیاء، طانط، طراز، طروب، ظفر، عازم، عاطر، عائر، عباده، عبود، عبیده، عروقه، عزام، عزبول، عطار، عفت، عقیق، عمران، عرس، عمرو، غازی، غاصف، غباشیر، غدن، غرز، فارح، فارض، فائق، فیر، فریح، فضل، فواد، قاصف، قدیم، قنیر، کاثر، کافور، کامل، کانب، کثیر، کلام، کلیم، کمال، گلبار، گنج، لاجورد، لمعات، لیک، لوی، لہاق، لیاقت، مالک، مان، متقی، متوکل، مجیب، مجیر، مختزن، محسان، محسود، مرتضی،

مرصد، معاذ، معین، مقبل، حقیت، ملاک، ملکوت، مناص، منج، مومن، مبین، نابک، ناجی، ناشی، ناظم، نایب، نبیل، نزاکت، نسران، نصوص، نطاشی، نظام، نقاش، نگار، نمود، نواز، نوح، نوشاد، واحد، واصل، واکل، وجاهت، وحید، وقار، ولی، باد، ہار، ہارون، ہاند، ہاتم، ہجر، ہدی، ہما، یاسر، یزدانی، یاور، یسار، یسیر، یمن۔

### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آزاد، آخر، آل، ابریز، ابی، اہلال، اجلال، اخر، احوز، اختر، اوران، ادہاب، ارض، ارزش، ارمان، ارہام، ازاد، اسبال، استحسان، اشعر، اصغر، اصلاح، اطیب، افتخار، اقتدار، انقمار، انجم، انیس، لوس، ایزد، باذل، باس، بسام، بسیم، بصر، بقا، بہروز، تابال، تاثیر، تاشفین، تمبرد، تیمان، تحذیر، تصویر، تقسیم، تحیم، تواب، ٹیپو، جادہ، جاذب، جالس، جال نثار، جابد، جبران، جلیس، جمان، جنید، چاند، چاہت، حالی، حباب، حریر، حصن، حمدان، حمود، حنیف، خدی، خلیل، خورشید، دانش، داور، ذکریا، ذوالقرنین، راجع، رحیب، رخام، رضوان، روحان، زیب، زکریا، زیاد، زین، سالار، سبات، سبحان، سیوح، سجیل، سخی، سرخان، سعادت، سمیر، سویدہ، شادان، شاذب، شانی، شاہد، شرف، شریح، شعیب، شعیر، شفیق، شکور، شمشیر، شام، شہید، صاغر، صغیر، صفات، صقیر، صلوت، صنیع، صولت، ضرار، ضوفشاں، طارق، طائل، طاؤس، طرب، طریق، طناز، طولیس، طہران، طیب، طیار، ظہور، عاتق، عبال، عبد، عمقری، عتیق، عثمان، عدنان، عرسم، عزیز، عندلیب، عین، غایب، غائر، غسان، فاکر، فائق، فتی، فدا، فرناس، فرحد، فصام، فلک، فگار، فواز، فوزی، فہمید، فیاش، قاصر، قاطب، قراط، قستان، قدیر، قیصر، کرامت، کروٹی، کسام، گلرخ، گل رو، گلشن، گل عذار، گلغشاں، گلنار، گلہار، گولر، گوہر تاب، لازب، لازر، لطیفی، لعل، لقاف، لیم، لیط، ماشل، ماح، ماصف، مانوس، متبطل، مقدر، شیل، محاط، محبوب، محترم، مخزن، مخلص، مخیر، مدام، مدید، مراتب، مرامر، مرجم، مر سوم، مزر، مستفیض، مستحیر، مسلمہ، میتب، مسیطر، مشتاق، مشمر، مشہود، مصطفیٰ، مصعب، معتز، مقتصد، مقدم، کرام، مناقب، موقر، میرال، تاجد، ناموس، نثار، نجی، نجید، نزاہت، نشید، نظور، نعمان، نکین، نوازش، نور، نوفل، واثق، واسط، وحدت، وراد، وفور، وہب، ہاشم، ہشام، ہضور، ہمایوں، یار، یاقوت، یعسوب۔

## عدد (8) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
		۲		
آباد	AABAD	پر رونق	8	القدوس
آتش	AATISH	چمکیلا	701	الجبار
آثر	AASAR	بنا	701	الغفور
آمل	AMAL	امید	71	الحفیظ
		۱		
ابرار	ABRAR	پرہیزگار	404	الحسیب
ابکار	IBKAR	صبح	224	القوی
اثر	ASAR	شمشیر	701	الحمید
اثان	ASNAN	دوسرا	602	الصمد
احشام	AHSHAM	جان نثار	350	القادر
احمد	AHMAD	حمد کیا گیا	53	الطاہر
اخذان	AKHDAN	دوست	656	الباطن
اخضر	AKHZAR	بزر	1601	المانع
ادار	ADAR	نیک	206	القدوس
ادیب	ADEEB	ادب سکھانے والا	17	الجبار
ارجون	ARJOON	ارغوان	260	الغفور
ارقم	ARQAM	لکھا ہوا	341	الحفیظ



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحسیب	215	ارادہ	UREED	ارید
القوی	107	شیر	USAMA	اسامہ
الحمید	98	قاصد	ASAWAL	اساول
الصمد	170	نام پتیر	ISHAQ	اسحاق
القادر	269	روشن دان	ASHAR	اسحر
الطاہر	206	تیز	ASMAA	اصمہ
الباطن	215	بہت طاہر	ATHAR	اطہر
المانع	1106	بہت ظاہر	AZHAR	اظہر
القدوس	674	اعتماد	AETBAR	اعتبار
الجبار	602	نیکی کرنے والا	AETSAM	اعتصام
الغفور	341	بہتر، تاج	AFSAR	افسر
الحفیظ	350	اداس	AFSURDA	افسردہ
الحسیب	179	یوا فصیح	AFSAH	افصح
القوی	134	رتبہ	IQBAL	اقبال
الحمید	341	چاند	AQMAR	اقمر
الصمد	35	سخت	AKEED	اکید
القادر	512	نیکی	ALTAH	الطاف
الطاہر	71	آرزو	AMAL	امل
الباطن	251	سردار	AMEER	امیر

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
انصر	ANSAR	کامیاب	341	المانع
انیق	ANEEQ	عمدہ	161	القدوس
		ب		
بشیر	BASHEER	خوش خبری سنانے والا	512	الجبار
بطین	BATEN	دولت مند	71	الغفور
بہاء	BHA	شاندار	8	الحفیظ
بہنام	BAHNAM	خوش نام	98	الحسیب
بہی	BAHI	عظیم	17	القوی
		پ		
پائندہ	PAINDA	قائم	62	الحمید
		ت		
تاج	TAAJ	کافی	404	الصمد
تائیس	TANEEES	عبادت	521	القادر
تستیر	TASTEER	پوشیدگی	1070	الطاہر
تشنہ	TASHNA	خواہش مند	755	الباطن
تفید	TAFIYA	فخر	494	المانع
تیور	TEMOOR	فولاد	656	القدوس
		ث		
ثروت	SARWAT	دولت مند	1106	القدوس

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ج		
الجبار	206	جبر کرنے والا	JABIR	جابر
الغفور	44	بیالہ	JAM	جام
الحفیظ	206	جبروت والا	JABAR	جبار
الحسیب	611	عظمت	JABROOT	جبروت
القوی	35	پہاڑ	JABAL	جبل
الحمید	215	زبردست	JABEER	جیمیر
الصمد	404	بہادر	JARRAR	جرار
القادر	17	جائز	JAWAZ	جواز
الطاہر	413	خوبی	JODAT	جودت
الباطن	17	بلند	JAYYAD	جید
		ح		
المانع	449	غنی	HATIM	حاتم
القدوس	809	عقل مند	HAZIQ	حازق
الجبار	269	محافظ	HARAS	حارس
الغفور	989	نگران	HAFAZ	حافظ
الحفیظ	53	شکر گزار	HAMID	حامد
الحسیب	26	سخت	HADEED	حدید
القوی	80	خاندانی	HASEEB	حسیب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحسیب	998	محافظ	HAFEEZ	حفیظ
القوی	53	شاکر	HAMAD	حماد
<b>خ</b>				
القادر	971	عاجز	KHASHE	خاشع
الطاہر	710	اولاد	KHALAF	خلف
<b>ذ</b>				
الباطن	980	کشادگی	ZAFAR	ذفر
المانع	1061	ذی وقار	ZEESHAN	ذی شان
<b>ر</b>				
القدوس	233	ہیرو	RAIOL	رجل
التجبار	1601	پھوپھاز	RAZAZ	رذاذ
الغفور	926	ہادی	RASOOL	رسول
الحفیظ	557	نامور	ROSHAN	روشان
الحسیب	269	روشن	REHAN	ریحان
<b>ز</b>				
القوی	17	عابد	ZAHID	زاہد
الحمید	260	خالص سونا	ZARNAB	زرناب
الصمد	287	طاقتور	ZUFAR	ذفر
القادر	98	وقت	ZAMAN	زمان

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الطاہر	251	جوہر	ZAMURRAD	زمرد
<b>س</b>				
الباطن	134	خوشنماچہرہ	SAJIE	ساج
المانع	269	جادوگر	SAHIR	ساحر
القدوس	341	مسافر	SAFIR	سافر
الجبار	71	حوصلہ	SBAB	سیاح
الغفور	71	قبیلہ	SIBT	سبط
الحفیظ	71	بادل	SAHAB	صحاب
الحسیب	769	کشش والا	SAHHARR	سحار
القوی	863	ایک پرندے کا نام	SURKHAB	سرخاب
الحمید	548	ممتاز، کامیاب	SARFARAZ	سرفراز
الصمد	566	فرشتہ	SAROSH	سروش
القادر	350	نمائندہ	SAFEER	سفیر
الطاہر	71	عاشق	SODA	سودا
الباطن	161	نشان	SEMAN	سیمان
<b>ش</b>				
المانع	305	خوش	SHAD	شاد
القدوس	503	پینے والا	SHARIB	شارب
الجبار	521	شکر کرنے والا	SHAKIR	شاکر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الغفور	305	جوانی	SHABAB	شاب
الحفیظ	332	شیر کاچھ	SHIBL	شیل
الحسیب	512	خوبصورت	SHABBEER	شبیر
القوی	503	درخت	SHAJAR	شجر
الحمید	332	صبر	SHAKAIB	شکیب
الصدق	746	برتری	SHHAMAT	شہامت
القادر	512	عمدہ	SHAHWAR	شہوار
<b>ص</b>				
الظاهر	170	بندی	SAOOD	صعود
الباطن	134	بے نیاز	SAMAD	صمد
المانع	197	حقیقی بھائی	SANWAN	صنوان
القدوس	98	سچا	SOB	صوب
الجبار	98	جام طرب	SAHBA	صہبا
الغفور	107	مینی برحق	SUHAIB	صہب
<b>ض</b>				
الحفیظ	809	دن کاوقت	ZUHA	ضحیٰ
<b>ط</b>				
الحسیب	62	ذہین	TABIN	طابن
القوی	215	پاک	TAHIR	طاہر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحمید	215	مبارک	TOOR	طور
الصمد	224	پاک	TAHEER	طہیر
		ظ		
القادر	1106	صاف، کھلا	ZAHIR	ظاہر
الطاہر	1115	مددگار	ZAHEER	ظہیر
		ع		
الباطن	521	طاقتور	ATIN	عائن
المانع	773	پوشیدہ	AZIB	عازب
القدوس	161	شریف	ASIL	عاسل
الجبار	161	نظر رکھنا	AAS	عاص
الغفور	80	وہمہ تمہانا	AAHID	عاہد
الحفیظ	971	گال	AZAR	عذار
الحسب	350	لشکر	ASKAR	عسکر
القوی	440	خوبصورتی	ASFAR	عصفور
الحمید	80	رحمت	ATA	عطاء
الصمد	1016	بزرگی	EZAMA	عظامہ
القادر	350	دلیر	AFAR	عفر
الطاہر	161	بواقد کاٹھ	ULYAN	علیان
الباطن	116	علیٰ کی اولاد سے	ALWI	علوی

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المانع	89	ہم عصر	AHEED	عمید
القدوس	170	تخی	AES	عیض
<b>غ</b>				
الجبار	1700	شادابی	GHSAR	عثر
الغفور	1331	معانی	GHUFRAN	غفران
الحفیظ	1250	رطوبت	GHMEER	غمیر
الحسیب	1097	محقق	GHAWWAS	غواص
القوی	1511	فریادرس	GHAYYAS	غیاث
<b>ف</b>				
الحمید	881	نازنین	FAKHIR	فاخو
الصمد	341	سردار	FARIS	فارس
القادر	881	فیاض	FAA-EZ	فائض
الطاہر	290	فخر کرنے والا	FAKHRI	فخری
الباطن	341	شیر	FARAS	فراس
المانع	341	بیٹا	FARZAND	فرزند
القدوس	1331	وسیع	FARGHAN	فرغان
الجبار	431	فیصلہ کن	FURQAN	فرقان
الغفور	1286	نور	FAROGH	فروغ
الحفیظ	350	افراد	FAREDON	فریدوں



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحسیب	350	ذہین	FAREES	فریس
القوی	188	خوش کلام	FASEEH	فصح
الحمید	89	شیر	FAHAD	فہد
الصدد	890	رحمت	FAIZ	فیض
<b>ق</b>				
القادر	305	طاقتور	QADIR	قادر
الطاہر	161	لال	QANI	قانی
الباطن	116	عقل مند	QAHI	قاہی
المانع	170	مقدس	QUDDOOS	قدوس
القدوس	314	قدرت والا	QADEER	قدیر
الجبار	305	آرام	QARH	قرہ
الغفور	116	قوت والا	QAWI	قوی
<b>ک</b>				
الحفیظ	26	زیادہ	KAJIB	کاجب
الحسیب	521	پہننے والا	KASHIR	کاشر
القوی	233	بزرگی	KIBRYA	کبریا
الحمید	260	جو انمردی	KARAM	کرم
<b>ک</b>				
الصدد	53	سرخ پھول	GULAB	گلاب

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
القادر	116	خوبصورت	GULBADEEN	گلبدین
<b>ل</b>				
الطاہر	35	روح	LABAB	لاباب
الباطن	44	عقل مند	LABEEB	لیب
المانع	170	مہربان	LUTFAN	لطفان
<b>م</b>				
القدوس	791	بتایا ہوا	MAZAN	مازن
الجبار	143	شادمان	MIBSAM	مبسام
الغفور	647	ذہن میں جلدی سے آنے والا	MUTABADIR	متبادر
الحفیظ	170	تمام کرنا	MUNMIM	منمنم
الحسینب	458	جدا	MUTWAHID	متوحد
القوی	53	جنگجو	MUJAHID	مجاہد
الحمید	251	بہادر	MUHARIB	مہارب
الصمد	314	زیر نگرانی	MAHROOS	مہروس
القادر	188	پاک دامن	MUHSIN	محسن
الطاہر	1034	سلامت	MAHFOOZ	محمفوظ
الباطن	98	سر لہا گیا	MAHMOOD	محممود
المانع	1241	آزاد	MUKHTAR	مختار
القدوس	674	ہمیشہ	MUKHALLID	مخلد

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الجبار	62	سر باگیا	MADEEH	مدح
الغفور	251	کشادہ ہونا	MARHAB	مرحب
الحفیظ	548	نحال	MUSTAHEL	متحمل
الحسیب	512	خوش مزہ	MUSTATAB	مستطاب
القوی	170	مسلمان	MUSLIM	مسلم
الحمید	350	ناظر	MUSHAHID	مشاہد
الصد	620	معزز	MUSHARRAF	مشرف
القادر	566	پسندیدہ	MASHKOOR	مشکور
الطاہر	161	ماد	MAAN	معان
الباطن	314	باندی	MERAJ	معراج
المانع	170	مددگار	MUEEN	معین
القدوس	1250	دلانا	MUFTI	مفتی
الجبار	134	فائدہ مند	MUFEEED	مفید
الغفور	80	عمدہ	MALBOOB	ملبوب
الحفیظ	125	بتازگی	MILDAN	ملدان
الحسیب	98	تعریف کیا گیا	MAMDOOH	مدوح
القوی	260	عادل	MUNSIF	منصف
الحمید	188	استوار	MANSOB	منسوب
الصد	386	فتح مند	MANSOOR	منصور

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
القادر	1196	پسندیدہ	MANZOOR	منظور
الباطن	296	روشن	MUNAWWAR	منور
المانع	107	نام پینچبر	MOOSA	موسیٰ
القدوس	332	بہت زیادہ	MOFOOR	موفور
الجبار	296	برحمہل	MEHRAN	مہران
الغفور	161	روشن ستارہ	MEESAN	میسان

## ن

الغفور	53	صاف	NAB	ناب
الحفیظ	143	ملائے والا	NASIB	نائب
الحسیب	341	مددگار	NASIR	ناصر
القوی	1151	صاحب نظر	NAZIR	ناظر
الحمید	53	سفیر	NAIB	نائب
الصمد	458	عظمت	NABAHAT	نباہت
القادر	152	قسمت	NASEEB	نصیب
الطاہر	350	مددگار	NASEER	نصیر
الباطن	1160	مثال	NAZEER	نظیر
المانع	170	انعام	NAEEM	نعیم
القدوس	269	مبارک دن	NOROZ	نوروز
الجبار	566	بہادر	NOSHEER	نوشیر

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الغفور	116	روکنے والا	NAHYAN	نہیان
الحفیظ	260	روشن	NYEAR	نیر
الحسیب	80	شریف	NAYK	نیک
<b>و</b>				
القوی	116	خوبصورت	WASEEM	وسیم
الحمید	197	جنگ جو	WAQQAS	واقص
<b>ہ</b>				
الصمد	296	داناؤ	HARMAN	ہرمان
القادر	125	ہوشیار	HANDOS	ہندوس
الطاہر	26	ظاہر	HUWAIDA	ہویدا
<b>ی</b>				
الباطن	71	مایوسی	YAS	یاس
المانع	107	نقیب	YSAWAL	یسادل
القدوس	188	قبیل دار	YAQOOB	یعقوب
الجبار	170	اعتبار	YAQEEN	یقین

## عدد (8) سے متعلق مرد حضرات کا خاکہ

زندگی گزارنے کیلئے ان افراد کو بہت زیادہ محنت اور لگن سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ افراد اپنی زندگی میں اس لفظ محنت کو اہمیت نہیں دیں گے۔ تو ان کا انجام مایوسی اور حسرت سے بھرا ہوگا۔ بلاشبہ یہ عقلمند اور قابل عزت لوگ ہوتے ہیں۔ جذباتی طور پر دوسروں کے ہمدرد اور ان سے مخلص ہوتے ہیں۔ اور حتی الامکان دوسروں کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنے ہی عزیزوں سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ جن سے انھوں نے بھلا کیا ہو۔ اگر ان کی مالی حیثیت مستحکم ہو۔ تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ دوسروں کے ہر دلعزیز ہوتے ہوئے بھی نفرت کی نگاہوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی زندگی کا یہ خاصہ ہے۔ کہ جو ان کی طبع کے برعکس ہوتے ہیں۔ ان کو یہ باسانی دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ دوسروں یا اپنی لڑائی میں بہت کم پڑتے ہیں۔ شادی کے بعد اپنی اولاد کم چاہتے ہیں۔ اور ان کی بھلائی کیلئے اچھے انتظام کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اگر ان افراد کا کوئی مذاق اڑائے تو یہ اس کو جان سے بھی مارنے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ محبت کے معاملے میں یہ کوئی اہم رول ادا نہیں کرتے کیونکہ ان کی ذہنی افتاد ہی ایسی ہوتی ہے۔ جو وقتی طور پر کسی چیز کا تاثر قبول کرنے کے علاوہ دائمی اثر طاری رکھنا پسند نہیں کرتی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہ یہ پیار محبت کرتے ہی نہیں بلکہ غلط محفل اور غلط لوگوں کی صحبت اختیار کر کے یہ جس محبت کو کرتے ہیں۔ وہ محبت نہیں بلکہ عیاشی کہلاتی ہے۔ مالی طور پر یہ افراد اچھی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں۔ مگر معدودے چند اپنی دولت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس دولت آجائے تو سخی بن جاتے ہیں۔ اور بڑی فراخ دلی سے اپنے خاندان والوں کی اپنے رشتہ داروں اور دوسرے ناواقف لوگوں کی مدد کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ان کی سادگی ان کے لئے ہمیشہ قرض کا باعث بنی رہتی ہے۔ یہ ان افراد کی قسم ہوتی ہے۔ جو روپے سے محبت تو کرتے ہیں۔ لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔

## عدد (8) مرد حضرات کا فال نامہ

اگر ان افراد کو کوئی بھی ایسا مرض لاحق ہو جائے۔ جس کے علاج کیلئے کوئی دوا کوئی چیز بھی اثر نہ کر رہی ہو تو اس روحانی فال نامہ کی مدد سے اپنی روحانی بیماری کا پتہ لگائیں اور عمل کریں کیونکہ یہ ہر ان تعویذات اور جادو ٹوٹنے کا خاتمہ کرتا ہے۔ جس کے مقابلے میں دوائیاں اثر کرتا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسے افراد کو آسیب کی شکایت ہے۔ تو یہ آسیب ان کے جسم کے الٹی طرف حکومت کرتا ہے۔ یعنی دل کی طرف اس کے علاوہ ان کو حرام کی کمائی کبھی بھی راس نہیں آئیگی۔ ان افراد میں سے جو شخص آسیب زدہ ہے وہ پہلے سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اسے سر اور کمر میں درد رہتا ہے۔ بخار اس کے ہر حصے میں سا چکا ہے۔ بد باطن لوگوں کی نظر بد بھی بہت لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی پرانے قبرستان سے گذرا ہو۔ اور اس بات کا اس نے کسی سے بھی ذکر نہ کیا ہو۔ اگر واقعی یہ کسی پرانے قبرستان سے گذرا ہو گا شیطانوں کے آسیب کا اس پر اثر ہے۔ ان سب تکالیف اور دردوں سے مکمل نجات کیلئے۔ اس عزیمت کو مشک و گلاب و زعفران سے لکھ کر اپنے سیندھے بازو پر باندھے۔ اور ایک عدد زیادہ لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیا کرے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله  
 الملك الحق المبين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقل جاء  
 الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا و نزل من القرآن ما هو  
 شفاء ورحمة للمؤمنين ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و قل جاء  
 الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم احفظ صاحب هذا  
 الكتاب من جميع الافات والعاهات والبليات و بحق محمد ﷺ و علي  
 و فاطمة و الحسن و الحسين ﷺ فلان بن فلان بسحر و جادو دفع شود دفع  
 شود دفع شود

### محبت میں کامیابی کیلئے

یہ افراد اپنے محبوب اور اس کے گھر والوں کو منانے کیلئے روزانہ اس عمل کو اکیس دن بعد نماز عشاء اپنے محبوب اور اس کے گھر والوں کا مکمل تصور باندھ کر پڑھیا اور اس نقش کو روزانہ اکیس مرتبہ لکھ کر درمیان میں سندور لگا کر پھینک دیا کرے۔ نقش کو زعفران سے لکھے اور سندور

کو اس پونجی پر لگایا جائے جس کو دریا میں پھینکا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس روحانی عمل کی بدولت ان کا محبوب اور اس کے گھر والے ان افراد سے محبت سے پیش آئیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی شَفِیْعِ الْمَذْنِبِیْنَ وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ اللّٰهُمَّ یَا جَامِعِ النَّاسِ لَیْوَمَ لَا رَیْبَ فِیْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْلِفُ الْمِیْعَادَ اجْمَعْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ کَذَا وَ کَذَا فَلَانَ بِنِیْ فَلَانَ عَلِیِّ الْحَبِیْبِ فَلَانَ بِنْتِ فَلَانَ سَلِّ یَا رَسُوْلَ اٰحِیْرًا سُوْلَ بِحَقِّ اِشْرَاحِیَا مَالِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ فَلَانَ بِنِیْ فَلَانَ عَلِیِّ الْحَبِیْبِ فَلَانَ بِنْتِ فَلَانَ وَ مِنْ آیٰتِهِ اِنَّ خَلْقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوْا اِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنِکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً فَلَانَ بِنِیْ فَلَانَ عَلِیِّ الْحَبِیْبِ فَلَانَ بِنْتِ فَلَانَ یَا اِیُّهَا النَّاسُ اَنَا خَلَقْتُکُمْ مِنْ ذَکْرٍ وَ اُنْثٰی وَ جَعَلْتُکُمْ شَعُوْبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَمَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمُ الْخَبِیْرِ وَ الْفِیْ بَیْنِ فَلَانَ بِنِیْ فَلَانَ عَلِیِّ الْحَبِیْبِ فَلَانَ بِنْتِ فَلَانَ کَمَا الْفَتْ بَیْنَ مُوسٰی عَاصِفُوْرًا وَ مِثْلَ کَلِمَةِ طَیْبَةِ کَشْجَرَةِ طَیْبَةِ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرَعُهَا فِی السَّمَآءِ تُوْتِیْ اَکْلِهَا کُلَّ حَیْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُوْنَ فَلَانَ بِنِیْ فَلَانَ عَلِیِّ الْحَبِیْبِ فَلَانَ بِنْتِ فَلَانَ .

یا ولی	یا ولی	یا ولی	یا ولی
یا ولی	یا ولی	یا ولی	یا ولی
یا ولی	یا ولی	یا ولی	یا ولی
یا ولی	یا ولی	یا ولی	یا ولی



## غلبہ دشمن کیلئے

اگر ان افراد کے کوئی دشمن خلاف ہو گیا ہو کہ ان کو اپنی جان جانے کا مکمل یقین ہو۔ تو اتوار والے دن کسی بھی چوراہے سے چار عدد کنکریاں سورج طلوع ہونے سے پہلے لائے پھر اس کو پیس کر اپنے دشمن کے نام کے حروف اجد کے مطابق اس عزیمت کو پڑھ کر ایک کالے رنگ کا مرغ لاؤ اس کو ذبح کر کے ایک سفید کپڑے پر اس کا خون لگا کر ان پیسی ہوئی کنکریوں کو اس میں ڈال کر اپنے دشمن کے گھر میں ایسی جگہ پھینک دیں۔ جہاں جھاڑو نہ دیا جاتا ہو چند دنوں میں ہی اس عمل کا اثر خود ملاحظہ فرمائیے۔ ان کا اپنے دشمن پر غلبہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . یخفی لطف اللہ بلطف صنع  
اللہ بجمیل ستر اللہ دخلت فی کنف اللہ وتشفقت برسول اللہ بدوام  
ملک اللہ بلا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہیا ہیا اہیل  
اہیاش اہلیش حجبت نفسی بحجاب اللہ ومنعتها بایات اللہ  
وبالایات البینات . بحق من یحیی العظام وہی رمیم جبرائیل من  
یمینی و میکائیل عن یساری واسرافیل من خلفی وسیدنا محمد  
امامی وعصا موسی علیہ السلام علی لسانی فمن تکلت وتوجهت  
الیہ اقضا حاجتی و نور یوسف علیہ السلام علی وجہی فمن رانی  
یحبنی واللہ محیط وهو المستعان علی اعدائی لا الہ الا اللہ الکبیر  
المتعال ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم . فلان بن فلان  
خاکستر گردد۔

اس نقش کو اپنے دشمن کا نام لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے

نام اللہ	اللہ العلی	اللہ العلی	اللہ العلی
اللہ العلی	اللہ العلی	اللہ العلی	اللہ العلی
اللہ العلی	اللہ العلی	اللہ العلی	اللہ العلی

## دشمنوں کی زبان بند کرنے کیلئے

اگر ان افراد کے خلاف ان کے عزیز و اقارب یا کوئی بھی ان کی غیر موجودگی میں یا بظاہر ان کے سامنے زبان درازی کرتا ہو اور یہ ان افراد کی اصلاح بھی نہ کر سکتے ہوں۔ تو اس نقش کو ان تمام ناموں کی نیت سے لکھیں چاہے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے ان کے مخالفوں کی زبان بند ہوگی۔ اس نقش کو زعفران سے لکھے اور صبح سورج نکلنے کے ایک گھنٹے بعد تحریر کرے۔ اگر کسی بھی صورت اس عمل سے بھی افادہ نہ ہو رہا ہو تو اس عزیمت کو ان سب کا تصور باندھ کر پڑھے۔

بسم الله الرحمن الرحيم .يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت  
الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من  
اذن له الرحمن ورضي له قولا وعنت الوجوه للحمي القيوم وقد خاب  
من حمل ظلما فلان بن فلان کی میرے حق میں زبان بندی ہو

س ل ا م	ق ب ا	م ن ر ب	ر ح ی م
ح ی م	م ن ر ب	ق ب ا	س ل ا م
ق ب ا	س ل ا م	ر ح ی م	م ن ر ب
م ن ر ب	ر ح ی م	س ل ا م	ق ب ا

## رزق کی فراخی کیلئے

اگر ان افراد کا کاروبار بند ہو گیا ہو یا ان کے کسی دشمن نے سطلی یا علوی علم کے زور پر ان کا کاروبار بند کر دیا ہو اور اس کی بہتری کی کوئی بھی صورت نہ رہی ہو۔ تو یہ عمل ان افراد کی زندگی میں ایک بخش بہا خزانے سے کم نہیں ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے کسی جاندار کا صدقہ دے اور پھر اس عمل کو کرے یہ کل اکیس دنوں پر مشتمل ہوگا۔ اکیس دنوں کے بعد پھر کوئی میٹھی چیز چوں اور بیڈوں میں تقسیم کر دے جب آپ عمل کے اکیس دن پورے کر لیں گے۔ تو پھر اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی دوکان پر ایسی جگہ لگائیں جہاں تمام گاہکوں کی نظر پڑتی ہو۔ ہر قسم کے بد عملیات کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ عمل پڑھنے کا وقت صبح نماز فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد کا ہے۔ آگے صاحب عمل کے اختیار میں ہے۔ کہ وہ اس عمل سے کیا کر سکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اللّٰهُمَّ فَارِجِ الْهَمِّ كَاشِفِ الْغَمِّ  
 مُجِیْبِ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ رَحْمٰنِ الدُّنْيَا وَرَحِیْمِهَا اَنْتَ تَرْحَمْنِیْ فَارْحَمْنِیْ  
 بِرَحْمَةِ تَغْنِیْنِیْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تَوْتِیْ  
 الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءِ بِيَدِكَ الْخَیْرُ اَنْكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ رَحْمٰنِ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ تَعْطِیْمِهَا مِنْ تَشَاءٍ وَتَمْنَعُهَا مِنْ تَشَاءٍ اَرْحَمْنِیْ رَحْمَةِ تَغْنِیْنِیْ  
 بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ اللّٰهُ الصَّمَدُ بِسْمِ اللّٰهِ  
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا فَتَّاحُ یَا رَزَّاقُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ  
 مُحَمَّدٍ فَضْلًا كَثْرًا .

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

### اذا نیکی قرض کیلئے

اگر ان افراد پر اتنا قرض چڑھ گیا ہو جس کا اتارنا بہت مشکل نظر آ رہا ہو اور کوئی بہتری کی سبیل بھی نہ بن رہی ہو۔ تو اس عمل کو رات کو تہجد کے وقت شروع کرے۔ اور اگر وظیفہ جلدی ختم کر لے۔ تو صبح اس نقش کو روزانہ اکیس مرتبہ اکیس دنوں تک لکھے اور دریا میں ایسی جگہ ڈال کر آئے جہاں مچھلیاں ہوں۔ ڈالنے سے پہلے نقوش کو بھی آٹے میں بند کر کے ان کی گولیاں بنا لے اور اس بات کی تکمیل تصدیق کر لے کہ جہاں ان نقوش کو ڈالا جا رہا ہے۔ وہاں مچھلیاں ہیں بھی یا نہیں اگر مچھلیاں نہ ہوئیں تو عمل کو کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آخری دن نقش اکیس لکھے اور اس میں سے ایک اپنے لئے رکھ لے اور اس نقش کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لے۔ اور پڑھنے والے وظیفہ کو اتنی دیر تک پڑھے جب تک دل حاضر ہو۔ اور اس کے پڑھنے میں مزے کی کیفیت ہو۔ نہ کہ بیزاری کی حالت میں اس عمل میں خلوص نیت کامل شرط ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . یَا وَاسِعَ الْکِنْفِ . یَا عَلٰی الشَّرْفِ  
 بِحَرْمَةِ اَهْلِ الشَّرْفِ اجْبِرْ عَلٰی مَا تَلَفَ بِحَرْمَةِ فَاطِمَةَ وَاَبِیْهَا وَبِعَلْهَا

وابنيها يا نبى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير ولو ترى اذفر عوا فلافوت و اخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد اللهم اجبر كذا و كذا بحق يس والقرآن الحكيم و ص والقرآن ذى الذكر و ق والقرآن والرحمن علم القرآن يا عباد الله الصالحين ردوا على ضالتي ير حكمم الله واحبسوها الى اللهم لا تفتنى بهلا كها ولا تنبغى بطلبها بحق جبرائيل وميكائيل و اسرافيل و عزرائيل وبحق محمد صلى الله عليه و آله وسلم كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك.

توبه اللہ الذی	یا اللہ ارحم	یا اللہ الغیب، الظہور	توبہ اللہ الذی
استغفر اللہ الذی	یا اللہ ارحم	اللہ القیوم، التوب	توبہ اللہ الذی
ربی من کل ذنب	یا اللہ ارحم	والتوب علیہ و من	کل ذنب فی ثمن
عین اللہ الملک	یا اللہ ارحم	الذین ساء قلوبہم	من رب العزیم

### چور کو پکڑنے کیلئے

اگر ان افراد کی بہت بڑی رقم چوری ہو جائے یا چوروں نے بہت زیادہ چرایا ہو۔ تو اس عزیمت کو لکھ کر جہاں سے چور نے مال چرایا ہے۔ وہاں پر لٹکادے اور اسی کورات کو سونے سے پہلے پڑھتا پڑھتا سو جائے۔ اللہ کے فضل سے چور جہاں بھی ہو گا۔ اس سے آگے نہیں جاسکے گا اور اس عزیمت کی تلاوت سے چوری کی جگہ اور چور کا مکمل غلیہ دکھایا جائیگا۔ آگے آپ کی ہمت و قسمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزمتم علیکم واقسمت علیکم فتحون فتحون فتحون جنتک جنتک جنتک شفیعا شفیعا شفیعا عطیشا عطیشا سرورا سرورا سرورا قدورا قدورا قدورا سہلا سہلا سہلا نہلا نہلا نہلا اخضروا من جانب المشارق والمغرب .

### توفیق اطاعت اللہ ورسول کیلئے

شیطان کے شر اور مکر و فریب سے ہمیشہ کیلئے محفوظ رہنے کیلئے اس کو سبز رنگ کے ریشمی

پڑے پر زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ اس سے دوسروں کے دلوں میں ان افراد کی ہیبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفظ و امان میں رہے گا۔ اور دل زیادے سے زیادہ عبادت کرنے کو لڑے گا۔ لیکن اس کو با وضو حالت میں کرے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - یا ودود محمد رسول اللہ فلان بن فلان

### نظر بد کے خاتمے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی بار بار بد نظری کا شکار ہو رہا ہو۔ تو نو عدد کچے سوت لیکر ان پر چھ گرھیں اس طرح لگائیں ہر گراہ پر تین مرتبہ درود شریف اور تین مرتبہ سورۃ والناس پڑھ کر لگائے۔ اور یہ گندہ یہ افراد اپنے گلے میں باندھ لیں۔ اللہ کے فضل سے نظر بد کا مکمل خاتمہ ہوگا۔

### ناف نل جانے کیلئے

اگر ناف نل جانے کا بہت پرانا مرض ہو تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی ناف کے اندر گھسا کر شیپ کی مدد سے لگا دے۔ اور ایک عدد نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی ناف پر مل کر اسے جلا دیا کرے۔ اللہ کے فضل سے ان کی اس مرض سے جان چھوٹ جائیگی۔ انشاء اللہ

۹۱۵۳	۹۱۵۶	۹۱۵۹	۹۱۶۵
۹۱۵۸	۹۱۶۶	۹۱۶۲	۹۱۶۰
۹۱۶۰	۹۱۶۱	۹۱۶۴	۹۱۶۱
۹۱۶۵	۹۱۶۰	۹۱۶۸	۹۱۶۰

### مکان اور دوکان کی ہر طرح سے حفاظت کیلئے

یہ افراد اپنے گھر اور دوکان کی مکمل حفاظت کیلئے ان آیات کو زعفران سے لکھ کر اپنے گھر کے یا کاروباری مرکز پر مین دروازے کی چوکھٹ کے عین وسط میں لگائیں۔ اللہ کی رحمت سے گھر اور دوکان میں برکت ہوگی۔ اور یہ افراد ہر طرح کی ارضی و سماوی مخلوقات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ان کے گھر یا دوکان میں کسی قسم کا سایہ یا جنات بھی ہو گئے۔ تو اس کے اثر سے بھاگ جائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِن یَقُوْل جَعَلْتَ نَفْسِیْ وَاِیْمَانِیْ  
وَجَمِیْعِ مَا عِنْدِیْ مِنْ النِّعَمِ فِیْ حِصْنِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُرَامُ وَفِیْ جِوَارِ اللّٰهِ  
الَّذِیْ لَا یُحْقَرُ وَفِیْ نِعْمِ اللّٰهِ الَّتِیْ لَا تَذْرُکُ وَفِیْ سِتْرِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُهْتَكُ  
وَفِیْ حُبِّ اللّٰهِ الْمَنْعِ وَفِیْ وِدَاعِ اللّٰهِ الَّتِیْ لَا تُضِیْعُ وَجِوَارِ اللّٰهِ مَحْفُوْظِ  
وَمِنْ اِعْتَصَمَ بِاللّٰهِ مَعْصُوْمٍ وَجِلَّ جَلَالٍ وَلَا یَخْلُوْ مَكَانَ مِنْ اللّٰهِ وَ  
ذَلَّلْتَ ذَلَالَتِیْ عَلٰی عَیْنِیْ نَظَرْتُ نِیْ بِاِذْنِ اللّٰهِ سَبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ  
اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ فَسِیْکْفِیْکُمْ  
اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ حَسْبِیْ اللّٰهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَلَا سَبِقَ لِامْرِ اللّٰهِ  
شَیْءٌ اللّٰهُ الْقَاهِرُ اللّٰهُ الْغَالِبُ اللّٰهُ الْمَذْلُومُ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ نَّاصِرُ الْحَقِّ  
حِیْثُ كَانَ بِهٖ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ اِنْ کَانَتِ اِلَّا صِیْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِیْعٌ  
لَدِیْنَا مُحْضَرُوْنَ بِرِجَالِهِمْ جَادُوْا بِرِجَالِهِمْ ثَوْنُهُمْ بِرِجَالِهِمْ دُشْمَانُهُمْ دُشْمَانُهُمْ  
شُوْد

### یواسیر کے مکمل خاتمے کیلئے

اگر ان افراد کو خونی و بادی یواسیر کی روک تھام کیلئے اس نقش کو اتوار کی صبح کو زعفران  
سرخ سے گھول کر لکھے۔ اور اپنی کمر میں اس طرح باندھے کہ نقش پشت کی جانب رہے یواسیر کا  
مکمل خاتمہ ہو گا۔ اور اس آیت کو چاندی کے پترے پر کندہ کروا کے پانی میں ڈال دے اور اس کا پانی  
پئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

وَبِحَقِّ وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ فُلَانٌ بِنِ فُلَانٍ

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم	یا حکیم
یا مطیع	یا مطیع	یا مطیع	یا مطیع	یا مطیع
یا قہار	یا قہار	یا قہار	یا قہار	یا قہار
یا مذل	یا مذل	یا مذل	یا مذل	یا مذل

## عدد (8) مرد حضرات کے دوست افراد

### عدد (5) ستارہ عطارد برج سنبلہ و جوزا

خدا، آذین، آرب، آصال، احتراز، احسن، ارب، اسرائیل، اسلم، اشرف، اشفاق، اعزاء، الہام، املس، انسب، انور، اولیس، ایزد، باصر، باعد، باقی، باہو، بدیع، براء، برہیس، برق، بطل، بھت، بہرام، پاک، پیر، تابدار، تاز، تجل، تفضل، تکثیر، تلقین، تنظیم، توقیر، تیسیر، ثمن، جارح، جام، جسیم، جلالت، جواد، حاجب، حجاب، حصان، حکم، حیات، خاقان، خالد، خانز، خزیمہ، خلیفہ، دریز، دلدار، ذمیر، ذوق، رابا، ریبط، رحیل، رزمی، رقیق، رماز، ریاست، زباد، زہید، زجاج، زرقم، زلال، زیان، ساجد، ساطع، سخاوت، سعود، سفاح، سلام، سلیم، سوهنا، سہار، سیما، شاداں، شارح، شارف، شجاع، شجاع، شریف، شعلیل، شفاعت، شہزور، شہسوار، صابر، صائم، صمیر، صدق، صریر، صفدر، صندید، صیتل، ضامی، ضمیمہ، طہ، طیب، طرار، طلعت، طلیق، طیم، عابد، عاتک، عاجل، عارذ، عامر، عباد، عجیل، عرفان، عرف، عفرس، عمار، عبیر، عنصر، عولیس، عادف، فادی، فاطن، فرزین، فصیح، فطرت، فطین، فقید، فیضان، فیوض، قانع، قائل، قصال، قدیل، قنوب، کاشف، کشتی، کفیل، گل، رنگ، لاس، لائق، لصیق، لقا، لرح، لقیق، لینہ، مائید، ماجی، مامن، ماورا، متبرک، متوفی، متین، مجتبیٰ، مجتبیٰ، محبت، محتشم، محسن، محراق، مرز، مہلب، ناشاد، ناصح، ناہل، نراس، ندیم، نذر، نشتر، نصیف، نطیف، نطیف، نواب، نوار، نور، نمال، جمیل، نیاز، واجد، واسطی، واشد، واعظ، واہب، ولید، ہرشم، ہیتم، یاسین، یگانہ۔

### عدد (6) ستارہ زہرہ برج ثور و میزان

آجر، آرج، آیت، ابصار، اجواد، احسان، احمر، احکم، اذہر، ارزام، ارغوان، اریب، اسلام، اصدق، اعدل، افروز، افشار، الماس، المانت، انطمام، انوار، بارق، باری، باقر، بیاز، بوفش، برہان، بریق،

بسمل، بحر، بلاول، بیطار، پاشا، تاویل، تمہیل، تحسین، تفضیل، تلی، توکل، ثقیف، ثمنین،  
تقلین، جازم، جامح، جاوید، جمشید، حاکم، حجت، حدیر، حریم، حسنت، حقیقت، حلال، حمزہ،  
حمیر، حیدر، حیرم، خاتم، خادم، خاور، خجستہ، خلدون، خوشنود، دانیال، داؤد، دانشاد، ذوالنون،  
ذوقی، ذہیب، راحت، راج، راغب، راقب، رجاہ، رزین، رعنا، رمیض، زائل، زاہر، زرین،  
زباب، زہار، سدید، سفیض، سلطان، سخن، سمید، سفوت، سویر، سہیل، سیف، سیمائی، شاب،  
شاہین، شرق، شطیب، شمشاد، شوکت، شیر، صاحب، صباحت، صحابت، صدیق، صرد، صنوبر،  
صوفی، ضیاء، ضامر، ضمضم، ضمیر، طالب، طرفہ، طلاب، ظرافت، عادل، عافرین، عارن،  
عالم، عامل، عدم، عدیل، عذق، عصمت، عظمت، عفاف، عفیض، عقیف، عتبہ، عزہ،  
عیسیٰ، غابز، عالی، غریب، غضنفر، قاتک، فارد، فائق، فرقت، فریال، فرہ، فرید، فضیلت، فوق،  
فیروز، قاصد، قائد، قائم، قدوم، قرار، قریب، قیم، کاذب، کامران، کلکان، کوش، گلہاز، گلریز،  
گلزار، گوہر، لازم، لامع، لائب، لبق، لسان، مادخ، ماسد، مباح، متجلی، مشر، مجاز، مجدد، مجیز،  
محاصر، محسان، مخموم، مخدام، مدرہ، مذکر، مراح، مرجان، مرسال، مرغوب، مرغ، مساحن،  
مصباح، مصلح، مصنون، معاویہ، معد، معظم، معوذ، معیل، مفتح، مفضال، مقتدر، مقدس، مقصود،  
مجد، منان، منتصر، منصوص، منین، موود، موید، موید، مہندس، نبیذ، نجات، ندرت، ندس،  
ندین، نذیر، نسلی، نصر، نوال، واصف، وجیہ، وواد، وفاق، وہاج، ہدایت، ہریرہ، ہزیر، ہان، ہود،  
ہوزان، یشب۔

## عدد (8) کے مخالف افراد

### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

آثم، آزر، آذب، آزرہ، آشا، امن، اٹال، اٹیل، اجستان، اخوان، ادیم، ارتباط، ارجمند، ارز، ارشاش،  
اشتر، اصطفا، اعجاز، افراز، افق، اکرام، اکمل، امام، امن، انتخاب، انشا، اوج، ایاز، ایثار، ایجاد،  
ایوب، برتر، برکت، بیابین، بہار، بہراد، بملول، تابش، تبریق، تہیب، ترابی، ترجمان، تراہر،  
تہلیل، تصدق، تفرید، تلید، تلوین، توصیف، ثمود، جدار، جدیر، جلال، جمل، جہانگیر، حاجز،  
حاضر، حزم، حسام، جسم، شمت، حقی، حمیس، حنان، خازن، خالص، خصال، خلوت، خلیط،  
دنگیر، دیان، دین، ذکاء، ذکی، راشد، رامش، رشاد، رشید، رمیل، زائر، زرق، زعم، زکاء، زکی،  
ساحت، ساطل، ساغر، سبر، سکندر، سلسال، سلمان، سسط، سیار، سماح، سنور، شادب، شاعر،



شکلی، شتاب، شحاذ، شفع، شمشیر، صبور، صداقت، ضاحک، ضافر، ضیاء، طائظ، طراز، طروب، ظفر، عازم، عاطر، عائر، عبادہ، عبود، عبیدہ، عروۃ، عزام، عزہول، عطار، عفت، تحقیق، عمران، عمرس، عمرو، غازی، عاصف، غباشیر، غدن، غرز، فارح، فارض، فائق، فحیر، فریح، فضل، فواد، قاصف، قدیم، قہر، کافر، کامل، کاتب، کثیر، کلام، کلیم، کمال، گلبار، گنج، لاجورد، لعات، لیک، لوی، لہاق، لیاقت، مالک، مان، متقی، متوکل، مجیب، مجیر، مخزن، محنتان، محمود، مرتضیٰ، مرصد، معاذ، معیذ، مقبل، مقیت، ملاک، ملکوت، مناص، مٹح، مومن، ممکن، تابک، ناشی، ناشی، ناظم، نایاب، نیل، نزاکت، نسران، نصور، نشاطی، نظام، نقاش، نگار، نمود، نواز، نوح، نوشاد، واحد، واصل، واکل، وجاهت، وحید، وقار، ولی، ہاد، ہارب، ہارون، ہاند، ہاتم، ہجر، ہدیٰ، ہما، یاسر، یزدانی، یاور، یسار، یسیر، یمن۔

#### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آزاد، آغر، آل، امیر، انی، اہلال، اجلال، انحر، اجوز، اختر، اوران، ادہاب، اردشیر، ارزش، ارمان، ارہام، ازاد، اسبال، استحسان، اشعر، اصغر، اصلاح، اطیب، افتخار، اقتدار، انحصار، انجم، انیس، اوس، ایزد، باذل، باس، بسام، بسیم، بصر، بقا، بہروز، تابال، تاثیر، تاشفین، تبرید، تیان، تحذیر، تصویر، تغسیم، تحیم، تواب، ٹیپو، جادہ، جاذب، جالس، جلال، ثار، جابد، جبران، جلیس، جمان، جنید، چاند، چاہت، حالی، حباب، حریر، حصن، حمدان، حمود، حنیف، خدیر، خلیل، خورشید، دانش، داور، ذکریا، ذوالقرنین، راجع، رحیب، رخام، رضوان، روحان، زریاب، زکریا، زیاد، زین، سالہد، سبات، سبحان، سبوح، سخی، سرحان، سعادت، سمیر، سویدہ، شادان، شاذب، شانی، شاہد، شرف، شریح، شعیب، شعیر، شفیق، شکور، شمشیر، شہام، شہید، صاغر، صغیر، صفات، صقیر، صلوت، صنیع، صولت، ضرار، ضوفشال، طارق، طائل، طاؤس، طرب، طریق، طناز، طولیس، طران، طیب، طیار، ظہور، عاتق، عبال، عبد، عبقری، عتیق، عثمان، عدنان، عرصم، عزیز، عمدیب، عین، غایب، غائر، عثمان، فاکر، قاتق، فنی، فدا، فرناس، فرحد، فصام، فلک، فگار، فواز، فوزی، فہمید، فیاش، قاصر، قاطب، قرط، قستان، قدیر، قیصر، کرامت، کردلی، کسام، گل رخ، گل رو، گلشن، گل عذار، گلشنبال، گلزار، گلہار، گولر، گوہر تاب، لاذب، لازر، لطیفی، لعل، لہاف، لیم، لیط، ماشل، ماح، ماصف، مانوس، متبطل، متفرد، شیل، محاط، محبوب، محترم، مخزن، مخلص، مختیر، مدام، مدید، مراتب، مزامر، مزجم، مرسوم، مزر، مستفیض، مستغیر، مسلمہ، میثب،

مسیطر، مشتاق، مشمر، مشهور، مصطفیٰ، مصعب، معتز، مقتصد، مقدم، مکرام، مناقب، موقر، میرال، ناجد، ناموس، نثار، نجفی، نجید، نزاہت، نشید، نطور، نعمان، نکلین، نوازش، نور، نوفل، واثق، واسط، وحدت، وراد، وفور، وہب، ہاشم، ہشام، ہصور، ہایوں، یار، یاقوت، یعسوب۔

## عدد (2) ستارہ قمر برج سرطان

آہض، آوار، آریز، آفاق، ابدال، انعام، اشیم، اجمل، احسن، انگر، اخلاص، ارتاش، ارشاد، ارباب، ارزق، اسد، اشتیاق، اشہر، اصغر، اعماز، اعوان، افضل، اقتداء، امان، امروز، امین، باذن، بخش، برکات، بلخ، بواب، پارس، تامر، تبارک، تبریک، تجلی، تجللا، تمیم، تنزیل، توفیق، ثمر، ثناء، شین، جادل، جزا، جعفر، جناش، جمال، جملاء، جمیل، حازم، حاسن، حاطب، حاضر، حدیفہ، حزم، حسان، حسرت، حلیف، خبیب، خبیر، خلیق، داسی، دلیل، دوست، ذکاوت، رازق، ربانی، رئیس، رضا، رضی، رکز، رمضان، زبر، سارب، سلاست، سلیمان، سید، شاداب، شاذ، شاہر، شامیان، شجر، شاکل، شمیل، شہاب، شزادہ، زہیر، صباح، صاحب، صافر، صبح، صفوان، صمیان، صنان، ضابط، ضلع، طارف، طالع، طریف، طاہر، ظراف، ظریف، ظفر، عاقب، عالمگیر، عاکل، عرک، عقار، عقیب، عجب، عکرمہ، علی، عنبان، عوز، فاضل، فاطر، فتح، فہمیل، فرمان، فروزاں، فضیل، فلاح، قاضی، قانت، قدرت، قدس، قربان، قرف، قرع، قزل، تقام، کیف، کیقباد، گل تر، گوگا، گوہر بار، لبان، لطف، لہان، ماکت، مامون، مبارک، مبشر، متوکل، مجتہد، مجرب، محران، مدار، مراد، مرام، مرتاص، مرث، مرزوق، مرصاد، مرید، مستان، مستبد، مستغان، مسرور، مسج، مشاش، مطہر، مظہر، معنی، مغیث، مقسط، ممتاز، منصب، منظر، منعم، موافق، مہر، میمون، نابل، ناہ، نبال، نجاد، نجیب، نشوان، نصرت، نفیس، نقاد، نورانی، نوشاہ، نوشیرواں، واسح، ہادی، ہیکل، ہکی، ایمان، یحییٰ۔

## عدد (7) ستارہ قمر برج سرطان

آتک، آرت، آرزو، آشیب، آفتاب، آمر، ابد، ابراہیم، ادریق، احمد، ارتضاء، ارساخ، ارشق، اربک، ارم، ازہار، اسماعیل، اقرار، اکبر، الفت، امر، انصر، اورنگ، اوصاف، باہر، بادشاہ، باشی، بایزید، بخیار، بداع، برار، بسالت، بخار، بشر، بلیغ، بیلا، تاجور، تاشف، تاب، تاجر، تہریز، تمیم، تجاسر، تصعید، تعظیم، تقویم، تجید، تمکین، تنفیذ، جسارت، جوہر، جیش، چراغ، خارش، حاشم،

حسین، حشام، حفص، حقانی، حلیم، حمد، خاذر، خضر، دلاور، ذخار، ذلاقت، راصد، راقم، راکب، رباب، رستم، رشیق، رعد، رفاقت، روشن، ریغان، زائل، زخار، زمیت، زوار، سادات، سحر، سراج، سرتاج، سرور، سطوت، سفینه، سکنین، سهام، سعیر، سیم، شارق، شبر، شفقت، شتراده، صادر، صارم، صحان، صبح، صرام، صلت، صلیل، صمیر، صیان، صیرم، ضاهر، ضرغام، طارم، طالش، طین، طراد، طرفس، طلال، طلحه، طمار، طمل، عباس، عاطف، حامد، عامل، عباس، عدان، عدید، عدیم، عروئی، عریس، عشرت، عکاس، عماد، عمید، عمیم، عنبر، عادی، غالب، غنا، غنی، فاز، فائر، فخر، فروتن، قابل، قابوس، قانظ، قبیل، قوم، قدر، قدوه، قمر، کابر، کاظم، کبار، کبیر، کتمان، کراز، کفایت، کلمانی، گلبدن، گل تان، گوهر ریز، لیلیق، لحن، لطافت، مبرور، مبروک، متقدم، مجددی، محبت، محمدر، محمک، محرب، محشود، مدران، مرتبت، مرصود، مزن، مسرت، مصالح، مصطب، معاد، مفتاح، مقبول، مکشف، مؤدب، مهلبت، متاب، میر، مینو، نایب، نازش، ناصر، ناطق، نجیب، نجیب، نسیم، نصر، نضار، نصیر، نظر، نقی، نوید، واضی، وزیر، وصی، وفتیق۔

### عدد (9) ستاره مرتجیح حمل و عقرب

کبان، آتم، آثار، آدم، آزاده، آشام، آصف، آمان، آکال، اقسام، اثیر، اخفش، اذفر، از تمام، اروب، ارسلان، ارفع، اسرار، اسعد، اسلوب، اظهار، اکرم، امبر، امتیاز، امتحان، انصار، انعام، باتر، باجل، باسط، برید، برستان، بسیط، بصیرت، بکیت، بلال، بنیس، بیان، بیرم، بیلسان، پرواز، پرویز، پیروز، تبصیر، تراب، ترقب، تسکین، تسلیم، تصدق، تنویر، توضیح، ثاقب، جالب، جان، جاه، جبال، جیاد، حرمت، حق، حکمت، حمایت، حمدون، حنبل، حتی، خطاب، خطیر، دائم، دبیر، ذافر، ذبح، ذواد، راتب، راکس، رافع، رخیل، رحمت، زرفیع، روق، رئیس، ریبال، زافر، زبده، زر، زرخیر، زواد، زیدان، ساحل، ساعد، ساقی، سالف، سراط، سرخیل، سعاد، سعید، سلاح، سلامت، سلسل، سلط، ک، شادی، شان، شجاعت، شجر، شجذ، شرافت، شعاع، شعبان، شعور، کلکلی، شهباز، صارخ، صامت، صفی، صمصام، صنم، صواب، صویب، صهبائی، ضامن، طولی، عاجز، عارض، عارف، عافر، عاکف، عقبه، عزت، عردام، عرفی، عروج، عروسان، عریف، عزیز، عسکری، عکاشه، عمید، عنایت، عون، عوید، عزیز، عاسق، غشارب، غلام، فارغ، فاروق، فرجام، فہیم، فیاض، قاهر، قلیل، قلم، قرنی، قرین، کابد، کریم، کسوم، کیان، کیس، گلال، گلغام، گنجر، لاریب، لیث، ماد، مام، مبتور، مترف، مجواد، محبت، محرم، مذنب، مروان، مزلم، مستعین، مسعود، مسکین،

مصدق، مطلب، معروف، معلم، ملک، منذر، منہاج، منیف، مودت، مہمدی، مہروز، مہروش،  
 مہند، میسرہ، ناخ، ناشط، ناکل، نبہان، نجی، نریمان، نشاط، نصیل، نطیش، نقش، نقیب، نگینہ،  
 وولج، وراشت، ہاتف، ہرماس، ہرمز، ہفات، یزدال، یلدا، یونس۔

## عدد (9) سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
<b>آ</b>				
آبان	AABAN	نام فرشتہ	54	القہار
آتم	AATIM	ماتا	441	الباسط
آثار	AASAR	علامات	702	الرافع
آدم	AADAM	انسان	45	المعز
آزادہ	AAZADA	بے پرواہ	18	السمیع
آشام	AASHAM	پینے والا	342	الکریم
آصف	AASIF	سلیمان کا وزیر	171	الحق
آماج	AAMAJ	نشانیہ	45	الحی
آمال	AAMAL	امیدیں	72	الموخر
<b>ا</b>				
ایتسام	IBTISAM	مسکراہٹ	504	المنتقم
ایلیج	ABLAJ	روشن	36	القہار
ایٹن	ABEN	فصح تر	63	الباسط
ایشیر	ASER	بلند	711	الرافع
انفخ	AKHFASH	دانا	981	المعز
اوزفر	AZFAR	بزرگ	702	السمیع
ارتسام	IRTISAM	حکم ماننا	702	الکریم

نام	انگریزی	مطلب	حروف اچد	اسم الہی
اردب	ARDAB	در میانہ	702	الحق
ارسلان	ARSALAN	بہادر	342	الحمی
ارفع	ARFA	بلند مرتبہ	351	الموخر
اسحار	ASHAR	صبح	270	الآخر
اسعد	ASAAD	بہت مبارک	135	المنتقم
اسلوب	USLOOB	طریقہ	99	القہار
اظہار	IZHAR	بتانا، ظاہر کرنا	1107	الباسط
اکرم	AKRAM	صاحب کرم	261	الرافع
امیر	AMBAR	آسمان	243	المعز
امتیاز	AMTIYAZ	فرق کرنا	459	السمیع
امعان	IMAN	تفکر	162	الکریم
انظار	ANZAR	مہلت دینا	1152	الحق
انصار	ANSAR	مددگار	342	الحمی
انعام	IN-AAM	تحفہ، نعمت	162	الموخر
<b>ب</b>				
باتر	BATIR	تلوار	603	الآخر
باجل	BAJIL	باوقار	36	المنتقم
باسط	BASIT	خوشحالی عطا کرنے والا	72	القہار
برید	BAREED	قاصد	216	الباسط

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرافع	513	باغ	BUSTAN	بستان
المعز	81	کھلا	BASEET	بسیط
السمیع	702	عقلمندی	BASEERAT	بصیرت
الکریم	432	بانکا	BAKEET	بکیت
الحق	63	ساتھی	BALAL	بلال
الحی	69	ایک ٹھاٹھ	BALAWAL	بلاول
الموخر	72	دلاور	BAEES	بیس
الآخر	63	ظاہر	BYAN	بیان
المنتقم	252	تیر، جشن، عید	BAIRAM	بیرم
القہار	153	خاص درخت	BAILSAN	بیلسان
<b>پ</b>				
الباسط	216	اڑنا	PARWAZ	پرواز
الرافع	225	فاح	PARWEZ	پرویز
المعز	225	فتح مند	PEEROZ	پیروز
<b>ت</b>				
السمیع	702	بصارت	TABSEER	تبصیر
الکریم	603	خاک	TURAB	تراب
الحق	702	امید	TARQAB	ترقب
الحی	540	سکون	TASKEEN	تسکین

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الموخر	540	ماننا	TASLEEM	تسلیم
الآخر	594	قربان ہونا	TASADUQ	تصدق
المنتقم	666	تورانی	TANVEER	تویر
القہار	1224	روشنی	TAOZEEH	توضیح
<b>ث</b>				
الباسط	603	روشن	SAQIB	ثاقب
<b>ج</b>				
الرافع	36	پہننے والا	JALIB	جالب
المعز	54	زندگی	JAN	جان
السمیع	9	رتبہ	JAH	جاہ
الکریم	36	پہاڑ	JIBAL	جبال
الحق	18	عظیم	JIYAD	جیاد
<b>ح</b>				
الحی	648	آہرو	HURMAT	حرمت
الموخر	108	سچ	HAQ	حق
الآخر	468	دائمی	HIKMAT	حکمت
المنتقم	459	مدد	HIMAYAT	حمایت
القہار	108	بزرگ	HAMDOON	حمدون
الباسط	90	معزز	HANBAL	حنبل



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الرافع	18	غیرت مند	HAI	حئی
		خ		
المعز	612	مقرر	KHITAB	خطاب
السمیع	819	زیادہ	KHATEER	خطیر
		د		
الکریم	45	ہمیشہ	DAIM	وائم
الحق	216	محاسب، منشی	DABEER	دبیر
		ذ		
الجبی	981	خوشبودار	ZAFAR	زافر
الموخر	720	فریفتہ	ZABEEH	ذبح
الآخر	711	غیرت مند	ZAWAD	زواد
		ر		
المنتقم	603	روزینہ	RATIB	راتب
القہار	261	سردار	RAIS	رائس
الباسط	351	اونچا	RAFIE	رافع
الرافع	243	صابر	RAJEEL	رجیل
المعز	648	مہر، مہربانی	RAHMAT	رحمت
السمیع	360	بلند مرتبہ	RAFI	رفیع
الکریم	306	پردہ	ROQ	روق

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحق	270	سردار	RAEES	رئیس
الحی	243	دلیر	REEBAL	ریبال
<b>ز</b>				
الآخر	288	بہادری	ZAFIR	زافر
الموخر	18	خلاصہ	ZABDAH	زبدہ
المنتقم	207	دولت	ZAR	زر
القہار	1017	سرسبز	ZARHER	زرخیر
الباسط	18	باشا	ZAWAD	زواد
الرافع	72	زیادتی	ZAIDAN	زیدان
<b>س</b>				
المعز	99	کنارہ	SAHIL	ساحل
السمیع	135	ساتھی	SAID	ساعہ
الکریم	171	پیارا	SAQI	ساتی
الحق	171	رہنما	SALIF	سالف
الحی	270	راستہ	SARAT	سراط
الموخر	900	سردار	SARKHAIL	سرخیل
الآخر	135	نیک نعت	SAAD	سعاد
المنتقم	144	مبارک	SAEED	سعید
القہار	99	تیرکمان	SILAH	سلاح

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الباسط	531	محفوظ	SALAMAT	سلامت
الرافع	180	من پسند	SALSAL	سلسل
المعز	99	زبان درازی	SALT	سلط
السمیع	108	آسان	SAMH	سح
<b>ش</b>				
الکریم	315	خوشی	SHADI	شادی
الحق	351	عظمت	SHAN	شان
الحی	774	بہادری	SHUJAAT	شجاعت
الموخر	513	تلوار	SHAJEER	شجیر
الاخر	1008	ذہین	SHKHZ	شخز
المنتقم	981	فضیلت	SHARAFAT	شرافت
القہار	441	کرن	SHUAA	شعاع
الباسط	423	اہم شخص	SHUBAN	شعبان
الرافع	576	ذاتی	SHAOOR	شعور
المعز	360	خوبصورت	SHAKEEL	شکیل
السمیع	315	بڑا باز	SHAHBAZ	شہباز
<b>ص</b>				
الکریم	891	مددگار	SARIKH	صارخ
الحق	531	خاموش	SAMIT	صامت

اسم الہی	حروف اجد	مطلب	انگریزی	نام
الحی	180	طہارت	SAFI	صفی
الموخر	261	تیز تلوار	SAMSAM	مصمام
الآخر	180	دلبر، بیت	SANAM	ضم
المنتقم	99	درست	SAWAB	صواب
القہار	108	صالح	SAWĒEB	صوب
الباسط	108	متوالا	SAHBAI	صہبائی
<b>ض</b>				
الرافع	891	ذمہ دار	ZAMIN	ضامن
<b>ط</b>				
المعز	18	خوشبودار	TOOBA	طوبی
<b>ع</b>				
السمیع	81	مجبور	AAIZ	عاجز
الکریم	1071	رخسار	AARIZ	عارض
الحق	351	ولی	ĀARIF	عارف
الحی	351	جلدباز	AAFIR	عافر
الموخر	171	سفیر	AAKIF	عاکف
الآخر	477	آستانہ	ATABAH	عتبہ
المنتقم	477	آبرو	IZZAT	عزت
القہار	315	قیمتی	IRDAM	عردام

نام	انگریزی	مطلب	حروف ابجد	اسم الہی
عرفی	URFI	مشہور	360	الباسط
عروج	UROOJ	رفعت	279	الرافع
عروسان	AROOSAN	پھول	387	المعز
عریف	AREEF	مشہور	360	السمیع
عزیز	AZEEL	ممتاز	117	الکریم
عسکری	ASKARI	جنگجو	360	الحق
عکاشہ	UKKASHAH	جالا	396	الحنی
عمیدر	AMEEDAR	نازک بدن	324	الموخر
عنایت	INAYAT	خشش	531	الآخر
عون	AON	مددگار	126	المنتقم
عوید	AWEED	مہربان	90	القہار
عیزار	AEZAR	مضبوط	288	الباسط
<b>غ</b>				
عاسق	GHASIQ	چاند	1161	الزافع
غشارب	GHSHARIB	یہادر	1503	المعز
غلام	GHULAM	بندہ	1071	السمیع
<b>ف</b>				
فارع	FARIE	بلند	351	الکریم
فاروق	FAROOQ	فرق کرنے والا	387	الحق

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحی	324	عاقبت	FARIJAM	فرجام
الموخر	135	وانا	FAHEEM	فہیم
الآخر	891	دریادل	FAYYAZ	فیاض
<b>ق</b>				
المنتقم	306	غالب، قہر والا	QAHIR	قاہر
القہار	540	کشتہ	QATEEL	قتیل
الباسط	540	فیاض	QATAM	قتم
الرافع	360	فاضل	QARNI	قرنی
المعز	360	مصاحب، دوست	QAREEN	قرین
<b>ک</b>				
السمیع	27	مختی	KABID	کابد
الکریم	270	سخی	KAREEM	کریم
الحق	126	تجربہ کار	KASOM	کسوم
الحی	81	طبیعت	KYAN	کیان
الموخر	90	عقل	KAIS	کیس
<b>گ</b>				
الآخر	81	نرم و نازک	GULAL	گلال
المنتقم	171	نازک	GULFAM	گلفام
القہار	279	دولت مند	GANJWAR	گنجوار

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
		ل		
الباسط	243	سچا	LARAIB	لاریب
الرافع	540	بیر شیر	LES	لیٹ
		م		
المعز	45	نرم و نازک	MAD	ماد
السمیع	81	قدرت	MAM	مام
الکریم	648	دولت	MABTOR	میتور
الحق	720	ازاد	MUTRIF	مترف
الحی	54	ذہن	MAIWAD	مجواد
الحق	450	عشق	MUHABBAT	مجت
الموخر	288	ہمراز	MAHRAM	محرم
الآخر	792	گناہ گار	MUZNIB	مذنب
المنتقم	297	عربی نام	MARWAN	مروان
القہار	117	بہس کھ	MUZLIM	مزلم
الباسط	117	سورۃ قرآن	MUZAMIL	مزل
الرافع	630	طالب	MUSTAEEN	مستعین
المعز	180	مبارک	MASOOD	مسعود
السمیع	180	مفلس	MISKEEN	مسکین
الکریم	234	آزمایا ہوا	MUSADDAQ	مصدق

اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
الحی	81	مراد	MATLAB	مطلب
الموخر	396	مشہور	MAAROOF	معروف
الآخر	180	استاد	MUALLIM	معلم
المنتقم	90	بادشاہ	MALIK	ملک
القہار	990	ڈرانے والا	MUNZIR	منذر
الباسط	99	راستہ	MINHAJ	منہاج
الرافع	180	بزرگ	MUNEEF	منیف
المعز	450	پیار	MUWADDAT	مودت
السمیع	259	رہنما	MUHTADI	مہتدی
الکریم	252	خوبصورت	MAHROZ	مہروز
الحق	351	چاند جیسا	MAHWISH	مہوش
الحی	99	ہندی تلووار	MUHAND	مہند
الموخر	315	بایاں بازو	MAISARA	میسرہ
<b>ن</b>				
الآخر	711	منسوخ کرنے والا	NASIKH	ناسخ
المنتقم	360	خوشی کرنے والا	NASHIT	ناشط
القہار	81	پانے والا	NAIL	نائیل
الباسط	107	نیک	NUBHAN	نہمان
الرافع	63	معتقد	NAJI	نجی



اسم الہی	حروف ابجد	مطلب	انگریزی	نام
المعز	351	بہادر	NAREMAN	نریمان
السمیع	360	خوش	NISHAT	نشاط
الکریم	369	خوش	NASHEET	نشیط
الحق	180	لمبی چھڑی	NASEEL	نصیل
الحی	369	عالم	NATEESH	نطیش
الموخر	450	نگار	NAQSH	نقش
الآخر	162	سرور	NAQEEB	نقیب
المنتقم	135	جوہر	NAGEENA	نگینہ
<b>و</b>				
القہار	90	پرامن	WADEEA	ودیع
الباسط	1107	ورثہ	WARASAT	وراثت
<b>ہ</b>				
الرافع	486	ندانے فرشتہ	HATIF	ہاتف
المعز	306	بہادر	HARMAS	ہرماس
السمیع	252	ستارہ	HURMAZ	ہرمز
الکریم	486	صاف و شفاف	HIFAT	ہفات
<b>ی</b>				
الحق	72	نیکی کا خدا	YAZDAN	یزدان
الحی	45	اندھیری رات	YALDA	یلدا

## عدد (9) ر۔ کھنے والے مرد حضرات کا خاکہ

یہ افراد نہایت مضبوط قوت، جلال اور دہد بے کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی قوت ارادی کے آگے لوہا بھی پگھل سکتا ہے۔ اور پہاڑ بھی ہل سکتا ہے۔ اب ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو اپنی ذات پر کس قدر اعتماد ہوتا ہے۔ اور ان کی یہی عادت ان کو کامیابی بہم پہنچا سکتی ہے۔ اور اس میں کوتاہی کرنے کا باعث یہ ناکامیوں کے اندھیروں میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مذہبی خیالات کو اپنانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا طرز عمل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہ کسی کام کے کرنے کیلئے سختی سے عمل پیرا ہو کر فوراً ہی بدل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہی عادت ان کو کبھی کبھی لے ڈوبتی ہے۔ ایسا ان کی فطرتی خود سری کے تحت ہوتا ہے اگر یہ ان عادات کو ترک کر دیں تو کامیابی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ بعض اوقات ایسے افراد جنونی طور پر جاہ و جلال کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اور اپنی بڑائی کو قائم کرنے کیلئے ہر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ جو ان کے نزدیک ان کی خواہش کی تکمیل کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ ان کا بیادہی نظریہ یہی ہے۔ کہ ہم دوسروں پر حکومت کرنے کیلئے پیدا ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے تمام لوگ ہمارے سامنے سرنگوں رہیں۔ اور ہم ان کے مالک بن جائیں۔ بعض حالات میں ان میں سے کچھ افراد ایسی طبیعت کے مالک نہیں ہوتے اور ٹھنڈے دماغ کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور اخلاق کے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ افراد دوست بنانے کے بے حد خواہش مند ہوتے ہیں۔ مگر اس عادت پر عمل کر کے اکثر یہ الٹا اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں ایسے بہت کم افراد ان کو ملیں گے۔ جو ان سے دوستی نبھاسکیں۔ کیونکہ یہ اپنی حاکمانہ فطرت کو چھوڑ نہیں سکیں گے۔ اور دوست ان سے باغی ہو کر ان کو چھوڑ دیں گے۔ بہر حال اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کیلئے نہایت عاقلانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے عمل میں قوت دخل ہوتا ہے۔ اور اس لئے یہ اپنے حلقہ اثر کو بھی اس طرح رو بہ عمل ہونے کیلئے مجبور کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں عموماً کامیابیوں سے پر ہوتی ہیں۔

## ان افراد کار و حانی فال نامہ

اسے ہفتے کی رات نہر کے کنارے میوہ دار درخت کے نیچے تکلیف پہنچی ہے۔ اس کی تکلیف کے باعث اس کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ شور مچاتا ہے۔ نیند میں گندی گفتگو کرتا ہے۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ اس کے جسم میں گرمی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر ایک پری کا سایہ بھی ہے۔ جو بہت ہی بد صورت اور بد اخلاق ہے۔ اور اس کا نام خیطاس ہے۔ اور یہ ہر وقت غصہ میں بیچ و تاب کھاتی رہتی ہے۔ اور نقصان کرنے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ اس کے باعث سر، چہرے، گردن، اور بعض اوقات تمام جسم میں درد رہتا ہے۔ جس کے باعث اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور پاؤں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب اس بد اخلاق پری کی وجہ سے ہے۔ ان تمام قباحتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے اس عزیمت کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے اللہ کے فضل سے یہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو سکے۔ اگر ایسا جادو کی طرف سے بھی ہوگا۔ تو باطل ہو جائیگا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم .إلا تعلوا علی واتونی مسلمین  
اللهم احفظ حامل هذا الدعاء بحق محمد ﷺ وعلی  
وفاطمة والحسن والحسین والائمة التسعة المعصومین من ذریة  
الحسین علیہ السلام وبحق اللهم احفظ صاحب هذا الكتاب من  
جميع الافات والبلیات ومن کل عین لامة واذن واعیة ولسان ناطقة  
ومن کل شیطان هامة وجن وجنة و غول و غولة وساحر وساحرة  
وكاهنة وبحق وینزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین ولا یزید  
الظالمین الا خساراً (فلان بن فلان)

یا حافظ	یا حنیظ	یا ناصر	یا نصیر
یا رقیب	یا وکیل	یا اللہ	یا اللہ
یا علیتنا	یا ملیتنا	خالتنا	مخلوقا
کافعا	شافعا	یا حافظ	یا حنیظ

## ان افراد کی بیماریوں کیلئے

یہ افراد اپنی تمام قسم کی بیماریوں سے مکمل نجات حاصل کرنے کیلئے اس عزیمت کو چاندی کے پترے پر کندہ کروا کر اس کو پانی میں ڈال کر ہر وقت اس کا پانی پیا کریں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ اللہ کے فضل سے اس روحانی علاج سے ان کی تمام امراض کا خاتمہ ہو گا۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم . لا اله الا هو الرحمن الرحيم . يا حافظ يا حفيظ يا حي يا قيوم . وننزل من القرآن ما هو چفاء ورحمة للمؤمنين ما لا لو ساور رضابتن دودعوة رد بليه ورجال الغرب وبحق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله هو الحق فلان بن فلان يا الله هو الحق فلان بن فلان

غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا
غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا
غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا
غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا	غوا غوا غوا

## اعصابی بیماریوں کے خاتمے کیلئے

ان آیات کو صبح نہار منہ چینی کی ٹشتریوں پر زعفران سے لکھیں۔ اور پانی میں گھول کر پی لیا کریں۔ ہر طرح کی اعصابی بیماریوں سے نجات ہو گی۔ اور اس نقش کو بھی زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔ اللہ کے فضل سے اس مرض سے مکمل نجات ہو گی۔ انشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم . الم ترالى الملاء من بنى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فى سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظلمين (فان بن فلان)

سو حلام تنو	عاقا - سو تنو	تواسو سماام	تواا قعو انا
قان سما حطا	هظنما یا سو	سما توا سو	مها توا طه تا قها
تواسو لھا سو روا	سو تنو اواقا سو	سو تو حتا سو	اور اتو کا دہ
عور او سفا ساوا	عانا اہ انا عانا	سو ستر سجا تر	جھا انا عا سو

### السر کے خاتمے کیلئے

حکمت کے طور پر اگر السر دماغی ہو تو تر پھلا استعمال کریں۔ اور اگر السر معدے میں ہو تو ایک پاؤدودھ آدھا کلو دھی اس کا ادھ رڑکا بنا کر نہار منہ پیئے۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آدھ کلو دودھ پینے کی عادت بنالیں۔ اس کے دوران سرخ مزج کا استعمال کم کریں۔ مزج آملہ بھی استعمال کرے۔ اور الاچی خورد کو چوستے رہے اوپر سے گزھ چوس کر اس کے پھوگ کو منہ سے گراویں۔ اور روحانی طور پر ان آیات کو مع اس نقش کے زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں ڈالیں۔

لا امم	الالم	لونیا لیما	لو عیا ملا نم
لیالھا	لبلاوا	الیانما	لا الا لا
الا لا تا	الا سو	الابو	لام بو
ھا و نا	ما لا لا	الا لام	فلان بن فلان

### درد سر سے نجات کیلئے

اگر سر میں درد بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہو۔ اور اس کے علاج کیلئے بھی صحیح تشخیص نہ ہو رہی ہو۔ تو اونٹ کے ایسے بچے کے بال حاصل کریں جس پر بارش کا پانی نہ پڑا ہو۔ ان بالوں کو حاصل کر کے ان کو توے پر ڈال کر اس کی راکھ حاصل کریں اور سر میں شدید درد ہوتے ہی اس راکھ کو سواز کے طور پر ناک کے اندر کھینچیں۔ سر درد سے نجات ہوگی۔ اور اس نقش کو لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ اللہ کرم فرمائے گا۔ انشاء اللہ

۲۵۲۲۷	۲۵۲۲۰	۲۵۲۲۳	۲۵۲۲۰
۲۵۲۲۲	۲۵۲۲۱	۲۵۲۲۶	۲۵۲۲۱
۲۵۲۲۲	۲۵۲۲۵	۲۵۲۲۸	۲۵۲۲۵

### ہر قسم کے پھوڑے کا خاتمہ

بیٹھا تیل ایک چھٹانک، آدھ چھٹانک نیلا تھو تھا طوطیا، آدھ یاؤرتن جوت، اور آدھا کلو سرسوں کا تیل ان تمام چیزوں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب یہ لال سرخ ہو جائیں تو اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ پھر لمل کے کپڑے کے ذریعے اس تیل کو اپنے پھوڑے و پھنسیوں پر لگائیں۔ ہر طرح سے مکمل علاج ہو گا۔ انشاء اللہ

### کان سے متعلق ہر بیماری کا علاج

اس روحانی اور طبی علاج کی مدد سے اگر کان کا پردہ بھی پھٹ گیا ہو گا۔ تو بالکل ٹھیک ہو گا۔ ایک گرام پرانا گڑ، ایک گرام انجون، پانچ دانے گندم، سفید لہسن کا پانی دو تولہ، ایک تولہ رتن جوت، ایک چھٹانک بیٹھا تیل، ان سب کو آپس میں ملا کر آگ پر رکھیں جب یہ سب کچھ گھل مل جائے۔ تو کسی طریقہ سے اس کا تیل نکال کر رکھ لیں۔ اور ڈراپر کی مدد سے پورے دن میں اس تیل کے قطرے استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے ہر طرح سے شفاء ہو گی۔ اور اس نقش کو اس مقصد و نیت سے زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔

یا قابض	یا قابض	یا قابض	یا قابض
۲۰۴۲۹	۲۰۴۳۲	۲۰۴۳۶	۲۰۴۳۲
۲۰۴۳۵	۲۰۴۲۸	۲۰۴۲۸	۲۰۴۳۲
۲۰۴۲۴	۲۰۴۳۸	۲۰۴۳۰	۲۰۴۲۷
۲۰۴۳۱	۲۰۴۲۶	۲۰۴۲۵	۲۰۴۳۷

## اگر ان افراد کو کسی سے محبت ہو جائے

اگر یہ افراد اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتے ہوں۔ اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہوں۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے۔ اور اپنے محبوب سے محبت بڑھانے کیلئے ان آیات کو عصر و مغرب کے درمیان اپنے محبوب کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں۔ ان کی محبت کے درمیان تمام رکاوٹیں اور جتنی بھی پریشائیاں ہوں گی اس عمل کی مدد سے ختم ہوگی۔ اور اس نقش کو اپنے محبوب اور اس کی والدہ کا نام لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ جائز محبت کامیاب ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم :وبحق لا اله الا الله محمد رسول الله بسم  
الله الرحمن الرحيم وبحق لا اله الا انت سبحنك انى كنت من  
الظلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد الكريم بحرمة امن يجيب  
المضطر اذا دعاه انا كفينك المستهزون بسم الله الرحمن الرحيم يا  
حي يا قيوم برحمتك استغيث بسم الله الرحمن الرحيم سهل ويسر  
رب لا تذرني فردا وانت خيز الوارثين بسم الله الرحمن الرحيم  
حسبى عن سوء الى علمك بحالى سبحان القاهر القادر الكافى بسم  
الله الرحمن الرحيم (فلان بن فلان على الحب فلان بنت فلان)

حملہ ہلہ الذات	واللوح والقلم	یا ربنا و صول	اوصل ندان
ندوا واصل المودة	بیتھما لطف	سلطیعا ہطون	اطوان تکتش
یوش هیورس	بہلیور الارکیا	فامیور شیا دوش	اشق اشقوم
محو اش بخلیط	جد فقوس نعلشا	قوم غلشا قش	مهر اقتشا حیوا
استھا ایرواح	العظام بالاسم	المھزون النکدن	اب یا سامم میون

## قاطع محبت

اگر ان افراد کے محبوب کے ساتھ کسی اور کا تعلق ہو اور یہ ان کے درمیان پھوٹ ڈلو کر پھر سے اپنی محبت قائم کرنا چاہتے ہوں۔ تو نیل، نوشادر، اور گندھک، کو آپس میں ملا کر اس

کی سیاہی بنائیں۔ اور اس نقش کو اس سیاہی میں گھول کر اس نقش سمیت اپنے محبوب اور اپنے فریق کے درمیان اس طرح سے پھینکے کہ ان دونوں کا اس پر سے گزر ہو۔ چند دنوں میں ان کی آپس میں پھوٹ پڑ جائیگی۔ پھر دوسرے نقش کو اپنے محبوب کا نام لکھ کر اپنے بازو پر باندھے۔ محبوب آئندہ کیلئے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریگا۔ اس عمل کو جائز جگہ استعمال کریں۔

ایا بدوح	۲۳۳۸۲۳	۲۳۳۸۲۳	ایا بدوح
	۲۳۳۸۲۲	۲۳۳۸۲۵	
فلان بن فلان	۲۳۳۸۳۱	۲۳۳۸۳۶	فلان بن فلان
فلان بن فلان	۲۳۳۸۳۷	۲۳۳۸۲۵	فلان بن فلان
ایا بدوح	۲۳۳۸۲۳	۲۳۳۹۲۰	ایا بدوح

### دشمن کو مغلوب کرنے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کا دشمن اس کو جان سے مارنا چاہتا ہو۔ اور اس کی کوئی اصل حقیقت بھی واضح نہ ہو رہی ہو تو اس عمل کو اپنے دشمن کی تصویر پر اس کے نام کے حروف ابجد کے مطابق پڑھ کر پھونکے اس کا دشمن اس کے حق میں مغلوب ہوگا۔ اور جب آکس دنوں تک پڑھنے والا عمل ختم کرے۔ تو اس نقش کو اس تصویر میں لپیٹ کر کسی پرانی قبر کے الٹی طرف دبا دے۔ اس کا دشمن ہمیشہ کیلئے اس کا نام تک بھول جائے گا۔ انشاء اللہ

والقینا بینہم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة (فلان بن فلان) مغلوب شود مغلوب شود مغلوب شود و بحق لعلک العداوة والبغضاء الی یوم القیامة ورب الاعلیٰ بلیسا و ناله مظلومون (فلان بن فلان) تباہ و برباد شود تباہ و برباد شود تباہ و برباد شود

یا قاہ	ذالبطش	الغدیہ	انت الذی	یقات
انتقام	یا قاہ	تقہ ت	القم	فی قبر
قبرک	یا قہا	یا نمل	تس	مید
تقہ	بزیز	سقطان	یا نمل	فلان بن فلان



## ترقی رزق و روزی کیلئے

ان افراد میں سے اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو یا یہ اپنے کاروبار کو اور زیادہ وسیع کرنا چاہتے ہوں تو اس دعا کو اپنے کاروباری مرکز پر بلا تعداد پڑھیں۔ اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر فریم کروا کر دوکان پر ایسی جگہ لگائیں جہاں تمام گاہکوں کی نظر پڑے۔ اللہ کے حکم سے ان کے کاروبار میں زیادہ ترقی ہوگی۔ اور اگر کوئی بدش بھی ہوگی۔ تو اس کا سارا اثر باطل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

بسم الله الرحمن الرحيم . يا رازق السائلين يا ارحم المساكين يا ولي المومنين يا غياث المستعثين يا ارحم الراحمين صل على محمد وال محمد وكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك يا اله العلمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین وبحق لا اله الا الله الملك الحق المبين (میرے رزق کو فراہم کیجئے) صدقہ اپنے محبوب ﷺ کا

اعوذ باللہ	الذی سكن	لہ فی البر	والبحر
وہابی السموات	والارض	وہو وسیع	البصیر خیر
الاسماء رب	الارض والسماء	باسم الذی	اسمہ بڑکتہ
وشفاء بسم اللہ	الذی یدہ	الشفاء	بسم اللہ
بسم اللہ الذی لا	یضر مع	اسمہ	شیء عنی الارض

## ادائیگی قرض کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی بھی سخت قسم کا قرض میں گھر گیا ہو۔ اور اس کے حل کیلئے کوئی بھی طریقہ نہ مل رہا ہو۔ تو سورۃ منزل شریف کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گیارہ مرتبہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پٹھے۔ اور کچھ شکر پر دم کر کے کیڑوں کو ڈال دے۔ اور روزانہ تا حصول مقصد اس نقش کو گیارہ مرتبہ لکھ کر آنے میں گولیاں بنا کر پھیلویں کو ڈال دیا کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرض کی ادائیگی کیلئے۔ غیب سے وسائل دینا شروع ہو جائیں گے۔

لا الہ الا	اللہ بزرگی و جباری	من لی سواب	مجاہد ارحم
الحکم اعطنی	فوضنا بفضلک	و برکت اللہم	یا اسیط البیدین
بالعظایا خبیر	انت بالغیب رحیم	انت بالعباد	یا ارحم الراحمین
وجل مقدار	ماوتیت من رخب	وغز اور اک ما	اولیت من نعم

### آسیب سے نجات کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی آسیب زدہ ہو۔ تو اس نقش میں تھوڑی سی ہینگ ڈال کر اپنے بازو پر باندھ لے۔ اور بروز پیر والے دن ایک کالے رنگ کا مرغ لا کر اس کو سارک رات اپنی چارپائی کے الٹی طرف باندھے۔ اور صبح سورج نکلنے سے پہلے کسی چوراہے میں چھوڑ دے۔ اور واپسی پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور جس رات سے یہ عمل کرنے جائے اس رات سے واپس نہ آئے۔ اللہ کے حکم سے آسیب کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ اور وہ جل جائیگا۔ یا بھاگ جائیگا۔ انشاء اللہ۔

ولقد فتنا	سلیمان والقیسنا	علی کریمہ	جدا ثم اناب
انہم یحیدون	کید او کید	کید امہبل	البحرین
اسمہلم روید	ویاحی صین	لا حی فی دیومۃ	ملکہ و بقا یاجی

### کوئی بھی اسلحہ اثر نہ کرے

اگر یہ افراد ان آیات کو دریا یا نہر کے اندر کھڑے ہو کر لکھ کر اپنے بازو یا گلے میں بندھیں تو اللہ کے حکم سے ان پر کسی بھی قسم کا اوزار یا کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کریگا۔ اس کی آزمائش کے طور پر اس کو تحریر کرنے کے بعد اس کو کسی مرغ کے گلے میں باندھ دیں۔ اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کریں۔ اگر کپ کے کسی بھی ہتھیار سے یہ زخمی ہو جائے تو پھر دوبارہ سے محنت لے کر اس نقش کو بنائیں۔ اور پھر دوبارہ اس کی آزمائش کریں۔ کامل محنت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وبخق الحفیظ ولا یوذہ حفظہما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وبخق وهو لقاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

وبحق ان ربي على كل شيء حفيظ لا اله الا الله محمد رسول الله  
وبحق وجعلنا السماء سقفا محفوظا لا اله الا الله محمد رسول الله  
وبحق فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد  
رسول الله وبحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر  
الله لا اله الا الله محمد رسول الله . بسم الله الرحمن الرحيم

### قید سے رہائی حاصل کرنے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کوئی ناجائز قید ہو جائے تو پانچوں وقت کی فرض نماز کے بعد اس کو  
ستر مرتبہ پڑھے۔ چند دنوں میں باعزت رہا ہوگا۔ اور اس نقش کو دریا کے کنارے پر تیار کر کے قید  
ہونے والے کو دے اور وہ اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ اللہ کے فضل سے رہا ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم يا غياثي عند كل كربه ومجيبى عند كل  
دعوة مادي عند كل شدة ورجائي حين تقطع حيلتي يا نبي لا تدخلوا  
من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنتني عكم من الله من  
شيء ان الحكم الا الله عليه توكلت وعليه توكلت وعليه فليتوكل  
المتوكلون يا خالص يا مخلص يا البري يا البري يا البري فلان بن

فلان برى برى برى

لا اله	الا الله	محمد	رسول	الله
يا الله	يا رحمن	يا رحيم	يا ستار	يا غفار
يا كريم	يا وهاب	يا بدوح	يا غفور	يا شكور
لا اله	الا الله	محمد	رسول	الله

### مسان سے حفاظت کیلئے

اگر ان افراد میں کوئی بچہ مسان کا شکار ہو گیا ہو۔ تو ایک بالکل سفید رنگ کا مرغ لیکر اس کو  
ایک ہفتہ تک اچھی طرح کھلایا پلایا کرے۔ اور روز اتوار کو اس کو ذبح کر دے اور اس کے خون سے یہ نقش  
لکھے اور اس پے کے گلے میں باندھے۔ اللہ کے فضل سے بچہ ہر مسان و آفت سے محفوظ رہے گا۔

۱۰۰۹۳۴	۱۰۰۹۳۷	۱۰۰۹۳۱	۱۰۰۹۳۷
۱۰۰۹۳۹	۱۰۰۹۳۸	۱۰۰۹۳۳	۱۰۰۹۳۸
۱۰۰۹۳۵	۱۰۰۹۳۲	۱۰۰۹۳۵	۱۰۰۹۳۲
۱۰۰۹۳۶	۱۰۰۹۳۱	۱۰۰۹۳۰	۱۰۰۹۳۱

### ہر طرح کی حاجت پوری ہونے کیلئے

ان میں سے جو فرد ہر روز اس کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء سو سو مرتبہ درود رکھے گا۔ اسکی دین اور دنیا میں جتنی بھی جائز ضروریات ہوں گی۔ اللہ اسکو پوری فرمادے گا۔ مجرب عمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ فِیْ جِوَادِ اللّٰهِ تَعَالٰی الَّذِیْ یَرَامُ وَلَا یَضَامُ وَلَا یَسْبَاحُ وَفِیْ ذِمَّتِهِ وَضَمَانِهِ الَّذِیْ لَا یَخْفُو ضَمَانُ عَبْدِهِ وَاسْتَمْسَكَتْ بِاَلْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی رَبِّیْ وَرَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخَذَهُ وَکِیْلًا تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ وَاعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ وَفَوَضْتُ اَمْرِیْ اِلٰی اللّٰهِ نَعْمَ الْقَادِرُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ خَیْرًا حَافِظٌ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ اِنْ وَّلِیَّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَلَ الْکِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ وَصَلٰی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ کَلِمَتِهِ لَقَدْ جِئْتُکُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رُوْءٌ فَرَحِیْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّی حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ وَیَحِقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ۔

### زیارت نبی کریم ﷺ

اس عمل کو کرنے کیلئے سب سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر اور باطناً شریعت کے مطابق بنائے۔ پھر اس کو کرنے کا ارادہ کرے۔ ورنہ فائدہ کی بجائے الناقصان ہوگا۔ ایک عدد تانبے کا چراغ بنوائے اور روزرات کو تا حصول مقصد چراغ کو جلا کر اس کو پڑھے اپنے لباس اور بستر کو خوشبو سے معطر رکھے۔ اور دوران عمل اور عمل کے بعد چراغ کو نہ چھائے۔ چراغ خود بخود بجھ جائیگا۔ اس کو اتنا پڑھے کہ اپنے آپ پر وجد طاری ہونے لگے۔ پھر اگر نیند کا غلبہ چھا جائے۔ تو اسی

بستر پر سو جائے اور نماز روزہ کی بھی پابندی کرے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مجسن یا مجمل یا منعم یا  
مفصل ارنی وجہ حبیبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
وبحق سلام قول من رب الرحیم

### مفرور کو واپس بلانے کیلئے

اگر ان افراد کا کوئی عزیز ان سے دور چلا گیا ہو اور ان کی خواہش ہو کہ وہ خود چل کر واپس  
ان کے پاس آئے۔ تو اس نقش کو اس آیت سمیت لکھ کر اپنے نچکے پر لگا دے۔ تاکہ وہ ہوا سے  
گھومے چند دنوں کے اندر حاضر ہو گا۔ انشاء اللہ

اللہم زد علی فلان بن فلان

۱۰۰۶۱۴	۱۰۰۶۱۷	۱۰۰۶۲۰	۱۰۰۶۰۶
۱۰۰۶۱۹	۱۰۰۶۰۷	۱۰۰۶۱۳	۱۰۰۶۱۸
۱۰۰۶۰۸	۱۰۰۶۰۳	۱۰۰۶۱۵	۱۰۰۶۱۲
۱۰۰۶۱۶	۱۰۰۶۱۱	۱۰۰۶۱۹	۱۰۰۶۲۱

### مرگی کے خاتمے کیلئے

اگر یہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو تانبے ن دھات پر ان آیات کو کندہ کروا کر کالے  
مرغ کے خون میں بھگو کر خشک ہو جانے پر اس پترے کو بند کر کے اپنے گلے میں باندھیں۔ مرگی  
کے مرض سے ہمیشہ کیلئے نجات ہوگی۔ اور ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی میں کالے گھوڑے کا سم  
لیکرا اس میں بند کر کے اپنے ہاتھ میں پہنے یہ اس مرض کے خاتمے کا ایک ٹونہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اثبوتا ثبوتاً سعیا ہما یدوس قدوس انہ  
علمون المص طسم کھیعص یس والقرآن الحکیم حمعسق والقلم  
وما یسطرون بحرمة محمد ﷺ والہ اجمعین

## یواسیر کے خاتمے کیلئے

یہ افراد یواسیر کے مکمل خاتمے کیلئے اس نقش کو پروز پیر یا جمہ زعفران سے لکھ کر اپنی کمر میں باندھے۔ کہ نقش پشت کی جانب رہے۔ یواسیر ختم ہوگی۔ انشاء اللہ

۹۵۵۵۳	۹۵۵۵۱	۹۵۵۶۱	۹۵۵۳۷
۹۵۵۶۰	۹۵۵۵۸	۹۵۵۵۳	۹۵۵۵۸
۹۵۵۳۹	۹۵۵۶۳	۹۵۵۵۵	۹۵۵۵۲
۹۵۵۵۶	۹۵۵۵۱	۹۵۵۵۰	۹۵۵۶۲

## بد نظری کے خاتمے کیلئے

اس دعا کو اس نیت سے لکھ کر زعفران سے اپنے گلے میں ڈالے۔ بد نظری کا خاتمہ ہوگا۔  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم . بسم اللہ عظیم الشان شدید البرهان  
 ماشاء اللہ کان حبس من یا بس وشهاب قابس اللهم انی رددت عین  
 العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ فی کیدہ وکلیتہ لهم دقیق وعظم  
 فیما لہ یلیق فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین  
 یقلب الیک البصر خسا وهو حسیر افحسبتم انما خلقنکم عبثا  
 وانکم الینا لا ترجعون لا الہ الا هو رب العرش الکریم فلان بن فلان

## ناف ٹل جانے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کو بار بار ناف ٹل جانے کی شکایت ہو۔ تو اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنی ناف کے مقام پر باندھے کہ نقش ناف کے اوپر رہے اللہ کرم فرمائے گا۔ انشاء اللہ

۲۷۴۴۳	۲۷۴۴۷	۲۷۴۴۰	۲۷۴۴۶
۲۷۴۴۹	۲۷۴۴۷	۲۷۴۴۲	۲۷۴۴۸
۲۷۴۴۷	۲۷۴۴۲	۲۷۴۴۵	۲۷۴۴۱
۲۷۴۴۹	۲۷۴۴۰	۲۷۴۴۹	۲۷۴۴۱

## تلی بڑھ جانے کیلئے

اگر ان افراد میں سے کسی کی تلی بڑھ گئی ہو۔ اور یہ اس کا روحانی علاج کرنا چاہتے ہوں۔ تو اس آیت کو زعفران سے لکھ موم جامہ کر کے اپنی کمر میں باندھے۔ اللہ کے حکم سے تلی اپنی اصلی جگہ پر آئے گی۔ اور ان کا یہ مرض جڑ سے ختم ہوگا۔ انشاء اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّكَم وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ یَمْسِیْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَزَوَلًا وَلَئِن زَالَتَا اِنْ اٰمَسْكُهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اِنَّهٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا یَا طٰحٰلًا اِرْجِعْ مَكَانَكَ بِحَقِّ اَصْحٰبِ النَّبِیِّ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ (فلان بن فلان)

## دوکان اور مکان کی ہر طرح سے حفاظت کیلئے

اگر ان افراد کے گھر یا دوکان میں آئینی اثرات ہوں۔ یا کوئی جن بھوت ہو۔ یا ان کے کسی دشمن نے سفلی علم کے ذریعے جادو کروادیا ہو۔ اور اس سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہو۔ تو اسماء اصحاب کف کو زعفران سے لکھ کر خوبصورت فریم کروا کر مین دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگائے۔ اور دوسرے اسماء ملعونہ کو کالی سیاہی سے لکھ کر دوکان میں بوقت عصر جلایا کرے۔ یا گھر میں صحن میں جلانے۔ ہر قسم کا جادو اور آئینی طاقتوں کا خاتمہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ یَمْلِیْخَا مَكْسَلْمِیْنَا كَشْفُوْطَطْ اذْرِ قَطِیْنُوْنَسْ كَشَافِطْ یُوْنَسْ یُوَانَسْ بُوَسْ وَاَسْمِ كَلْبِهِمْ قَطْمِیْرٍ وَّعَلٰی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِیْلِ وَمَنْهَا جَائِرٌ .

جلانے والے اسماء

اِبْلِیْسِیْمِ اِنْ قَارُوْنٌ مَّرُوْدِشْ دَا دَا اِبْلِیْسِی ط ل ی  
ق ا م ل ی ق ا ن ت ت ع ل م م ا ف ی ق ل و ب ه م ا ب ل ی س

## چور کو پکڑنے کیلئے

اگر ان افراد کی چوری ہو جائے اور چور کا کہیں بھی سراغ نہ ملے تو شکر فاتی مقدار میں لے کر اس کی ران پر ملنے کے بعد بچے نہیں پھر اس شکر ف کو پانی میں ڈال کر اس پانی پر ایک سو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور باہر نکال کر اس شکر ف کو اپنی ران پر ملے۔ اور ایک استرہ لیکر

جہاں پر شکر لگائی تھی۔ اس جگہ سے بال کاٹنے شروع کرے۔ اس عمل کو اس جگہ پر کرے۔ جہاں تمام چور افراد ان کے سامنے بیٹھے ہوں۔ کیونکہ یہ اس عمل کی بدولت یہ اپنی ران کے بال کاٹیں گے۔ اور چور کے سر کے بال کٹیں گے۔ درود اور ایسی پڑھنا ہے۔

### بڑی سے بڑی مشکل کا خاتمہ

اگر ان افراد کو اپنی زندگی میں ایسا کام پڑ جائے جو ان کیلئے نہایت ضروری ہو۔ اور اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوں۔ مثلاً یہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ باہر نہیں جاسکتے یا کوئی بہت زیادہ ان کا عزیز بیمار ہو اور اس کو صحت نہ ہو رہی ہو تو اس عمل کو ایسی کسی بھی نیت سے کیا جائیگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر بڑی سے بڑی مصیبت کا خاتمہ ہوگا۔ سورۃ یسین شریف کو اس پڑھنے کا معمول بنالے۔ کہ جب آیت سلام قول من رب الرحیم پر پہنچے تو اس کی سو مرتبہ تکرار کرے۔ اور پھر ہر ضرورت کے وقت اسی عمل کی زیادتی کر دیا کرے۔ ان کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اور ان کا ہر مقصد حل ہوگا۔ انشاء اللہ

### عدد (9) افراد کے دوست افراد

#### عدد (1) ستارہ شمس برج اسد

آتم، آزر، آذرب، آزرہ، آشاء، آمن، امان، اٹیل، اجتال، اخوان، اودیم، ارجا، ارجند، ارز، ارشاش، اشتر، اصطفیٰ، اعجاز، افراز، افق، اکرام، اکمل، امام، امن، انتخاب، انشا، اوج، لیا، ایثار، ایجاد، ایوب، برتر، برکت، بیامین، بہار، بہزاد، بھلول، تابش، تبریق، تذبیب، ترانی، ترجمان، تراہر، تسبیل، تصدیق، تفرید، تلمیذ، تلوین، توصیف، نمود، جدار، جدیر، جلال، جمل، جمالیگر، حاجز، حاضر، خزم، حسام، حسیم، حشمت، حقی، حمیس، حنان، خازن، خالص، خصال، خلوت، خلیط، دستگیر، دیان، دین، ذکاء، ذکی، راشد، راشد، راشد، رشاد، رشید، رمیل، زائر، زرق، زعم، ذکاء، ذکی، ساحت، ساطل، ساغر، سبر، سکندر، سلسال، سلمان، سمط، سیار، سماج، سنور، شادب، شامق، شہلی، شتاب، شخاز، شفیق، شمشیر، صبور، صداقت، ضاحک، ضافر، ضیاء، طاقت، طراز، طروب، ظفر، عازم، عاطر، عازر، عبادہ، عبود، عبیدہ، عروذہ، عزام، عزہول، عطار، عفت، عقیق، عمران، عمرس، عمرو، غازی، غاصف، غباشیر، غدن، غرز، فارح، فارض، فائق، فحیر، فریح، فضل، فواد، قاصف، قدیم، قمبر، کاثر، کافور، کامل، کاتب، کثیر، کلام، کلیم، کمال، گلبار، گنج، لاجورد، لمعات،



لیک، لوی، لیاقت، مالک، مان، مقل، متوکل، مجیب، مجیز، مختزن، محستان، محسود، مرئفی، مرصد، معاذ، معیذ، مقبل، مقیت، ملاک، ملکوت، مناس، منح، مومن، ممکن، نایک، ناشی، ناشی، ناظم، نایاب، نبل، نزاکت، نسران، نصوح، نشاطی، نظام، نقاش، نگار، نمود، نواز، نوح، نوشاد، واحد، واصل، واکل، وجاهت، وحید، وقار، ولی، باد، بارب، بارون، هاند، هانم، هجر، ہدی، ہما، یاسر، یزدانی، یاور، یسار، یسیر، یکن۔

#### عدد (4) ستارہ شمس برج اسد

آزاد، آخر، آل، اندر، اہلی، اہلال، اجلال، اخمر، احوز، اختر، اوران، ادہاب، اردشیر، ارزش، ارمان، ارہام، ازاد، اسبال، استحسان، اشعر، اصغر، اصلاح، اطیب، افتخار، اقتدار، انقصار، انجم، انیس، اوس، ایزد، باذل، باسم، بسام، بسیم، بصر، بقا، بھروز، تباہ، تاثیر، تاشفین، تمہید، تہیان، تھذیر، تصویر، تقسیم، تمیم، تواب، ٹپو، جادہ، جاذب، جالس، جال ثار، جاہد، جبران، جلیس، جمان، جھنڈ، چاند، چاہت، حالی، حباب، حریر، حصن، حمدان، حمود، حنیف، خدیر، ظلیل، خورشید، دانش، داور، ذکریا، ذوالقرنین، زاجح، رحیب، رخام، رضوان، روحان، زریاب، زکریا، زیاد، زین، سالار، سبات، سبحان، سیوح، بحیل، نخی، سر جان، سعادت، سمیر، سویدہ، شادان، شاذب، شانی، شاہد، شرف، شریح، شعیب، شعیر، شفیق، شکور، شمشیر، شہام، شہید، صاغر، صغیر، صفات، صغیر، صلوت، صنیع، صولت، ضرار، ضوفشاں، طارق، طائل، طاؤس، طرب، طریق، طنز، طویس، طہران، طیب، طیار، ظہور، عاتق، عبال، عبد، عبقری، عتیق، عثمان، عدنان، عرصم، عزیز، عندلیب، عین، غائب، غائر، غسان، قاکر، قاتق، فنی، فدا، فرنان، فرحد، فصام، فلک، فگار، فواز، فوزی، فہمید، فیاش، قاصر، قاطب، قراط، قستان، قدیر، قیصر، کرامت، کروٹی، کسام، گل رخ، گل رو، گلشن، گل عذار، گلشنال، گلزار، گلہار، گولر، گوہر تاب، لاذب، لازر، لطیفی، لعل، لائق، لیم، لیط، ماشل، مارح، ماصف، مانوس، متبطل، متفرد، ٹیل، محاط، محبوب، محترم، مخزن، مخلص، مخیر، مدام، مدید، مراتب، مرامر، مرجم، مزسوم، مزر، مستفیض، مستخیر، مسلمہ، مسیب، مسیطو، مشتاق، مشر، مشہود، مصطفیٰ، مصعب، معتز، مقتصد، مقدم، کرام، مناقب، موقر، میرال، ناچد، ناموس، ثار، ٹھی، نجید، نزاہت، نشید، نظور، نعمان، تکلین، نوازش، نور، نوفل، واثق، واسط، وحدت، وراہ، وفور، وہب، ہاشم، ہشام، ہصور، ہمایوں، یار، یاقوت، یحسوب۔

## عدد (2) ستاره قمر برج سرطان

آنحضرت، آذر، آریز، آفاق، ابدال، العمام، اشیم، اجمل، احسن، انکر، اخلاص، ارتاش، ارشاد، ارباب، ارزق، اسید، اشتیاق، اشهر، اصغر، اعجاز، اعوان، افضل، اقتداء، امان، امروز، امین، باذق، بخش، برکات، بلخ، بواب، پارس، تامر، تبارک، تبریک، تجلی، تجلای، تقسیم، تنزیل، توفیق، ثمر، ثناء، شین، جادل، جزاء، جعفر، جماش، جمال، جملاء، جمیل، حازم، حاسن، حاطب، حامز، حدیفه، حزم، حسان، حسرت، حلیف، خبیث، خبیر، خلیق، داهی، دلیل، دوست، ذکاوت، رازق، ربانی، رئیس، رضا، رضی، رکن، رمضان، زبر، سارب، سلاست، سلیمان، سید، شاداب، شاذ، شاهر، شایان، شجر، شامک، شمیل، شهاب، شترزاده، زهیر، صاب، صاحب، صافر، صبح، صفوان، صیمان، صنان، ضابط، ضلع، طارف، طالع، طریف، ظافر، ظراف، ظریف، ظفیر، عاقب، عالمگیر، عاکل، عرک، عقار، عقب، عکرمه، علی، عنبان، عوز، فاضل، فاطر، فتح، فہیل، فرمان، فروزان، فضیل، فلاح، قاضی، قانت، قدرت، قدس، قربان، قرف، قرلیج، قزل، تقام، کیف، کیقباد، گل تر، گوگا، گوہر بار، لبان، لطف، لجان، ماکت، مامون، مبارک، مبشر، متوکل، مجتہد، مجرب، محران، مدار، مزاد، مرام، مرتاص، مرث، مرزوق، مرصاد، مرید، مستان، مستبد، مستعان، مسرور، مسج، مشاش، مطهر، مظہر، معنی، مغیث، مقطع، ممتاز، منصب، منظر، منعم، موافق، منبر، میمون، نایل، ناہ، نبال، نجار، نجیب، نشوان، نصرت، نفیس، نقاد، نورانی، نوشاہ، نوشیر وائل، واسح، ہادی، ہیکل، یگی، یمان، یمنین۔

## عدد (7) ستاره قمر برج سرطان

آبک، آرت، آرزو، آشیب، آفتاب، آمر، ابد، ابراہیم، ابریق، احمد، ارتضاء، ارساخ، ارشق، ارکب، ارم، ازہار، اسماعیل، اقرار، اکبر، الفت، امر، انصر، اورنگ، اوصاف، باد، بادشاہ، باشی، بازیذ، بختیار، بداء، برار، بہالت، بغار، بخر، بلیغ، بیلا، تاجور، تاشف، تاب، تاجر، تبریز، تبسم، تجاسر، تصعید، تطہیم، تقویم، تبید، حکمین، کنفیلد، جسارت، جوہر، جیش، چراغ، حارث، حاشم، حسین، حشام، حفص، حقانی، حلیم، حمد، خازر، خضر، دلاور، ذخار، ذلاقت، راصد، راقم، راکب، رباب، رستم،

دشیق، رعد، رفاقت، روشن، ربیعان، زائل، زخار، زمیت، زوار، سادات، سحر، سراج، سرتاج، سرور، سطوت، سفینه، کینن، سهام، سعیر، سیم، شارق، شبر، شفقت، شبنام، صادر، صارم، صمان، صبح، صرام، صلت، صلیل، صمیر، صیان، میرم، ضاهر، ضغام، طارم، طالش، طین، طراد، طرفس، طلال، طلوع، طمار، لٹمل، عانس، عاطف، حامد، عامل، عباس، غزن، عدید، عدیم، عروئی، عربیس، عشرت، عکاس، عماد، عمید، عمیم، عنبر، غادی، غالب، غنا، غنی، فاز، فائز، فخر، فروتن، قابل، قابوس، قانظ، قبیل، قنوم، قدر، قدوه، قمر، کابر، کاظم، کبار، کبیر، کسمان، کرار، کفایت، کلمانی، گلبدن، گلستان، گوهر ریز، لبیق، لحن، لطافت، مبرور، مبروک، مستقدم، مجددی، محنت، محذور، محک، محرب، محشود، مدران، مرتبت، مرصود، مزن، مسرت، مصالح، مطیب، معاد، مفتاح، مقبول، منتصف، مودب، مہامت، مہتاب، میر، مینو، ناجح، نازش، ناصر، ناطق، نجیع، نخبش، نسیم، نصر، نصار، نصیر، نظر، نقی، نوید، واضعی، وزیر، وصی، وفتیق۔

### عدد (3) ستارہ مشتری برج قوس و جوت


آشفتہ، آغا، آفاقی، آفریدہ، آلف، آسو، ابتدا، احتشام، احزی، احسان، اخلاق، ارادت، ارژنگ، ازیر، اسرار، اسید، اشہل، امبارح، الظفار، اعتماد، اعظم، افضال، اقدس، الیاس، امجد، انس، اندک، بارز، باسل، خنت، مختار، بدین، بزل، بھارت، تاملہ، تحفیظ، تشبیب، تصور، تطمیر، جگن، تلاطم، تنصیر، تنظیم، توفیر، تمار، ثابت، ثانی، جاحظ، جاسر، جمیس، خوم، خواجہ، خوشتر، خیام، ڈابر، ڈاکر، ڈریر، ڈکیر، ذلیق، ذوالکفل، ربیع، رسیل، رفعت، ریاض، زبیر، زرار، زید، سالک، سجد، سبیل، سبیل، سراج، سفیان، سمر، سندس، شادام، شجان، شزر، شرجیل، شعب، شفا، شفق، شمیم، صاعد، صالح، صدف، صعد، صلاح، صومر، طاب، طائر، طفیل، طیب، ظل، عابر، عارب، عاشق، عاصم، عاقل، عبقر، عبل، عبیر، عتق، عجب، عرش، عصام، عفان، عقیل، عوض، عید، غازل، غاضر، غصیر، غلر، غلر اف، غفیر، غمیر، غمیس، غنڈر، غوث، فاتح، فاروق، فاتح، نسیم، فراست، فصاحت، فقیر، فلٹان، فوز، فیصل، قاسم، قدسی، قدیس، قہد، قسام، قسیم، قطب، توام، تویم، قیوم، کاردار، گاہش، کواکب، کیفی، گلپاش، گلستان، گنجینہ، لجنین، لحاظ، لزیق، لصیف، لطاف، لطفی، لطیف، ماثر، ماجد، مبرم، مین، مترب، متور، مثاب، مخ، مٹیب، مجددی، مجید، محاسب، محافظ، محدث، محزون،

مدبر، مدرب، مدعو، مران، مرسلین، مستطهر، مستنصر، مجبور، مشیث، مطاع، مطیع، مظاہر، معشوق، مفیض، مکارم، مکرم، مکیث، کلین، منار، مناظر، منتسب، منشعب، منیب، منیر، موانس، ماجل، مادر، نافع، نجد، نجم، نریم، زہبت، وامق، وکیل، ہانی، ہلال، یامین، یورش، یوسف۔

### عدد (۹) کے مخالف افراد

#### عدد (5) ستارہ عطار درج سنبلہ و جوزا

آخذ، آذین، آرب، آصال، احتراز، احسن، ارب، اسرائیل، اسلم، اشرف، اشفاق، اعزاء، الہام، اطمس، انب، انور، اولیس، ایزد، باصر، باعد، باقی، باصو، بدیع، برع، برجیس، برق، بطل، بہت، بہرام، پاک، پیر، تابدار، تارز، ثجل، تفضل، تکثیر، تلقین، تنظیم، توقیر، تیسیر، ثمن، جارح، جاسم، جسیم، جلالت، جواد، حاجب، حجاب، حصان، حکم، حیات، خاقان، خالد، خانز، خزیرہ، خلیفہ، دریز، ولداز، ذمیر، ذوق، رابط، دہبط، رحیل، رزمی، رریق، رماز، ریاست، زیاد، زبید، زجاج، زرقم، زلال، زیان، ساجد، ساطع، سخاوت، سعود، سفاح، سلام، سلیم، سوهنا، سہار، سیما، شادال، شارح، شارف، شجاع، شجیع، شریف، شعیل، شفاعت، شزور، شہسوار، صابر، صائم، صمیر، صدق، صریر، صفدر، صندید، صیقل، ضامی، ضیغم، طہ، طیب، طرار، طلعت، طلیق، طسم، عابد، عاتک، عاغل، عارو، عامر، عباد، عجیل، عرفان، عروف، عفوس، عمار، عمیر، عنصر، عویص، عواد، فادی، فاطن، فرزین، فصیح، فطرت، فطین، فقید، فیضان، فیوض، قانع، قائل، قصال، قدیل، قنوب، کاشف، کشی، کفیل، گل، رگ، لاس، لائق، لصیق، لقا، لمح، لیتق، لینہ، ماہد، ماجی، مامن، ماوراء، متبرک، متوفی، متین، مجتبیٰ، مجتہبی، محبت، محتشم، محسن، محراق، مرج، مرزا، مہلب، ناشاد، ناصح، ناہل، نراس، ندیم، نذر، نشتر، نصیف، نطفی، نطفی، نواب، نوار، نویر، نہال، نہیل، نیاز، واجد، واسطی، واشد، واعظ، واہب، ولید، ہرشم، تیم، یاسین، یگانہ۔



FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.










فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.



Rs 120/-

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

2156, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002  
 Ph.: 23269786, 23260786, 23289159, Fax: 23279998, Res.: 23262486  
 E-mail: farid@ndf.vsnl.net.in • Websites: faridexport.com • faridbook.com